


ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

چئیرمین تحریک ”آؤ قرآن کی طرف“
سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ



وجہِ باری تعالیٰ اور توحید



کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصور اور اثبات توحید

خلق کائنات، نظام کائنات، دلائل عقلیہ، استدلال قرآنی، کائنات کا تصور جدید، دلائل متفرق، التوحید

وحدیاری تعالیٰ اور توحید

مؤلف

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید

سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
کیشنل ٹرسٹ

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

اس کتاب کے کسی بھی حصے کی فوٹو کاپی، سکننگ کسی بھی قسم کی اشاعت
مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔

آپ کے مشورے اور شکایات کے لئے۔

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

سرورق : JBD آرٹ سیکشن، لاہور

لے آؤٹ : فواز نیاز

قیمت : 225 روپے



ناشر: ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

سٹاکسٹ: جہانگیر بک ڈپو، آفس: 257 ریواز گارڈن، لاہور۔ فون: 042-7213318

فیکس: 042-7213319 ای میل: info@jbdpress.com سیلز ڈپو: اردو بازار، لاہور

فون: 042-7220879 سیلز ڈپو: اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-2765086 سیلز ڈپو: اقبال روڈ

نزدکیٹی چوک، راولپنڈی۔ فون: 051-5552929

، اندرون بوہڑ گیٹ، ملتان۔ فون: 061-4781781

سیلز ڈپو: کوٹوالی روڈ، نزدائین پور بازار، فیصل آباد۔ فون: 0333-4469077

نیاز جہانگیر پرنٹرز، غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور نے پرنٹ کی۔ فون: 042-7314319

انتساب

اللہ جل جلالہ، کے نام

مری انتہائے نگارش یہی ہے
ترے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

گزارش احوال

محترم ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کی تفسیر ”انوار القرآن“ ان کی دیگر علمی و دینی تصانیف کی طرح بے حد مقبول ہوئی اور ہزاروں افراد نے اس سے از حد استفادہ کیا۔
محترم ڈاکٹر صاحب 7 مئی 2002ء کو شہادت کے رتبہ عالیہ پر فائز ہوئے اور قرآنی تعلیمات ولا تقولو المن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء کے مطابق ہمیشہ کی زندگی پاگئے۔

شہادت سے چند روز قبل آپ نے اپنی جملہ تصانیف جس میں انوار القرآن (اردو) انوار القرآن (انگریزی) تفسیری ترجمہ، خطبات حرم، نور الہدیٰ، قرآن آسان، اسلام کی چار بنیادیں، وجود باری تعالیٰ اور توحید، **Islam and its Rationale**، شاہ ولی کا فلسفہ مابعد الطبیعات، اسلام اور محمدؐ پر بہتانات، محسن عالم، محسن اعظم، ہادی اعظم، **Socio Economic System of Islam**، ضابطہ حیات، مکالمہ، آخر کیوں؟ رہبر کامل، صراط مستقیم، دعائیں ہی دعائیں، نعتوں کا مجموعہ اور دیگر مسودات میرے اور اپنی بیٹی بشریٰ مجاہد (میری اہلیہ) کے حوالے کئے اور ہماری یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہمیں ان کی انتہائی مفید عام تصانیف اور لٹریچر کو لوگوں تک پہنچانے کا اہم فریضہ سرانجام دینا ہے۔ انہوں نے محترم علامہ رانا فضل الرحمن نعیم کو بھی اس کام کے سلسلہ میں معاونت کرنے کے لیے کہا۔

ہمیں از حد خوشی ہے کہ ان کے ارشاد گرامی کی تعمیل میں ہم آپ کی تصانیف کو منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نافع الناس بنائے۔ (آمین)

مجاہد حسین بودلہ
ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور
فون: 5122016
موبائل: 0320-4812883

فہرست مضامین

۴	حوالہ جات کے بارے میں طریق کار
۱۵	پیش لفظ
۱۷	پیش لفظ طبع عالی
۲۳	حصہ اول: تخلیق کائنات
۲۵	باب ۱: حادثہ یا منصوبہ؟
۲۹	باب ۲: اتفاق؟
۳۳	باب ۳: حادثہ یا قدم؟
	(چند معروف سائنس دانوں کی تحریروں سے اقتباسات)
۴۰	باب ۴: عدم سے وجود تک
۴۶	فصل الف۔ جمادات
۴۹	فصل ب۔ نباتات
۵۲	فصل ج۔ حیوانات
۵۳	باب ۵: تخلیق انسانی
۶۳	باب ۶: تنوع
۶۵	— تنوع میں نظم
۶۵	— نظریہ جین
۶۸	باب ۷: ربوبیت
۷۵	حصہ دوم: نظام کائنات
۷۵	باب ۸: یکسانیت و عمومیت

۷۶

— علت و معلول

۸۱

باب ۹ : مسئلے کا واحد حل

۸۲

— ایک اہم اقتباس

۸۶

باب ۱۰ : انسانی فطرت کے تقاضے

۹

باب ۱۱ : حسن و جمال

۹۶

باب ۱۲ : نظم و ترتیب

۹۶

— کردار رضی

۹۶

— پورے

۹۶

— زندگی

۹۶

— آنکھ

۹۶

— کان

حصہ سوم:

۱۰۱

باب ۱۳ : برہان تکوینی

۱۰۲

فصل الف۔ علت اولیٰ

۱۰۷

فصل ب۔ مسئلہ حادث و قدیم علم الکلام کی روشنی میں

۱۰۹

باب ۱۴ : برہان غایت

۱۱۲

باب ۱۵ : برہان اخلاق

۱۱۶

باب ۱۶ : دو ٹوک فیصلہ

حصہ چہارم:

۱۱۹

استدلال قرآنی

۱۲۰

باب ۱۷ : قلب و نظر کی زندگی

۱۲۵

روشن جمال یا رے ہے انجمن تمام

باب ۱۸ : قرآن مجید کا طرز استدلال

وجود باری تعالیٰ پر دلائل

ایمان فطری امر ہے

تین قسم کے دلائل

اسی پہ سب کی انتہا!

توحید پر دلائل قرآنیہ

برہان قانع

باب ۱۹ : قرآن کا تصور خدا

یہود، ہنود، نصاریٰ اور مجوسیوں کا تصور خدا

بندہ و خدا کے درمیان رشتہ محبت

بعض اسما و صفات الہیہ کی شرح

محبت کے ہادی و جہانی تصور سے گریز

گنہگاروں کے لئے بھی سراپا محبت

باب ۲۰ : اعجاز قرآنی — قرآن مجید کے حیران کن سائنسی انکشافات

مطالعہ فطرت

کائنات و حواں ہی و حواں تھی

زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی

دنیا کی تمام اشیاء جوڑا جوڑا پیدا کی گئیں

جانات میں سبز مادے کی اہمیت

حاصل آور ہوئیں

دودھ کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں قرآن مجید کا انکشافی

۱۳۹

۱۳۹

۱۳۹

۱۴۱

۱۴۵

۱۴۷

۱۴۹

۱۵۱

۱۵۳

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۸

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۶۹

۱۷۰

۱۴۱. بلندی پر سانس کی تنگی
۱۴۲. رودھ کا احساس جسم میں صرف جلد کو ہوتا ہے
۱۴۳. پہاڑ زمین کی میخیں ہیں
۱۴۳. سمندر میں تہ بہ تہ موجوں اور تہ بہ تہ اندھیروں کا قرآنی تصور
۱۴۴. قرآن مجید میں سورج اور چاند کا تصور
۱۴۵. سورج اور چاند کے مداروں کا وجود
۱۴۷. سورج اپنی منزل کی جانب رواں ہے
۱۴۹. یہ کائنات توسیع پذیر ہے۔ قرآن مجید کا انکشاف
۱۴۹. زمین سکڑ رہی ہے
۱۸۰. فرعون موسیٰ کی لاش کے بارے میں قرآن مجید کی پیش گوئی
۱۸۲. کم سے کم مدت حمل
۱۸۵. باب ۲۱ : چند اہم پیشین گوئیاں جو پوری ہوئیں
۱۸۵. عظیم و حیران کن امور درپیش ہوں گے
۱۸۶. عظیم و بلند عمارتوں کی تعمیر و زیبائش
۱۸۷. زمین کی مٹائیں کھنچ جائیں گی
۱۸۹. نطق الجہاد : بے جان اشیاء باتیں کریں گی
۱۹۰. علمی ترقی اور دین سے ناواقفیت
۱۹۱. تجارت میں وسعت
۱۹۱. خواتین کی زیب و زینت
۱۹۲. عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی مشابہت کریں گے
۱۹۲. شراب نوشی اور کثرت زنا

۱۹۳	سوڈی کاروبار کا غبار کی طرح پھیلنا
۱۹۳	دل کے دورے اور ناگہانی موت
۱۹۵	کلام حسین اور اعمال بد
۱۹۵	جماد بالسیف کی معطلی
۱۹۶	علماء حق کا باقی رہنا
۱۹۶	یہود کا تسلط اور وصال کا خروج
۱۹۹	حصہ پنجم: کائنات کا تصویر جدید
۲۰۰	باب ۲۲: سائنسی نظریات اور حقائق ثابتہ میں فرق
۲۰۳	حرکیات حرارت کا دوسرا قانون اور کائنات کا نقطہ آغاز
۲۰۷	باب ۲۳: کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصور اور اثبات توحید
۲۱۵	باب ۲۴: ان دیکھی دنیا
۲۱۵	علم و معقول میں یکسانیت
۲۱۵	حد اور اک سے پرے
۲۱۸	ایٹم، ہوا، درد، کشش ثقل
	لہریں، جذبات، محبت، خوشی و غصہ
۲۲۰	اور ایمان بالغیب
۲۲۳	باب ۲۵: دانش اعلیٰ
۲۲۳	حقیقت حیات
۲۲۵	وحدت و دانش
۲۲۲	جہلت
۲۳۵	باب ۲۶: لیبارک اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء

۲۳۵

جنین کا جسمانی عمل

۲۳۷

ناک کا عمل — نظام تنفس

۲۳۹

حقیقت ارتقاء

۲۴۲

باب ۲۷ : فلسفہ مابیت

۲۴۳

مابیت کے دو روپ — سرمایہ داری اور اشتراکیت

۲۴۳

سرمایہ دارانہ نظام

۲۴۵

اشتراکی نظام

۲۴۶

اسلام کا معتدلانہ نظام

۲۴۷

مابیت کی شکست

۲۵۰

حصہ ششم: دلائل عقیدہ متفرقہ

۲۵۱

باب ۲۸ : دلائل متفرقہ

۲۵۱

جزو اپنے کل کو پیدا نہیں کر سکتا

۲۵۱

مادہ روح و عقل کا خالق نہیں ہو سکتا

۲۵۲

مادی کائنات انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہے

۲۵۳

انسان صاحب ارادہ ہونے کے باوجود بے بس ہے

۲۵۳

خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آفاقیت

۲۵۶

باب ۲۹ : چند اہم گفتگوئیں

۲۵۶

کیا خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے؟

۲۵۷

کیا خدا کے بارے میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟

۲۵۹

اگر خدا کہیں سے نکل آیا تو؟

۲۵۹

خدا کو کس نے پیدا کیا — ایک پچگانہ سوال

۲۶۳

باب ۳۰: التوحید

۲۶۵

توحید کی تین قسمیں:

۲۶۵

توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت

۲۶۵

باب ۳۱: توحید اسماء و صفات

۲۶۷

عیسائیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کی تجسیم صفات

۲۶۸

شرکت فی الصفات اور علم غیب کا مسئلہ

۲۶۸

باب ۳۲: توحید الوہیت یا توحید عبادت

۲۷۱

باب ۳۳: حقیقت شرک

۲۷۸

شرک کی تین قسمیں

۲۷۸

ربوبیت میں شرک

۲۶۸

توحید اسماء و صفات میں شرک

۲۹۷

توحید الوہیت یا توحید عبادت میں شرک

۲۷۹

شرک کی تین اور قسمیں:

۲۷۹

شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی

۲۸۲

عبادت طاغوت

۲۸۳

طاغوت کے معنی

۲۸۳

باب ۳۴: شرک کے اسباب

۲۸۶

پہلا سبب: بزرگوں کی تعظیم میں غلو

۲۸۶

دوسرا سبب: تجسیم صفات الہیہ

۲۸۹

تیسرا سبب: درمیانی واسطے

۲۸۹

- ۲۹۳ چوتھا سبب : کشف و کرامات
- ۲۹۵ پانچواں سبب : صفات الہیہ میں شرک
- ۲۹۷ چھٹا سبب : اسباب دنیا پہ بھروسہ
- ۲۹۹ باب ۳۵ : مشرکین مکہ اور موجودہ دور کے مشرکین کا مقابلہ
- ۳۰۳ باب ۳۶ : لا الہ الا اللہ کا مطلب
- ۳۰۴ الہ کا مطلب
- ۳۰۶ لا معبود الا اللہ
- ۳۱۰ تمام اعمال عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص
- ۳۱۱ (نماز، دعا، ذبح، نذر، خوف، توبہ، استعاذہ، استعاذہ)
- ۳۱۲ لا محبوب الا اللہ
- ۳۱۱ الحب للہ (اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا)
- ۳۱۶ لا متصرف فی العالم الا اللہ (صرف وہی صاحب اختیار ہے)
- ۳۲۲ مشرکین عرب کا عقیدہ
- ۳۲۳ لا مرجو الا اللہ (صرف وہی امیدوں کا مرکز ہے)
- ۳۲۷ لا مرجو الا اللہ (صرف وہی ڈرنے کے لائق ہے)
- ۳۲۲ باب ۳۷ : وسیلہ اور توسل
- ۳۲۳ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ
- ۳۲۷ امام ابو حنیفہ اور امام قدوری کی رائے
- ۳۵۳ باب ۳۸ : فضیلت الشہادتین (کلمہ شہادت پر ایمان لانے کی اہمیت)
- باب ۳۹ : نواقض الشہادتین : وہ امور جو ایمان کے ختم ہو جانے کا باعث ہیں
- ۳۵۸ ایک غلط فہمی

۳۵۹

غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ

۳۶۳

مطلقاً غیر اللہ کے لئے عمل

۳۶۵

غیر اللہ کی اطاعت

۳۶۶

غیر اللہ کو حاکمیت یا قانون سازی کا حق دینا

۳۶۸

غیر شرعی و غیر اسلامی نظام پہ رضامندی

۳۶۹

اسلام کی کسی بات کو ناپسند کرنا

۳۷۱

اسلام کا ظاہر و باطن الگ الگ ماننا

۳۷۱

اصل توحید سے گھبراہٹ

۳۷۲

اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محرومی

۳۷۳

رسول اللہ کی صحیح معرفت سے محرومی

۳۷۵

دین کا عملاً ترک کرنا

۳۶۷

کفار و مشرکین سے تعاون

۳۶۷

مسلمانوں کی تکفیر یا کفار کی عدم تکفیر

۳۷۸

کتابیات

حوالہ جات کے بارے میں طریق کار

آئندہ صفحہ پر "کتابیات" کے تحت تمام متعلقہ کتب اور حوالہ جات کے تفصیلی کوائف درج کر دیتے گئے ہیں۔ ان کوائف میں ہر حوالے سے متعلق نام مُصنّف، نام کتاب، شہر، نام ناشر اور سن طباعت درج کر دیتے گئے ہیں۔ ہر کتاب کے لیے الگ اور مستقل سلسلہ نمبر مقرر کیا گیا ہے۔

چنانچہ جہاں کہیں کسی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کتاب کے تمام کوائف بار بار نہیں درج کیے گئے بلکہ اس کتاب کا سلسلہ نمبر لکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کتاب کا صفحہ نمبر دے دیا گیا ہے۔ اس سے وقت اور جگہ کی بہت بچت ہوگئی ہے۔ حوالہ جات کا یہ طریق کار تقریباً جدید ترین ہے اور مغربی ممالک کے تحقیقی اداروں میں مستعمل ہے۔

ایک مثال ملاحظہ ہو، حاشیہ میں حوالہ اس طرح سے درج ہوگا :

۴ : ص ۳۸

اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کتاب یا حوالہ جو کتابیات کے سیریل نمبر ۴ پر درج ہے، اس کا

صفحہ نمبر ۳۸ ملاحظہ ہو۔

پیش لفظ

سیدی و مولائی حضرت سید ابوبکر غزنویؒ کے مسلسل اصرار بلکہ حکم پر میں نے یہ کتاب لکھی اس کا اکثر مواد انہی کی زیر نگرانی ترتیب دیا گیا تھا۔ بہاولپور میں قیام کے دوران موصوف نے اس کی تصحیح بھی فرمائی اور اسے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے شائع کرنا چاہتے تھے مگر عمر نے ان سے وفاتہ کی۔

حیف در چشم زون صحبت یار آخر شد

روتے گل سیر ندیم و بہار آخر شد

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایک ایسی کتاب جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے سامنے آئی چاہیے جس میں سابقہ کتب کی طرح منطقی خشکی نہ ہو اور نہ ہی فلسفیانہ مصطلحات کی بھرمار۔ بلکہ خالص قرآنی انداز میں اس دور کے جدید نیم خواندہ نوجوانوں کی تشکیک کا علاج کیا گیا ہو۔ قرآن مجید نے اپنا انداز اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ
فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَةُ
الْحَقِّ - رُحْمَ سَجْدَةٍ: ۵۳

عُنُقَرِيْبِهِمْ اِنْ كُوِاْ بِنِيْ اَشْيَا اَفَاقٍ مِّنْ
بِهِ دِكَايِيْهِمْ اَوْ اِنْ كُوِاْ بِنِيْ اَفَاقٍ مِّنْ
بِهِ دِكَايِيْهِمْ اَوْ اِنْ كُوِاْ بِنِيْ اَفَاقٍ مِّنْ

کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔

چنانچہ زیر نظر کتاب میں انفس و آفاق سے وجود باری تعالیٰ پر دلائل دیتے گئے ہیں اور پرانے منطقی انداز گفتگو کو کیر چھوڑ دیا گیا ہے۔

جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر
سناٹا کر سکے۔ جو لوگوں کے روبرو ہے اور تم

ان کے پیچھے بے سب کو جانتا ہے۔ اور وہ
اس کے علم کے حصہ کا اعلاہ نہیں کر سکے مگر تمنا

وہ چاہے اس کا تخت آسمانوں کو اور زمین کو
سہلتے ہے۔ ان آسمانوں کو اور زمین کی نگرانی

اس کو تھکتی نہیں۔ اور وہی اوپر اور بڑا ہے۔
” وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،

غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے وہی
رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے

سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت
مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، بھیاں

سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا،
اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس

شُرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے
جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ

کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے
والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں ہر چیز

جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر ہی
ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔“

” وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ بندوں سے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ

لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا

يُؤَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ-

(البقرہ: ۲۵۵)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ- الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

الْمُتَكَبِّرُ، يُسَبِّحُ اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

(الحشر: ۲۲-۲۳)

هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ

اس موضوع پر لکھی گئی اکثر کتابوں میں منطق استخراجیہ کا سہارا لیا گیا ہے اور کبریٰ و صغریٰ کی مدد سے نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ طرز استدلال نہ صرف ناقص ہے بلکہ نمانوس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ طرز استدلال کہیں بھی اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ فطرت اور عقل سلیم کو سیدھے سادے عام فہم انداز میں اپیل کیا گیا ہے۔ کائنات کو بطور ایک کھلی کتاب کے پیش کیا گیا اپنے اندر جھانکنے اور غور و فکر کی دعوت دی گئی اور اس انداز سے دنیا میں نظام ترتیب، کمالِ خلاق اور حسن و جمال کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ صاحب عقل انسان یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ:

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کا رُکھو

(المؤمنون: ۱۴) سے اچھا کاریگر۔

ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ انداز گفتگو خشک ہونے کی بجائے دلچسپ ہو، اسلوب فلسفیانہ اور منطقیانہ نہ ہو بلکہ ادبی اور شیریں ہوتا کہ بات ذہن کی تنگنائے سے ٹکرا کر واپس نہ آئے بلکہ دل کے اتھاہ سمندر میں جاگزیں ہو جائے۔

مجھے سعادت حاصل ہے کہ اس کتاب کو اصلاح و مشورہ کی خاطر پاکستان کے بعض اکابر علماء نے پڑھا اور میری مدد فرمائی۔ خدا کرے میری یہ کاوش خالصتاً اسی کی رضا کے لیے ہو اور وہ قبول فرمائے۔ اگر اس کتاب کے مطالعہ سے نسل انسانی کا ایک فرد بھی اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان سے بہرہ فرمے ہو گیا تو میری محنت برآئی۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة

والسلام علی رسولہ الاتی محمد وآلہ واصحابہ

اجمعین

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

الْحَمِيدُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ“

دُبُرُوجِ : ۱۴-۱۶

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ-

رَبِّ اسْرَائِيلَ : ۲۴

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ

الْأَرْضِ“ دَالِ عِمْرَانَ : ۸۳

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ-

وَالْعَرَبِ : ۱۱۶

كُلُّ شَيْءٍ بِهَذَا هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ

الْحُكْمُ- رَقَصِصِ : ۸۸

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ- رَشُورِيِّ : ۱۱

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصِيرًا كَأَيْفَ

لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْ بِكَ بَخِيلًا آدَ

بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

رُيُوسِ : ۱۰۷

محبت کرنے والا ہے تخت کا مالک ہے۔

بڑی شان والا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے“

” اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ

پڑھتی ہو“

” اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب

اس کے زیرِ فرمان ہے“

” آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی

کی ہے“

” اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہی ہے اسی

کے ہاتھ میں فیصلہ کی طاقت ہے“

” اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سُننے

والا اور دیکھنے والا ہے“

” اور اگر اللہ تجھے مصیبت پہنچاتے تو اس کے

سوا اس کا دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ

تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے فضل و کرم

کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں

سے جس کو چاہے اپنے فضل سے تیار کرے

اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والا رحم

کرنے والا ہے“

پیش لفظ طبع ثانی

وجود باری تعالیٰ کے طبع اول میں بعض اہم ابواب شامل نہ ہو سکے۔ ان کا مواد میرے پاس غیر مرتب حالت میں مدینہ منورہ میں تھا۔ کتاب سامنے آئی تو شدت سے احساس ہوا کہ کئی جگہوں پر تشنگی رہ گئی۔

ہر چند کہ کتاب میں تقریباً تیس مزید ابواب کا اضافہ کر رہا ہوں لیکن اب بھی یہی احساس ہے

۵ ماہم چنان در اول وصف تو مانده ایم

وجود باری تعالیٰ کے ساتھ توحید کے اہم بحث کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ دوستوں نے شدت سے احساس دلایا کہ خدا کے وجود پر دلائل اپنی جگہ ضروری ہیں لیکن وہ لوگ جو وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں مگر توحید کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں، کسی طرح سے بھی کم توجہ کے مستحق نہیں۔ یہ بات خاص طور پر جدید دور کے مسلمان پر صادق آتی ہے۔

اب مجموعی طور پر کتاب مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہے:

- ۱۔ تخلیق کائنات
- ۲۔ نظام کائنات
- ۳۔ دلائل عقلیہ
- ۴۔ استدلال قرآنی
- ۵۔ کائنات کا تصور جدید
- ۶۔ دلائل متفرقہ
- ۷۔ التوحید

جن مباحث پر خصوصی زور دیا گیا ہے ان کا اجمالی خاکہ کچھ اس طرح کا ہے :

وجود باری تعالیٰ اور توحید پر قرآنی دلائل کا استقصاء کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیاتِ نفس و آفاق کے ذریعہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وجودِ خدا اور توحیدِ انسانی فطرت کا تقاضا اور اس کے ضمیر اور عقلِ سلیم کی آواز ہے۔ خدا کا تصور اور بندے کے ساتھ اس کے تعلق کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اسی حصہ میں قرآن مجید میں موجود ایسے حیران کن سائنسی انکشافات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو وحی کی زبان میں چودہ سو سال پہلے بیان کیے گئے مگر آج جدید سائنسی تحقیقات نے انہیں حقائق ثابت کر دیا۔ اس طرح سے آج کے دورِ جدید سے متعلق چند ایسی اہم پیشین گوئیاں بھی شامل کر دی گئی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آئیں اور دورِ جدید میں حیران کن طور پر حروف بحرف پوری ہو گئیں۔ یہ سچی پیش گوئیاں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولِ صادق ہونے کا ثبوت ہیں وہاں یہ وجودِ خدا اور آخرت پر بھی دلائلِ قطعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

کائنات، خدا اور آخرت سے متعلق جدید سائنس کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ کائنات کا وجود ایک اتفاقی امر ہے، کسی حادثہ کا نتیجہ ہے یا کسی تدبیرِ حکیم خالق کا منصوبہ؟ یہ عالم ازلی و ابدی ہے، یا عارضی اور رُو بہ فنا؟ حادثہ ہے یا قدیم؟ جمادات، نباتات، حیوانات اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کیسے وجود میں آئے؟ کیا مادہ میں تخلیقی صلاحیت ہے؟ کیا دنیا کی تمام چیزیں از خود پیدا ہو گئیں؟ عدم میں ہونے کے باوجود اپنی خالق بن گئیں؟ کیا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے اور اپنے جسم کا سارا داخلی نظام وہ اپنی مرضی سے خود ہی چلا رہا ہے؟ اس کا کنٹرول ٹاور کہیں باہر تو نہیں؟ کیا کائنات میں نظم و ترتیب، تنوع، حسن و جمال، مظاہرِ ربوبیت، نعمتوں کا خزانہ کرم، مؤدّت و رحمت، جبلت اور ہر طرف بکھرے ہوئے تخلیقی فن پارے یوں ہی وجود میں آگئے۔ اس میں کسی کی تدبیرِ حکیمانہ اور حسنِ تخلیق کو دخل نہیں ہے؟ پھر دنیا کے نظام میں وحدت، یکسانیت اور عمومیت قوانینِ فطرت کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ کئی جہات سے تیز گردش کرتی ہوتی زمین، طویل سفر پر رواں نظامِ ہائے شمسی، یہ کاپتی ہوئی منظم کائنات کروڑوں کروڑوں سال سے کسی بے قاعدگی، بے ضابطگی کے بغیر کیوں چل رہی ہے اور تباہی

کی مدح میں فرماتے ہیں:

إِنَّمَا كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ عِبَادٍ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خَاشِعِينَ۔ (الانبیاء: ۹۰)

”وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو امید اور ڈر کے ساتھ پکارتے تھے۔

اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے“

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ۔ (طہ: ۱۰۸)

”اور رحم والے کے ادب سے تمام آوازیں پست ہو گئیں“

یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے پیغمبر آتے۔ ایک تو جن پر خدا کے جلال و کبریا کی کا جلوہ تھا

ان کی تعلیم میں خدا کا خوف و خشیت طاری تھا۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ

السلام۔ دوسرے وہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا غلبہ تھا وہ اللہ کی محبت میں سرشار

تھے اور لوگوں کو مینجانہ محبت کی طرف بلاتے تھے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ

السلام۔ لیکن محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے جو امت و وسط کے نبی ہیں جن پر

اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال دونوں کا جلوہ عین اعتدال سے پڑا اور وہ ان دونوں صفتوں کی بزرگ

کبریٰ ہیں۔ ان کی شخصیت سے خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ عشق دونوں بیک وقت

جھلکے پڑتے ہیں۔

اور یہ حقیقت ہے کہ جسے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی اور خشیت سے محروم رہا تو

اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر اس کی نافرمانی تک کر گزرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جسے صرف اللہ

تعالیٰ کا خوف و خشیت نصیب ہوا اسے تقرب الہی کا درجہ مطلوبہ نصیب نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو

بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے نا امید کر دیتا ہے۔

اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوف و محبت کے کناروں سے ہٹا کر، جہاں سے ہر وقت

نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، خوف و خشیت اور رحم و محبت کے بیچ کی شاہراہ میں کھڑا کر دیتا ہے

کے حادثہ کا شکار کیوں نہیں ہوتی؛ انتہائی پیچیدہ تخلیقی مراحل، انتہائی پیچیدہ نظام و ضبط سیاروں کی انتہائی تیز گردشیں، ہر سیارہ اپنے مدار پر اپنی منزل کو رواں، کوئی بھی بال برابر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، کوئی بھی سیکنڈ برابر طلوع ہونے میں دیر سویر نہیں کرتا! یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؛ اس موضوع پر بہت سے معروف سائنسدانوں کی شہادتیں بھی اس حصہ میں شامل کی گئی ہیں۔

کتاب میں معروف عقلی دلائل شامل کیے گئے ہیں مگر حتیٰ الوسع سادگی اور اختصار کے ساتھ، فلسفہ اور علم الکلام کی مصطلحات کے بغیر بات کی گئی ہے۔ اس میں بُرہان تکوینی، بُرہان غائی اور بُرہان اخلاقی کچھ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ شرک کے وجود کی مصلحت بھی قوی دلائل و امثلہ سے بیان کر دی گئی۔ فلسفہ سے ہٹ کر وجودِ خدا پر بعض دل میں جاگزیں ہونے والی آسان و سادہ براہین بھی پیش کر دی گئی ہیں تاکہ عام قاری فائدہ اٹھا سکے۔ اس موضوع پر بعض ملاحظہ سے کچھ اہم گفتگوئیں بھی مختصراً درج کر دی گئی ہیں۔ قاری خود فیصلہ کرے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا؛ وہ نیم خواندہ لوگ جو سائنس اور عقل کے نام پر غیر سائنٹفک اور بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے جہلِ مرکب کو بڑے بڑے غلافوں میں چھپاتے ہیں، ان کا طلسم توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کتاب کا آخری حصہ توحید سے متعلق ہے۔ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت تینوں پر الگ الگ بحث کی گئی ہے۔ طاغوت اور شرک کی حقیقت اور اسبابِ شرک تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفصیلی شرح کی گئی ہے۔ کلمہ توحید کی علمی و عملی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہ امور بھی تفصیلاً لکھ دیئے گئے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں رہ سکتا بلکہ وہ دائرۂ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ اسے مسلمان بنے رہنے یا مسلمان کہلوانے پر کتنا ہی اصرار کیوں نہ ہو۔

میں نے اس کتاب میں، جہاں بھی ضرورت محسوس کی، اہل علم کی طویل عبارتیں حوالوں سمیت جڑوں کی تون نقل کر دی ہیں۔ اصل مقصد بھٹکے ہوئے نیم خواندہ لوگوں کو صحیح راستہ پر لانا ہے، اپنی علمی دھاک بٹھانا نہیں ہے۔ وجہ معلوم ہے کہ نہ مجھ میں علم ہے اور نہ ہی علمی دھاک کی توقع۔ ہاں وہ

اسی لیے کہا گیا ہے :

”الایمان بین الخوف والرجاء“

”ایمان ڈر اور امید کے درمیان درمیان ہے“

بندہ و خدا کے درمیان رشتہ محبت

انسان ان دیکھی چیزوں کا تصور صرف دیکھی ہوئی چیزوں کی تشبیہ سے پیدا کرتا ہے۔ اور اس طرح اُسے ان دیکھی چیزوں کا ایک تصور ذہن میں آجاتا ہے۔ بندہ و خدا کے درمیان محبت کے رشتے کی بھی یہی کیفیت ہے۔ انسان فطرۃً یہی چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی انہی مادی اور جسمانی رشتوں کے ذریعے سے ظاہر کرے جس طرح سے کہ وہ رشتے انسان اور انسان کے درمیان پاتے جلتے ہیں۔ چنانچہ خالق و مخلوق کے باہمی ربط و تعلق کے اظہار کے لیے بہترین اسلوب یہ سمجھا گیا کہ خالق کو یا تو باپ سمجھا جائے جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ یا خدا کو ماں کا درجہ دے دیا جائے جیسا کہ ہندوؤں نے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت میں خالق کو باپ قرار دے دیا گیا، بندہ و خدا کا رشتہ بیٹے اور باپ کا رشتہ بن گیا۔ اور ادھر ہندومت میں بے شمار دیویاں انسانوں کی مائیں بن گئیں۔

ہندوستان کی خاک میں میاں اور بیوی کا باہمی تعلق انتہائی عظیم سمجھا جاتا ہے چنانچہ خالق و مخلوق کے رشتے کو بھی یہی رنگ دے دیا گیا اور بندے کو بیوی اور خدا کو خاوند کا رتبہ دیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان میں سدا سہاگ فقرا۔ اسی تختیل کی مضحکہ خیز تصویریں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سدا سہاگ فقیروں نے ساڑھیاں اور چڑیاں پہن رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شوخیاں کرتے پھرتے ہیں۔

اسلام بندہ و خدا کے باہمی رشتے کو اس سے کہیں زیادہ گہرا، مضبوط اور استوار ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ محبت کے اس تختیل کو مادیت، جسمائیت اور انسانیت کی آلائشوں سے بائٹل پاک و منترہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق باپ، ماں اور شوہر کا تصور اس درجہ مادی اور جسمانی ہے کہ وہ اسے توحید کے صیح راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اظہار محبت کے اس اسلوب سے جس میں مادیت

ہستی جو اس کتاب کا موضوع ہے، اس کا قُرب اور اسی کی رضا اصل مقصود ہے۔ اس کی نظرِ کرم ہی ساعِل اُمید ہے۔ وہ جانِ تمنا ہے۔ اس کی محبت حاصل زندگانی ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ رحمت و محبت کا مصدر و منبع ہے۔ وہ عفو و کرم اور محبت کا سراپا ہے۔ اس نے کسی حال میں بھی اپنے آپ سے مایوس نہیں ہونے دیا۔ بس اس کی نظر چاہیے۔ میرے محبوب اتنا ذریعہ جلیل احمد صاحب (صدّ شعبہ انگریزی، گورنمنٹ کالج ملتان) کا ایک خوبصورت شعر مناسب حال ہے:

امید کہتی ہے اک دم ادھر کو اٹھے گی

خیال دیکھ رہا ہے تری نظر کا خیرام!

بہر حال یہ ایک ادنیٰ طالب علم کی ادنیٰ اسی کوشش ہے۔ اہل علم حضرات سے استفادہ کی

توقع ہے۔

اس کتاب میں بہت سے غیر مسلم سائنسدانوں کی طویل عبارتیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ درحقیقت جدید سائنس کی طرف سے وجودِ خدا پر شہادتیں ہیں اور وہ آفاقی دلائل ہیں جن کی طرف خود قرآن مجید مطالعہ و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ان عبارتوں کے نقل کرنے کا سبب ذہنی مرعوبیت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں مغرب سے مرعوب ذہنوں کا علاج موجود ہے۔ یوں سمجھیے کہ نرم مغرب سے چند جدید ترین آلات موسیقی درآمد کیے ہیں اور کچھ صاحبِ دل غزل سرا بھی۔ مگر جب راگ چھیڑا گیا تو یوں صدا آئی:

بشنو از نئے چوں حکایت می کند

از جدائی با شکایت می کند

اہل علم کے سامنے معذرت ہے کہ اس کتاب میں انہیں کہیں کہیں بعض دلائل کا تکرار محسوس ہوگا۔ یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے دراصل ان نوجوانوں کے لیے لکھی ہے جو علوم جدیدہ کے چند گھونٹ پیتے ہی بہک اٹھتے ہیں، دین سے ناواقف ہیں، تیراکی نہیں جانتے لیکن فلسفہ اور جدید عمرانی علوم کے سمندر میں جا گھٹتے ہیں۔ ذرا سا گہرا پانی آتا ہے تو ڈکیاں لینے

جمائیت اور انسانیت ہو، منع کیا گیا ہے اور ایسے تمام الفاظ کے استعمال کو شرک قرار دیا ہے۔

لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے، جہاں تک جذبات و احساسات کا تعلق ہے، بندہ و خدا کے باہمی تعلق کو اس سے بھی زیادہ گہری

اور مضبوط بنیادوں پر اُستوار کیا اور اس تعلق میں ان جذبات و عواطف سے انکار نہیں کیا جو ماں اور بیٹے یا باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں۔

لفظ "اللہ" عربی زبان میں اللہ سے نکلا ہے۔ اللہ کے اصل معنی ہیں غم، محبت اور تعلق خاطر کے ہیں۔ کہا جاتا ہے الہ الرجل یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی طرف شدت شوق و محبت سے متوجہ ہوا، یا اس کی پناہ پکڑی، یا اس کے ہاں سکون و اطمینان حاصل کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں: اللہ الفضیل بامقہ یعنی وہ تجھ جس کا دودھ چھڑایا گیا، بقیہ رہ کر ماں سے پیٹ گیا۔

حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی قرآن مجید کی آیات کے ترجمے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تھے "اللہ" کا ترجمہ وہ "من موبن" یعنی "دلوں کا محبوب" کیا کرتے تھے۔ اللہ تو اسم ذاتی ہے لیکن صفات میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ "رحمن" اور "رحیم" ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں یعنی رحم والا محبت اور لطف و کرم والا اور یہ دونوں رحم و کرم اور لطف و مہر کے معنی میں صفتِ مبالغہ کے صیغے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام "الرؤف" بھی ہے، رؤف کا لفظ "رأفت" سے نکلا ہے۔ اس کے معنی اس محبت اور تعلق خاطر کے ہیں جو باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام "حنان" بھی ہے، حنان کا لفظ "حن" سے نکلا ہے۔ "حن" اور "حنین" اس دردِ دل اور سوز و محبت کو کہتے ہیں جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔

یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ قرآن مجید ان رشتوں کا نام تو نہیں لیتا ہے یعنی خدا کو باپ یا ماں کہنا کسی صورت میں جائز نہیں رکھتا لیکن اس محبت، رأفت اور امانت کے جذبے کو ضرور ابھارتا ہے جو باپ اور بیٹے یا ماں اور بیٹے کے درمیان پاتی جاتی ہے۔ یعنی ان رشتوں کی وجہ سے محبت اور پیار

لگتے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں اُن ڈوبتے ہوؤں کو سہارا دینے کی کوشش کی گئی ہے وہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں وجودِ خدا اور توحید پر دلائل و براہین کے ذریعے انہیں ”تیرا کی کافن“ سکھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ڈوبنے سے بچاسکیں۔ اس کام کے لیے کئی مرتبہ بعض اہم اور موثر دلائل کو مختلف اسالیب سے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ تکرار کا یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک مشکل مگر اہم بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ دل میں اتر جائے۔

مجھے سعادت حاصل ہے کہ اس کتاب کے مسودہ کو پاکستان کے بعض اکابر علماء نے پڑھا اور میری مساعت فرمائی۔ میں خاص طور پر مندرجہ ذیل حضرات کا بے حد ممنون ہوں۔

۱۔ استاذی المکرم حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب دامت برکاتہم سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بہاول پور۔

۲۔ استاذی المکرم حضرت مولانا محمد ناظم ندوی صاحب مدظلہ العالی سابق شیخ الجامعہ بہاول پور، و شیخ الادب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔

۳۔ استاذی المکرم پروفیسر ایم سعید شیخ صاحب مدظلہم، ڈائرکٹر ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ لاہور

۴۔ الاستاذ المکرم حضرت مولانا پروفیسر عبدالحفیظ چوہدری صاحب، چترمین شعبہ علوم اسلامیہ انجینئرنگ یونیورسٹی۔ لاہور

میں اپنے سٹینوگرافر جناب شوکت صاحب، بیٹی صفیہ، بیٹی میمونہ اور بیٹی حافظہ محمد زید کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کے مسودے کی کتابت و تصحیح کا کام کیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس کام کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی خاتم المرسلین محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

اسلامک یونیورسٹی۔ مدینہ منورہ

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ

کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے بے تکلف استعمال کرتا ہے، لیکن ان رشتوں کا نام نہیں آنے دیتا۔ اور اس طرح سے مادیت اور جسمانیت کا تصور و تخیل لاسے بغیر وہ روحانی طور پر ان جذبات و عواطف کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس میں مزید شدت پیدا کرتا ہے۔

دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الودود“ ہے جس کے معنی ”پیارے“ اور ”محبوب“ کے ہیں یعنی وہ

ہستی جو مہر و محبت اور عشق کا سراپا ہو۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الولی“ ہے جس کے معنی ”یار اور دوست“ کے ہیں۔

تو بات واضح ہوتی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو بندے کا محبت کے مادی و جسمانی تصور سے گریز محبوب بھی قرار دیتا ہے۔ یار و دوست بھی اور اس کی

ذات میں پدرانہ شفقت اور ماں کی مامتا کا بھی بدرجہ اتم اظہار کرتا ہے لیکن اس تعلق کو مادی اور جسمانی معنوں میں ہرگز استعمال نہیں کرنے دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے باپ یا ماں کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ٹھیراتا۔ اور نہ اسے شوہر ٹھیرا کے بندوں کو سدا سہاگ فقیر نہیں بناتا ہے۔

عیسائیوں اور ہندوؤں سے یہی بنیادی غلطی ہوتی۔ انہوں نے مجاز کو حقیقت اور استعارہ کو اصلیت سمجھ کر پاک اور روحانی تعلق کو مادیت اور جسمانیت کے دائرے میں مقید کر لیا اور یوں وہ توحید کی بلند سطح سے نیچے گر گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ رشتہ حقیقت پر قائم رہنے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ آداب

محبت کا جانتا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے استعارات اور مجازات کے استعمال میں بہت احتیاط برتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مہر و کرم، عشق و محبت اور مغفرت کے تذکروں کے ساتھ آداب و لحاظ کے قواعد کو فراموش نہیں کیا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ اپنی محبت کا جو اظہار گنہگاروں کے لیے بھی سراپا محبت کیا ہے وہ معنوی طور پر اس قدر حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے اسی اظہار محبت پہی مرٹنے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھیے اپنے گنہگار بندوں کو خطاب فرماتے ہیں تو

کس قدر محبت سے ارشاد ہے :

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر: ۵۳)

”اے پیغمبر میرے ان بندوں کو پیغام پہنچا دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ تم
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ یقیناً تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہ بخشش
کرنے والا اور رحم کھلنے والا ہے۔“

کیا ٹھکانا ہے اس محبت اور شفقت کا کہ گناہگار بندوں کو یوں خطاب کرتے ہیں کہ اے
میرے بندو!

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت لوگوں سے کہا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا کوئی اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور
اس کو بخشتا۔
(مسند احمد بن حنبل، جلد ۵، ص ۴۱۴)

نیکوں سے اور اچھوں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے اور انہیں ڈھونڈتا ہے مگر گناہگاروں کو
صرف وہی ڈھونڈتا ہے اور اس کی رحمت و مغفرت انہیں بہارا دیتی ہے۔
صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کو شراب خوری کے جرم میں بار بار حضور کے سامنے لایا گیا
تو صحابہ میں سے کسی شخص نے اس پر لعنت کر دی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند
نہ آئی، فرمایا :

”لَا تَلْعَنَنَّ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ (بخاری، کتاب الحدود، باب ما یقرأ

من لعن شرب الخمر، صفحہ ۱۰۰۲)

”اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ اس کو خدا اور رسول سے محبت ہے۔“

جامع ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتے ہیں :

”اے آدم کے فرزندو! جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے اس لگاتے

حصہ اول

تخلیق کائنات

یہ کائنات کس طرح وجود میں آگئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے موجود ہے یا اس کی کوئی ابتدا بھی ہے؟ اگر یہ عدم سے وجود میں آئی ہے تو کیا اتفاقاً وجود میں آگئی ہے یا کسی طے شدہ منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے؟

یہ سوالات سوچنے سمجھنے والے انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ایک انسان کی اس کائنات میں کیا حیثیت ہے؟ اسے کس ڈھب سے زندگی گزارنی ہے؟ ان باتوں کا مندرجہ بالا سوالات سے گہرا تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی فکر کی تاریخ میں وجود باری تعالیٰ سے زیادہ اہم اور زیادہ دلچسپ موضوع اور کوئی نہیں رہا ہے۔

بعض لوگ جو خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں، تخلیق کائنات کے بارے میں کچھ اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں:-

”یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ازلی ہے۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ ہر لمحہ اس میں ارتقائی اور تخلیقی عمل ہو رہا ہے اور اس ارتقائی اور تخلیقی عمل کی صلاحیت خود مادہ میں موجود ہے۔“

بعض لوگوں کے نزدیک اس کائنات کی ابتدا تو یقینی ہے لیکن ان کے خیال میں یہ خود بخود کسی حادثہ یا اتفاق کے طور پر وجود میں آگئی ہے۔ کسی بدتر حکیم اور خالق کا اس کے بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی محض اتفاقات پر مبنی ہے۔

رہو گے میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں، مجھے پروا نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں مجھے پروا نہیں۔ اے آدم کے بیٹو! اگر پوری سطح زمین بھی تمہارے گناہوں سے بھری ہو پھر تم میرے پاس آؤ، اس حال میں کہ کسی کو میرا شریک بناتے ہو تو میں بھی تمہارے پاس پوری سطح زمین بھر معفرت لے کر آؤں گا۔“

(جامع الترمذی، البواب الدعوة)

کیوں نہ ہو اپنی شان میں خود فرماتے ہیں:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ - دَانِعَام: ۱۵۴

”اللہ نے از خود اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے“

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ رَاعِرَات: ۱۵۶

”اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے“

انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جو اس کے لیے سولہاں روح بن جاتی ہیں۔ ایک ماضی حال کی ناکامیاں اور ان کی یاد جنہیں غم اور حزن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے مستقبل سے متعلق بعض خطرات اور ان کی فکر جسے خوف و دہشت کہا جاتا ہے، یعنی خوف و حزن۔ یہی دو کاٹھے ہیں جو انسان کی زندگی میں درد و الم کا سبب ہیں۔ دیکھیے وہ آقائے رخمان و رحیم جب اپنے دوستوں پر رحمت و شفقت کا اظہار فرماتے ہیں تو کس قدر خوبصورت انداز سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے چین زار سے میں ان دونوں کانٹوں کو نکال کے پھینک دوں گا۔ ارشاد ہے:

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْتُ عَلَيْهِمْ وَاَلَهُمْ يُجِزُّوْنَ رِيُوَس: ۶۲

”ہاں خدا کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے“

کسی جگہ فرماتے ہیں:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہُ رَالْمَائِدہ: ۵۴

ان دونوں نظریات کے برخلاف انسانوں کی عظیم اکثریت ہر زمانے میں ایک خدا کے وجود کو
 مانتی چلی آئی ہے اور اسی کو اس کائنات کا خالق، مالک، منتظم اور مدبر قرار دیتی ہے۔ تمام انبیائے
 کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حتیٰ الٰہی کی بنیاد پر اسی عقیدہ کی تبلیغ کرتے چلے آتے ہیں۔

” وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اس کے بندے اس سے پیار کرتے ہیں“

اور کہیں فرماتے ہیں :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبہ : ۱۰۰)

” وہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور اس کے بندے اس سے راضی ہو گئے“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طریقوں سے حضرت انسؓ سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ : یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا چھوڑو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ صحابی نے عرض کیا : ”یا رسول اللہ! میرے پاس نہ تو نمازوں کا بڑا ذخیرہ ہے اور نہ روزوں کا اور نہ صدقات و خیرات کا۔ جو کچھ سرمایہ ہے وہ بس یہی ہے کہ خدا اور رسولؐ کی محبت ہے اور بس! حضورؐ نے فرمایا تو انسان جس سے محبت کرے گا اسے اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہؓ نے اس بشارت کو سُن کر اس دن جس قدر خوشی منائی اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں منائی تھی۔ مسلم، کتاب الادب، باب المروء من احب، بخاری کتاب الادب، باب ما جاء في قول الربيل وبك،

حدیث شریف میں ہے کہ میدان جنگ میں ایک عورت اپنے گشہ نپتے کو دیوانگی کے عالم میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سامنے جو بچہ بھی نظر آتا جوش محبت میں اسے چھاتی سے لگالیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے نپتے کو اپنے ہاتھ سے دکتی آگ میں ڈال دے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہرگز نہیں! آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی محبت اس ماں کو اپنے نپتے سے ہے خدا کو اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الولد۔

بندہ و خدا کا باہمی رشتہ و محبت ذیل کی دو آیتوں سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (بقرہ : ۱۶۵)

” اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں“

حادثہ یا منصوبہ؟

کسی بے آب و گیاہ جنگل میں اگر ایک کٹیانا نظر آجاتے تو مسافر فوراً یقین کر لیتا ہے کہ اس کٹیانا کو آباد کرنے والا ضرور موجود ہے۔ رابنسن کروسونے جب ایک غیر آباد جزیرے میں انسان کے قدموں کے نشانات دیکھے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ گذرا کہ یہ نشان آپ سے آپ جوڑ میں آگئے ہونگے اور اس غیر آباد جزیرے میں کوئی انسان نہیں ہوگا بلکہ اس کا دل ایک آدم زاد ساتھی کے مل جانے کی توقع پر بے حد سرور و شاداں تھا۔

تہ بہ تہ آسمان، اس میں سورج، چاند اور تارے ایک لگے بندھے نظام میں مدت سے اس طرح چل رہے ہیں کہ کہیں کسی حادثہ کی نوبت نہیں آتی۔ اگر اس انتظام میں کہیں معمولی سی خرابی بھی ہو جائے تو تمام سیارگان فلک آپس میں ٹکرا جائیں اور ساری کائنات پاش پاش ہو جائے۔ سورۃ یس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے :-

وَآيَةٌ لَّهُمَّ اللَّيْلُ - فَسَلْخُ مِنْهُ
النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلَمُونَ - وَالشَّمْسُ
تَجْرِي لِسُنَّتِ قَرْلَهَا - ذَلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - وَالْقَمَرُ قَدَرُهُ
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ -
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ -

اُن کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ ہم اس
میں سے دن نکالتے ہیں جبکہ وہ اندھیروں میں
گم ہوتے ہیں۔ سورج اپنے مدار پر رواں دواں
ہے۔ یہ منصوبہ ہے ایک زبردست اور باخبر
ہستی کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔
یہاں تک کہ کھجور کی پرائی ٹہنی کی طرح باریک
رہ جاتا ہے۔ نہ سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند
سے جاگڑا رہے اور نہ رات دن سے سبقت کر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. (مائده: ۵۴)

”مسلمانو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں وہ

ایسے لوگوں کو لاکھڑا کرے گا جن کو وہ پیار کرے گا اور وہ اس کو پیار کریں گے۔“

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - رآل عمران: ۳۱

”اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میری رپی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، خدا بھی تم سے

پیار کرے گا۔“

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا رَافِدًا (مریم: ۹۶)

”جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام کیے، رحمت والا خدا ان کے لیے (ارد گرد

ہر طرف) محبت پیدا کر دے گا۔“

دیکھ لیجیے محبت الہی کی یہ سب نیزنگیاں صرف اسلام ہی کے پردے پر نظر آتی ہیں اور عفو و کرم

رحمت و مغفرت کے بحرِ فوار کا یہ ساحل امید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دکھانے سے انسانیت کو

نظر آیا۔

سکتی ہے (اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے
نہیں ہو سکتے) تمام سیارگان فلک اپنے مقررہ
راستوں پر چل رہے ہیں اس سے سُرْمُوَاذِخْرَاث
نہیں کر سکتے۔

سُورِج، چاند اور ستاروں کا ایک مقررہ راستہ ہے اور وہ اس سے سُرْمُوَاذِخْرَاث نہیں
ہو سکتے۔ نہ سُورِج چاند کے مدار میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ چاند سُورِج کے مقررہ راستے کو اختیار
کر سکتا ہے۔ نہ کبھی دن اپنے مقررہ وقت سے پہلے شروع ہوتا ہے اور نہ رات کبھی اپنے وقت
سے پہلے یا بعد شروع ہوتی ہے۔ ہر کام ایک خاص پروگرام کے تحت، ایک عظیم منصوبہ کے
تحت چل رہا ہے۔

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - یہ ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی

رئیس: ۱۳۸) با علم ذات کا منصوبہ ہے۔

دنیا میں کہیں بھی ہمیں اچھی عمارت، خوبصورت باغ، عمدہ فیکٹری، یا کوئی اور قسم کا عمدہ خاکہ
یا نقشہ یا منصوبہ دیکھنے میں آتے تو سب سے پہلے خیال اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ ”عمدہ انجینئر
ہے“ ”قابل مالی ہے“ ”بہت ہی لائق نقشہ ساز اور منصوبہ ساز ہے“ یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ آسمان
اور زمین کے درمیان ہر طرف انتہائی عمدہ خاکے اور تخلیقی شاہکار بکھرے ہوئے ہیں اور ہمارے
دل کی گزرتیوں سے یہ نغمہ نہیں ابھرتا:

”تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ“ بڑا ہی باریکت ہے اللہ، سب کاریگروں

سے اچھا کاریگر۔

نقشہ یا منصوبہ یہ جو کچھ بھی ہے، دوہی اسباب سے معرض وجود میں آ سکتا ہے: اتفاق سے
یا منصوبہ بندی سے۔ اس کی تخلیق و ترتیب اور اس کے نظم و ربط میں جس قدر باریکی، پیچیدگی اور صحت
ہوگی اسی قدر اس میں اتفاق یا حادثہ کا عمل دخل کم سے کم ہوگا اور منصوبہ بندی میں ایک منصوبہ ساز

اعجازِ قرآنی

قرآن مجید کے حیران کن سائنسی انکشافات

یوں تو قرآن مجید ہر دور میں ایک معجزہ ہے لیکن سائنس کے جدید دور میں قرآنی اعجاز نئے ہی اسلوب میں نکلنے لگا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جوں جوں سائنسی علم اور حکمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے قرآن مجید کے فہم کے افق اور واضح اور نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سائنس اور فلسفے کا طالب علم جب اس دور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو آیات قرآنیہ اس سے عجیب و غریب انداز میں گویا ہوتی ہیں اور اس انداز سے ہم کلام ہوتی ہیں کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔

بہت سی باتیں ہیں جو کہ ڈیڑھ ہزار سال قبل بیان کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس لیے سمجھ میں نہ آسکیں کہ انسان کا فہم اور اس کی تحقیق و تفتیش کا درجہ اس فہم و بصیرت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا بہت سی باتیں جو کہ آج ہمارے لیے محض جدید انکشافات ہیں اور گذشتہ ایک ڈیڑھ صدی سے پہلے انسان کو ان کی ہوا بھی نہ لگی تھی قرآن مجید میں انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایسا کھلا ہوا معجزہ جو اپنی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ اور نہ ختم ہونے والی شہادت۔

ذیل میں ہم چند ایسے ہی امور کی طرف اشارہ کریں گے جو قرآنی اعجاز سے متعلق ہیں اور سائنس اور فلسفہ حکمت کے ہر طالب علم کو بزبانِ حال یہ دعوت دے رہی ہیں کہ:

دست ہر نا اہل بیمار کُند
سوتے ما در آ کہ تیار کُند

کے ارادہ و فکر کی جھلک نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔

ہمارے ارد گرد کائنات کا جو عظیم نقشہ موجود ہے اس پر ایک نظر ڈالیے اور پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے پوچھیے کہ آیا یہ محض اتفاق سے وجود میں آسکتا ہے؟ کیا یہ ایک حادثہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ فطرت کے اتنے اہل اور پیچیدہ قوانین کیا بغیر کسی قانون ساز کے وجود میں آگئے؟

کائنات کی تخلیق کو فقط ایک اتفاق یا حادثہ قرار دینا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ چھاپہ خانہ میں دھماکہ ہوا اور ایک ڈکٹری تیار ہو کر باہر آگئی۔ یا یہ کہ فرش پر پانی گر گیا اور وہاں زمین کا جغرافیائی نقشہ تیار ہو گیا۔ اس قدر طویل و عرض اور منظم و مربوط کائنات کی تخلیق کیا از خود ہو گئی؟ یہ کائنات اگر محض اتفاق سے وجود میں آئی ہے تو کیا واقعات لازمی طور پر وہی رخ اختیار کرنے پر مجبور تھے جو انہوں نے اختیار کیا، کیا اس کے سوا کچھ اور نہ ہو سکتا تھا؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ستارے آپس میں ٹکرائیں اور تباہ ہو جائیں۔ مادہ میں حرکت پیدا ہونے کے بعد کیا ضروری تھا کہ یہ محض حرکت نہ رہے بلکہ ارتقائی حرکت بن جائے؟

کائنات کی پیدائش ایک حادثہ... پھر زندگی کی پیدائش ایک اور حادثہ؟ اور پھر زندگی کے لیے تمام سازگار حالات کی پیدائش کیا محض حادثات ہی حادثات ہیں؟ کیا اس بھونڈی طرز کے فرار کے سوا کوئی اور توجیہ ممکن نہیں۔ اگر انسانی عقل صحت و سلامتی سے کچھ بھی آشنا ہے اور کسی حادثے کا شکار نہیں ہو گئی ہے تو اسے ضرور ایک ایسی توجیہ تلاش کرنی چاہیے جس میں کوئی جھول نہ ہو۔ حادثہ کا تصور تو بذات خود ایک بہت بڑا جھول ہے۔

اتفاق سے آنے والے تمام واقعات میں لزوم کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ سارے واقعات اس قدر حسن ترتیب کے ساتھ آریوں اور کھربوں سالوں تک تسلسل کے ساتھ کیسے جاری ہیں؟ اتفاق محض یا اصول تعلیل، کیا اس کی کافی توجیہ دے سکتے ہیں؟

اس سلسلہ میں ایک مغربی سائنس دان اور مفکر اے کریسی مارٹین نے بہت عمدہ مثال دی ہے وہ کہتا ہے: ”فرض کیجئے آپ دس اگنیاں لے کر ان پر نمبر اسے نمبر۔ اتک ہندسوں کے نشان لگا دیتے

مطالعة فطرت

دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے انسان کو مطالعہ کا نیا علم، حکمت اور قرأت و کتابت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آج سے چودہ سو سال قبل صحرا سے عرب میں نہ کوئی کتاب تھی نہ مصنف، نہ صاحب علم، اور نہ پڑھنے لکھنے کا رواج تھا بعض حضرات کے بقول اس وقت سارے عرب میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً دو درجن تھی جو اپنا نام یا خط لکھ سکتے تھے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس طرح سے:

اقْدَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْدَأْ وَرَبُّكَ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ (علق: ۱-۵)

”پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، بے ہوتے خون کے ایک
لوٹھرے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم
سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا“
یا پھر ایک جگہ قلم کی قسم کھائی جاتی ہے:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔ مَا أَنْتَ بِمُحْضُونٍ۔ وَالْقَلَمِ: ۱-۱۲

”قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھی جاتی ہے جو یہ لوگ لکھتے ہیں یعنی قلم اور لکھی ہوئی
چیزوں کی اور لکھی ہوئی کتابیں اس بات کی شاہد ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
دیرانے نہیں ہیں“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَبِمَا عَذَابِ النَّارِ وَالْعَمَانِ: ۱۹-۱۹۱

ہیں اور انہیں اپنی جیب میں ڈال کر خوب ہلایا جیتے ہیں۔ اب آپ انہیں دیکھیں بغیر ایک سے دس تک سلسلہ وار باہر نکلنے کی کوشش کیجیے اور ہر بار ایک سکہ نکال کر اسے دیکھنے کے بعد پھر سے جیب میں ڈالیے۔

پہلی بار نمبر ایک والی اکتی ہاتھ میں آجانے کا امکان ظاہر ہے کہ دس میں سے ایک کے برابر ہے لیکن اس بات کا امکان کہ آپ نمبر ایک اور نمبر دو والی اکتیاں ساتھ ساتھ نکال لیں (۱۰۰) میں سے ایک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح نمبر ایک دو اور تین والی اکتیاں اس سلسلے میں نکالنے کا امکان ایک ہزار امکانات میں سے صرف ایک ہے اور چار تک کا سلسلہ برابر قائم رکھنا دس ہزار صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں اغلب ہے اگر ایک سے دس تک کی اکتیوں کے سلسلہ وار برآمد ہونے کے امکانات کا اندازہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسی صورت میں دس ارب صورتوں میں سے فطری طور پر صرف ایک بار پیش آسکتی ہے۔

اس سادہ سے حسابی مسئلہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آپ اعداد کی اس افزونی کا کچھ اندازہ کر سکیں جو انہیں اتفاقات اور امکانات پر عائد کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

”زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔“

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ - البقرہ: ۲۶۹

”اور جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی

نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں“

فطرت اور کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ منتفی اور کہیں صاحب ایمان و یقین اور کہیں اصحاب فکر و دانش اور کہیں عالم اور کہیں اصحاب تدبیر و حکمت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً ہر صفحے پر اس قسم کی آیات ملتی ہیں۔

آیاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - ”یہ ارباب عقل کے لیے نشانیاں ہیں“

آیاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ - ”یہ اصحاب یقین کے لیے نشانیاں ہیں“

لآیاتِ لِّلْعَالَمِينَ - ”یہ اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں“

لآیاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - ”یہ اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں“

لآیاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ”یہ سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں“

لآیاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ - ”اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں“

قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی، فلسفی یا حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف اس قدر زور دار انداز سے توجیہ دلائی تھی؛ کیا کوئی شخص کسی ایسی بات کی دعوت دے سکتا ہے جس کی اہمیت کا انکشاف بارہ تیرہ سو سال بعد ہونا ہو؛ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان آیات

اتفاق؟

ہماری اس دنیا میں زندگی کے لیے لازمی صورتوں کا بہت بڑی تعداد میں موجود ہونا ضروری ہے اور حسابی طور پر یہ اندازہ تک نہیں لگایا جاسکتا کہ یہ سب صورتیں بیک وقت محض اتفاق سے جمع ہو سکتی ہیں پس قیاس چاہتا ہے کہ فطرت کے کاموں میں کسی نوع کی ذہانت ضرور کار فرما ہوگی۔ اس سلسلہ میں اسے کریمی ماریٹن کا ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے :-

”ظاہر طور پر ”اتفاق“ ایک مستقل، غیر متوقع اور حساب و شمار سے ماوراء شے معلوم ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کے عجائب ہمارے لیے خاصے حیرت آفریں ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتفاق بھی ایک سخت گیر اور ناقابل شکست قانون کی متابعت پر مجبور ہے۔ ایک پیسہ لے کر اگر تنوایں اُچھالا جائے تو زمین پر گرتے وقت اس کے پیش رخ کے سامنے آنے کا امکان دو میں سے ایک کی کیفیت رکھتا ہے۔ لیکن دس دفعہ اُچھالنے پر اس کے دسویں دفعہ سامنے آنے کا امکان بے حد خفیف ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ ایک تھیلی میں کاچ کی ایک سو گولیاں بھر لیں جن میں سے ۹۹ سیاہ اور صرف ایک سفید ہو اور پھر اس میں دیکھے بغیر ہاتھ ڈال کر ایک گولی نکالیں تو سفید گولی نکلنے کا امکان ایک سو میں سے ایک ضرور ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ ایک بار برآمد ہونے کے بعد یہ دوبارہ آپ کے ہاتھ آجائے تو اس اتفاق کا امکان دس ہزار میں صرف ایک ہوگا۔ سو (۱۰۰) کو ایک سو سے ضرب دیجیے؛ حاصل دس ہزار۔ اب اگر آپ تیسری بار بھی سفید

میں اور اس دعوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دانش فراست اور بصیرت کا فرما تھی۔
 عالمی شہرت یافتہ مُصنّف ”موریس بکلیتے“ اپنی کتاب ”بائبل قرآن سائنس“ میں لکھتے ہیں:-
 ”جب میں نے پہلے پہل قرآنی وحی و تنزیل کا جائزہ لیا تو میرا نقطہ نظر کلیتہً معروضی تھا، پہلے
 سے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس کی معلومات
 کے مابین کس درجے مطابقت ہے۔ تراجم سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن ہر طرح کے قدرتی حوادث
 کا اکثر اشارہ کرتا ہے۔ لیکن اس مطالعے سے مجھے مختصر سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جب میں
 نے گہری نظر سے عربی زبان میں اس متن کا مطالعہ کیا اور ایک فہرست تیار کی تو مجھے اس کام
 کو مکمل کرنے کے بعد اس شہادت کا اقرار کرنا پڑا جو میرے سامنے تھی۔ قرآن میں ایک
 بیان بھی ایسا نہیں ملا جس میں جدید سائنس کے نقطہ نظر سے حرف گیری کی جاسکے۔

اسی معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور اناجیل کے لیے آزمایا اور ہمیشہ وہی معروضی نقطہ نظر
 قائم رکھا۔ اول الذکر میں مجھے پہلی ہی کتاب آفریش سے آگے نہیں جانا پڑا اور ایسے
 بیانات مل گئے جو جدید سائنس کے مسئلہ حقائق سے کلی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے۔“

(۱۴:۱۰)

یہی صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں:-

”اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اناجیل کا مکمل طور پر مطالعہ کیا جائے تو عیسائیوں کو

بدرجہ غایت انتشار میں مبتلا کر دے۔“ (۶۶:۱۰)

کائنات دھواں ہی دھواں تھی۔

آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں دھواں
 ہی دھواں تھی اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ ہاں جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی
 تشکیل ایسے گسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی اس مقدار سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ

گولی ہی نکالنا چاہیں تو اس کا امکان دس لاکھ میں سے ایک ہو گا دس ہزار کو ایک سو سے ضرب دیکھیے حاصل ضرب دس لاکھ، اسی طرح چار، پانچ، چھ اور سات مرتبہ کے لیے حاصل ضرب کروڑوں سے لے کر کھربوں تک پہنچ جاتے گی اور سفید گولی کے مسلسل برآمد ہونے کا امکان اسی نسبت سے کم ہوتا چلا جاتے گا۔

امکان و اتفاق کے نتائج بھی اپنے قانون کے ہاتھوں اسی طرح بے بس ہیں، جس طرح دو اور دو کا حاصل جمع چار ہونے پر ابداً مجبور ہے۔

تاش کی کسی بازی میں جسے چار افراد کھیل رہے ہوں، اگر پہلے ہاتھ میں سب کو ایک ایک تیکہ مل جائے اور ایک ایک بادشاہ، ایک ایک سگم، ایک ایک غلام اور اسی طرح دہلا، نہلا حتیٰ کہ دُکی تک اسی طرح برابر تقسیم ہوتی چلی جائے تو کون ایسا بے وقوف ہے جو یہ نہ سمجھے گا کہ بانٹنے والے نے یہ تاش کے پتے پہلے ہی سے ایک ترتیب میں نگار کھے ہیں لیکن اس قسم کی قدرتی تقسیم کے خلاف امکانات اس قدر زیادہ ہیں کہ غالباً جسے تاش ایجاد ہوئی ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا اگرچہ بظاہر اس سے انکار نہیں کیا جاتا کہ ایسا ہونا ممکن ضرور ہے۔

ایسا ہونا ممکن ہے، عین اسی طرح جیسے کوئی اعلیٰ درجے کا شاطر شطرنج کی بساط اپنے سامنے بچھا کر کسی بچے سے کہے کہ ایک طرف کے ٹھروں کی اپنی مرضی سے ۳۴ بارخانہ بخانہ بڑھاتے جاؤ اور پھر بچہ اپنے ٹھرے محض اتفاقاً اس انداز سے بڑھاتا جاتے کہ شاطر کی ہر چال ناکام ہوتی چلی جاتے یہاں تک کہ ۳۴ حرکتوں میں اسے مکمل مات ہو جاتے۔ اس مات کھانے کے بعد شاطر غالباً یہ سمجھے گا کہ یا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، یا پاگل ہو چکا ہوں لیکن ہمارے بعض سائنس دانوں کے نظریات کے مطابق ”ایسا ہونا ممکن ہے“ ہاں صاحب یہ بالکل ممکن اور عین ممکن ہے۔

اتفاقات اور امکانات کی اس بحث سے ہمارا مدعا اپنے ناظر کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کرنا ہے کہ اس کتاب کا مقصد نگارش زیادہ تر یہ ہے کہ تنگ حدود کی واضح اور حکیمانہ توضیح کرنے کے بعد جن کے اندر رہ کر زندگی اس کرے پر قائم رہ سکتی ہے ٹھوس اور حقیقی شواہد سے یہ ثابت

گردش کر رہا تھا۔ یہ انجام کار متعدد ڈکٹروں میں بٹ گیا۔

اس دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو اب بھی دیکھا ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سے آج تک تارے بن رہے ہیں۔ دیکھیے ڈیڑھ ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری ہے:-

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَّا وَاوَّلَ الْاَرْضِ اٰتِيًا طَوْعًا وَّكَرْهًا
قَالَتْ اٰتَيْنَا طَّائِعِينَ رَحْمَ السَّجْدَةِ : (۱۱)

”پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا ”وجود میں آجاؤ، خواہ تم چاہو نہ چاہو“ دونوں نے کہا ”ہم آگے فرماں برداروں کی طرح“ مورس بکایتے لکھتا ہے:-

”کائنات کے ابتدائی مرحلہ میں ”دخان“ (دھواں) کی موجودگی جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جس سے مراد مادہ کے زیادہ ترگیسی حالت ہے صریحاً اس ابتدائی سیدم کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا ہے“ (۱۸۳:۱۰)

زندگی کی ابتدا پانی سے ہوتی :-

دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ اور پانی تمام جاندار خلیات کا جزو اعظم ہے۔ اور پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک جیالوجسٹ ابراہم ورنر (۱۷۵۰ء۔ ۱۸۱۷ء) تمام تبدیلیوں کو ایک ہی سبب یعنی پانی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پہاڑوں کی تعمیر پانی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ پانی میں سے وہ گیس بنی جو بطن زمین کے مواد کو باہر لاتی تھی اور وہاں کی آتش فشانی میں بھی پانی کا دخل تھا“ (۱۸۶:۵)

کیا جاتے کہ اس زندگی کے تمام اور عین میں شرائط اور کیفیات پوری صحت کے ساتھ ایک ہی کڑہ پر ایک ہی وقت میں محض اتفاق سے جمع نہیں ہو سکتی تھیں۔ زمین کا حجم، سورج سے اس کا فاصلہ، اس کا عام درجہ حرارت، سورج کی حیات افروز شعاعیں، زمین کے چمکے کی موٹائی، یہاں پاتے جانے والے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار، نائٹروجن کی ضخامت اور پھر انسان کا ظہور اور اس کی بقا، یہ سب امور ایک خفشار میں سے نظم اور قاعدے کی تخلیق، ایک باقاعدہ منصوبے اور مقصد کے قیام اور اس حقیقت کے اثبات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ریاضیات کے ناقابل تردید اصول و قوانین کے بموجب ان تمام عناصر کا محض ایک سیارے پر اور اربوں امکانات سے محض ایک امکان کے بل بوتے پر ایک وقت جمع ہو جانا ہرگز لائق تسلیم نہیں، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا جب اتفاق اس قدر زور دار ہوں اور جب ہم اپنی عقول کی ان خصوصیات کا بھی اعتراف کرتے ہیں جو یقیناً سراسر مادی نہیں ہیں، تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ شواہد و دلائل کے اس ناقابل تردید سلسلے کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور اربوں دوسرے اتفاقات میں سے فقط ایک امکان اور محض ایک اتفاق پر اس نظریے کی بنیاد رکھ دی جائے کہ ہمارا اور ہماری اس دنیا کا وجود کائنات میں واقع ہونے والے فقط ایک اتفاق کا مرہونِ منت ہے۔

اب ہم اپنی استعداد کے مطابق یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ کروڑوں امکانات اس بات کے خلاف اور صرف ایک امکان اس کے حق میں ہے کہ یہ ساری تکوین عالم فقط ایک اتفاق کا نتیجہ ہے۔ سائنس ہمارے بیان کردہ اتفاق کی تردید کی ہمت نہیں رکھتی اور ریاضی ہمارے اعداد شمار کی تائید کرتی ہے۔ اب ہمیں انسان کے اس ضدی ذہن سے مقابلہ درپیش ہے جو جامد تصورات کو بڑی مشکل سے ترک کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ قدیم یونانی یہ جانتے اور محسوس کرتے تھے کہ زمین گیند کی صورت رکھتی ہے، لیکن اہل علم کو اس سچائی کا یقین دلانے میں پورے دو ہزار برس لگ گئے۔“ (۷: ص ۱۶۴)

پیڑوں پر لگے ہوتے پھل... کھانے کے لیے نہیں، کیا کسی مدبر و حکم نے انہیں اس لیے پیدا

جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا کسی شخص کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتداء پانی ہی سے ہوئی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء: ۳۰)

”اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا“

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ (النور: ۴۵)

”اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا“

مورس بکارتے لکھتے ہیں :-

”قرآن میں شامل حیات کی ابتداء کے تمام بیانات جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ زندگی کی ابتداء سے متعلق جو اساطیر نزول قرآن کے وقت عام طور پر رائج تھے ان میں سے کوئی بھی قرآن کے متن میں مذکور نہیں ہے۔ (۲۳۵:۱۰)“

دنیا کی تمام اشیاء جوڑا جوڑا پیدا کی گئیں

اس دور میں سائنس دانوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تمام کی تمام نباتات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ ان میں ایک نر ہے اور ایک مادہ۔

مگر یہ بات اس زمانے میں جبکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کسی شخص کو بھی معلوم نہ تھی۔ لیکن قرآن مجید میں بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (لقمان: ۱۰)

”پس ہم نے زمین میں پودوں اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے“

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا ذَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (الرعد: ۳)

”اسی نے ہر طرح کے پھولوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں“

بِسْمِ الَّذِي خَلَقَ الْأَنْعَامَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

نہیں کیا کہ غذا کا کام دے سکیں؟ کیا یہ محض اتفاقاً انسان کے لیے قابل انتفاع ہو گئے ہیں؟
 کیا آنکھ محض اتفاقی طور پر دیکھنے کا کام کرنے لگی ہے۔ کیا یہ بناتی نہیں گئی؟ خود بخود بن گئی ہے
 اور اتنا باریک عمل بصارت از خود کرنے لگ گئی ہے۔

ایسی کائنات جس میں حکمتوں اور مصلحتوں کے خلاف یا ان کے بغیر کسی ایک چیز کی بھی شانڈھی
 نہیں کی جاسکتی، کیا محض اتفاق سے ہی وجود میں آگئی ہے؟ اور کیا محض اتفاق کے بل پر قائم بھی رہ
 سکتی ہے؟ اور پھر محض اتفاق کے بل پر روز افزوں ارتقاء کی جانب بھی مائل ہے؟

کیا ایسے کے ٹھہلے ہوئے حروف کو صفحہ قرطاس پر پھیر دینے سے خود بخود کوئی عمدہ افسانہ ترتیب
 پاسکتا ہے؟ کیا کروڑوں الفاظ کو کروڑوں سالوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ملانے اور پھیرنے
 کے عمل سے "دیوان غالب" مرتب ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا انسانی وجود، ہاں خود کائنات کا وجود، اس کا
 نظم و بقا، ایک افسانہ یا نظم سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے؟

مشر فرینک ایمن پر "نہر حیا" طبیعیات، مینی ٹوبا یونیورسٹی کینیڈا اپنے مضمون "تخلیق کائنات
 ایک حادثہ یا ایک منصوبہ" میں لکھتے ہیں:-

"صرف ایک پروٹین سلے کے اتفاقاً وجود میں آنے سے اس پوری کائنات کے موجود
 مادے سے کروڑوں گنا زیادہ مقدار برآدہ مطلوب ہوگی جسے یکجا کر کے ہلایا جائے گا اور اس
 عمل سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے کا امکان اربوں سال کے بعد پیدا ہوگا۔ پروٹین" امینو
 ایسڈز کے لمبے سلسلوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس
 طریقے کی ہے جس سے یہ سلسلے باہم ملیں۔ اگر یہ غلط شکل میں یکجا ہو جائیں تو زندگی کی بقا
 کا ذریعہ بننے کی بجائے مہلک زہر بن جاتے ہیں۔ انگلستان کے پروفیسر جے۔ بی۔ لیڈرنے حساب
 لگایا ہے کہ ایک سادہ سے پروٹین کے سلسلوں کو لاکھوں طریقے سے یکجا کیا جاسکتا ہے
 یہ کسی طرح عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک پروٹین سلے کو وجود میں لانے کے
 لیے اتنے بہت سے امیدا ز امکان اتفاقات بیک وقت صادر ہو جائیں۔

” پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس (نوع انسانی میں سے) یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں“

نباتات میں سبز مادے کی اہمیت :-

دورِ جدید میں سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ جب پانی نباتات پر ڈالا جاتا ہے تو نباتات میں ایک سبز رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفیل Chlorophyll کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے سے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ خَبًا مُتَوَاكِبًا - (الأنعام : ۹۹)

” وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کرتے ہیں“

حمل اور ہوائیں :-

ابھی ہم نے بیان کیا کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق یہ ہے کہ نر میں زرد رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو پولن Pollen کہلاتے ہیں۔ اگر یہ ذرات مادہ تک نہ پہنچیں تو بیج اور پھل نہیں لگتے۔ قدرت ان ذرات کو مادہ پھل تک پہنچانے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتی ہے۔ بعض پودوں میں دونوں قسم کے پھول ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جب ہوا یا بھونروں کے بیٹھنے سے شاخیں ہلتی ہیں تو پولن مادہ پھول پر گر پڑتا ہے، اگر مادہ اور نر پھول کے پودے الگ الگ ہوں تو عموماً ہواؤں سے کام لیا جاتا ہے۔ ہوائیں پولن کو اڑا کر مادہ پھولوں پر ڈال دیتی ہیں۔

پھر پروٹین خود ایک کیمیاوی شے ہے جس میں زندگی موجود نہیں ہوتی، اس میں زندگی کی حرارت تو اسی حالت میں پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر روح پھونکی جاتے۔ صرف ایک عقل کل ایک بے حد و نہایت ذہین یعنی خدا ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ زندگی کی آماجگاہ بننے کے لیے اس طرح کا سالہ موزوں ہو سکتا ہے۔ وہی اس سلسلے کی تخلیق کر سکتا ہے اور وہی اسے زندگی بخش سکتا ہے۔

(۳: ص ۳۳)

بھوزے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جب وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے زرخول میں گھستے ہیں تو پولن کی کچھ مقدار ان کے پروں اور ٹانگوں سے چمٹ جاتی ہے۔ اور جب وہ مادہ پھول میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ پولن وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ دریاؤں میں اُگنے والے پودوں کا پولن پانی میں سفر کرتا ہے۔ پرندے، گلہری، چوہے اور کیڑے مکوڑے بھی یہی فرض انجام دیتے ہیں۔ چونکہ پولن کی تقسیم کا بے بڑا ذریعہ ہوا میں اس لیے قرآن مقدس نے انہی کے ذکر پر اکتفا کی ہے۔ عربی زبان میں لقمہ کے معنی ہیں حمل کرنا۔ لقمۃ المرأة؛ یعنی عورت حاملہ ہو گئی۔

لواقح (یعنی حاملہ اونٹنیاں)۔ رِئِیحٌ لَّوَّاقِحٌ؛ حمل کر دینے والی ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَّاقِحٍ۔ (الحجر: ۲۲)

”ہم نے حاملہ کر دینے والی ہوا میں چلائی۔“

قرآن مجید میں ایسی حقیقت کا ذکر آجنا جس کا انکشاف آج سے دو سو سال پہلے ہوا اس امر کا اعلان ہے کہ:

تَنْزِیلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ کُتِبَ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهُ قَدْ اٰنَا عَرَبِیًّا
لِقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ۔ (رحم السجدہ: ۲-۳)

”رحمن اور رحیم رب نے ایک با علم قوم کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی جس کی آیات مفصل ہیں اور وہ عربی زبان میں ہیں (حوالہ: ۶: ۲۵)“

دودھ کے اجزائے ترکیبی بارے میں قرآن مجید کا انکشاف

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَ اِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَسْقِیْكُمْ مِمَّا فِی بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا شَرِیْبًا۔ (النحل: ۶۶)

”یقیناً جانوروں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے جسموں کے اندر کی اُس

حادثہ یا قدیم؟

دور جدید میں کائنات کے حادثہ یا قدیم ہونے کی پرانی بحث کا بھی قریب قریب حتمی فیصلہ ہو گیا ہے۔ سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ کائنات ازلی نہیں ہے بلکہ اس کی ابتدا و انتہا بھی ہے (فلسفہ کی اصطلاح میں یہ عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے)۔ دوسریوں اور خدا پرستوں کے درمیان اس بحث کا فیصلہ دور جدید کے ایٹمی توانائی (Atomic Energy) کے تخیل نے کر دیا ہے۔ دہریے اب تک یہی کہتے چلے آتے تھے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا۔ زمانہ ہی ہمیں زندگی بخشتا ہے اور اس کائنات میں زمانہ ہی ہمیں موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ بالکل یہی بات آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کا عرب بدو بھی کہا کرتا تھا۔ قرآن کی زبان میں:

وَمَا يُمِلُّكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الباقیہ ۲۴) ”ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے“

لیکن جدید سائنس کے نقطہ نظر سے اب مادہ قوت میں تبدیل ہوتا ہے اور قوت مادے میں۔ اب حرکیات حرارت (Thermo-Dynamics) کے دوسرے قانون نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ مادی جہان نہ ازلی ہو سکتا ہے اور نہ ابدی۔ اس کی لازماً ابتدا ہونی چاہیے اور اس کو لازماً ایک موقع پر فنا بھی ہونا چاہیے۔ اب مختلف علوم طبعی کی مدد سے اس کائنات کے وقت آغاز کا تعین تک کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات اندازاً ساٹھ کھرب سال سے وجود میں آئی تھی۔ اب سائنس، زمین، سورج، چاند، حتیٰ کہ نظام شمسی کی عمر کا تعین کرنے لگی ہے۔

سائنسدانوں میں کائنات سے متعلق جو نظریہ آج کل مقبول ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات

چیزے جو آنتوں کے مادہ اور خون کے اختلاط سے ہے، ایسا دودھ دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص اور فرحت بخش ہوتا ہے۔“

مورس بکائیے اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں :

”دودھ کے اجزائے ترکیبی پستان کے غدودوں سے رتے ہیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ ان کو غذا کے ہضم ہونے سے بننے والی اس شے سے غذائیت ملتی ہے جو خون کی نالیوں کے ذریعے ان اجزاء تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ خون اس شے کا جو کھانے سے حاصل ہوتی ہے جمع کرنے اور پہنچانے والا عال ہے اور اسی سے پستانوں کے غدودوں کا تغذیہ ہوتا ہے۔ جہاں دودھ کی تولید ہوتی ہے یہ اسی طرح کا عمل ہے جس طرح کا دوسرے کسی عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔“

یہاں وہ ابتدائی عمل جو ہر دوسری چیز کو حرکت میں لے آتا ہے آنت اور خون کے مشمولات کو خود جدار الامعاء کی سطح پر باہم ملا دیتا ہے۔ یہ نہایت واضح تصور کیا راؤ علم اعضاء میں تحقیقات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوا ہے، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا قطعاً علم نہیں تھا اور محض ماضی قریب میں اس کو سمجھا گیا ہے۔ دوران خون کی دریافت نزول قرآن کے تقریباً دس صدیوں بعد ہاروے نے کی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان تصورات کے حوالوں کی قرآن میں موجودگی کی وضاحت ان کے بس کی بات نہیں اس لیے کہ وہ تصورات بعد میں وضع ہوئے۔“ (۲۴۹:۱۰)

بلندی پر سانس کی تنگی

جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص بلندی کی طرف جائیگا اسے زیادہ تازہ ہوا ملے گی اور اسے زیادہ فرحت اور خوشی حاصل ہوگی۔ لیکن جدید دور میں جب انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کیا اور وہ تیس چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا

یک لخت ایک تخلیقی انفجاری دھماکہ (Explosion) سے وجود میں آگئی۔ اس کا مادہ تخلیق ایک جا، انتہائی کثافت اور انتہائی حرارت کی کیفیت میں تھا کہ ایک دھماکہ سے وہ پھٹی اور تیس منٹ کے اندر اندر تمام کیمیاوی عناصر پیدا ہو گئے اور پھر اس سے تمام فلکی نظام وجود میں آگئے۔

آئیے اس بارے میں دور جدید کے انتہائی بلند پایہ سائنس دانوں کی شہادتوں پر غور کریں فرینک ایلن۔ ایم اے۔ پی ایچ ڈی۔ پروفیسر حیاتی طبیعیات مینی ٹوبا یونیورسٹی کینیڈا اپنے مضمون "تخلیق کائنات۔ ایک حادثہ یا ایک منصوبہ" میں لکھتے ہیں:-

"زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کڑے ارض پر اتنے انتظامات نظر آتے ہیں کہ یہی طرح باور نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سب محض کسی اتفاق کا نتیجہ ہیں۔ اولاً یہ کہ کڑے ارض ایک گولے کی شکل میں خلا میں معلق ہے اور اپنے قطبی محور پر اس طرح گردش کر رہا ہے کہ اس سے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے پھر یہ کہ سورج کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور سال کی معین مدت کے اندر اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ یہ حرکات خلا میں اس کو صحیح سمت میں قائم رکھتی ہیں۔ قطبی محور پر اپنے مدار کی جانب اس کا ۲۳ درجہ جھکاؤ موسموں میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ آباد کاری کے قابل ہو جاتا ہے اور مختلف انواع و اقسام کی رنگارنگ روئیدگی زمین کی رونق و افادیت دو بالا کر دیتی ہے۔ اگر یہ کڑے زمین گردش کرنے کی بجائے ساکن و جامد ہوتا تو نباتات اور پیداوار میں اتنی متنوع اور گونا گوں اقسام ممکن نہ ہوتیں۔"

دوم ایسی گیس جو بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں فضا میں تقریباً پانچ سو میل کی بلندی تک محیط ہیں اور ان کا نہایت دبیر پر وہ کڑے زمین کو ان شہابوں کی تباہ کن بارش سے محفوظ رکھتا ہے جو روزانہ دو کروڑ کی تعداد میں تیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کڑے ارض میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے اثرات کے علاوہ اسی ہوا کا درجہ حرارت ان کو محدود و اعتدال کے اندر رکھتا ہے جو زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہوائیں بادلوں کی صورت میں سمندروں

اسے تپہ چلا کہ بلندی پر جاتے ہوئے اسے نسبتاً کم آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور سانس لینے میں بہت دشواری لاحق ہوتی ہے۔ اس شدید گھٹن سے بچنے کے لیے ہوائی جہازوں میں مصنوعی طور پر آکسیجن پہنچانے کا انتظام رکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اس قدر بلندی پہ جانے کا تصور تھا اور نہ ہی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا۔ لیکن قرآن مجید میں یہ آیت ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے :-

فَمَنْ شَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ شَرِدْ أَنْ يُصَلِّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا. كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ - (الأنعام: ۱۲۵)

”پس (یہ حقیقت ہے کہ) جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹنا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے (بلندی کو جا رہا ہے)۔“

درد کا احساس جسم میں صرف جلد کو ہوتا ہے

جدید طب نے یہ دریافت کیا ہے کہ وہ اعصاب جو درد کا ادراک کرتے ہیں خواہ وہ درد چوٹ لگنے سے، جلنے سے یا شدید گرمی و سردی کی وجہ سے ہو وہ اعصاب فقط جلد میں ہی پائے جاتے ہیں یعنی اگر جسم میں سونے چھوٹی جائے تو درد صرف جلد کی سطح پر ہوگا لیکن اگر سونے جلد سے آگے گزار دی جائے تو بقیہ گوشت میں فی الواقع درد نہیں ہوگا۔ یہ بات تو دور جدید کی تحقیق ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا. كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔

(النساء: ۵۶)

”جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں

کے تازہ پانی کی بھاپ کو اڑا کر خشکی کی طرف لے جاتی ہیں اور دُور دُور تک خشک اور پیاسی زمینوں کو سیراب کرتی ہیں ورنہ یہ زمین بے آب و گیاہ صحرا میں تبدیل ہو جاتے۔ گویا دوسرے لفظوں میں فطرت نے سمندروں اور ہواؤں کی ہم آہنگی کو اس گُزراہ میں بقائے ریت

کا ذریعہ بنا دیا ہے۔“ (۲: ص ۲۷)

جان کلیوی لینڈ پی۔ پیچ۔ ڈی، ماہر ریاضی و کیمیا اپنے مضمون ”ایک ناگزیر فیصلہ“ میں لکھتے

ہیں :-

”اب مادے کو اس حیثیت سے سمجھیے کہ یہ سالموں (Molecules) اور ذرات (Atoms) کا مجموعہ ہے۔ خود سالمے اور ذرات ان کے ترکیبی پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون، کمرہائی قوت تھی کہ توانائی (Energy) بھی سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں ایک مقرر ضابطے کے پابند نظر آتے ہیں اور ان کے عمل میں کہیں اتفاقات و حوادث کا فرمایا نہیں معلوم ہوتے۔ نظم و ترتیب کی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ کیمیائی عنصر نمبر ۱ کی شناخت و امتیاز اس کے محض، اذرات کے مطالعے سے کر لی گئی۔ یہ اس حقیقت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ عالم رنگ و بو ایک سوچے سمجھے نظام اور ایک مقررہ نقشے کے مطابق چل رہا ہے۔ اس میں انتشار اور لامرکزیت نہیں، یہاں ہر شے کے لیے قوانین و ضوابط مقرر ہیں اور اس کا رخانہ قدرت کو حادثات و اتفاقات نہیں چلاتے۔ کیا کوئی باخبر اور استدلالی ذہن یہ باور کر سکتا ہے کہ جامد و بے شعور مادہ کسی حادثے کے نتیجے میں از خود وجود میں آگیا، کسی ارادے اور کار فرما قوت کے بغیر خود بخود ایک نظام میں ڈھل گیا، محض اتفاق ہی سے اُس نے اس نظام کی پابندی شروع کر دی اور اس کے بعد اس نظم کا اسی طرح قائم و دائم رہنا ایک حُسن اتفاق کے سوا کچھ نہیں۔“

یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ جب توانائی کسی نئے مادے میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ عمل تغیر ایک سوچے سمجھے اور متعین ضابطے کے مطابق ہوتا ہے اور اس عمل سے وجود

جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کھال گل جاتے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔“

یعنی درد اور تکلیف کا تعلق قرآن مجید میں صرف جلد سے بیان کیا گیا ہے اور مزید تکلیف پہنچانے کے لیے بار بار جلد ہی کو تبدیل کیا جائے گا۔

پہاڑ زمین کی منجھیں ہیں

ذو بحیثیت میں یہ بات سائنس نے دریافت کی کہ زمین کے بیرونی حصہ (قشر ارضی) کے اس سخت حصے کے نیچے ایک نرم طبقہ بھی ہے، یہ پہاڑ اس نرم طبقے کے اندر داخل ہو کر زمین کی جڑوں کا کام کرتے ہیں اور زمین کو ہلنے اور کھٹکنے سے بچاتے ہیں اور یوں زمین ایک خاص قسم کے توازن پر قائم رہتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں ڈیڑھ ہزار سال قبل بیان کر دی گئی:

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهَا وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَالِمٌ

”ہم نے زمین پر پہاڑ بنا دیئے تاکہ زمین انہی سمیت کہیں ڈھلک نہ جائے“

فَالجِبَالُ أَوْتَادًا (النبا: ۷)

”ہم نے پہاڑوں کو منجھیں بنا دیا“ (اور انہیں زمین میں گاڑ دیا)

سمندر میں تہ بہ تہ موجوں اور تہ بہ تہ اندھیروں کا قرآنی تصور:

آج سے ہزار ڈیڑھ ہزار سال قبل انسان کو یہ علم نہ تھا کہ سمندر میں کچھ موجیں سطحی ہوتی ہیں اور کچھ موجیں اس کے نیچے ہوتی ہیں۔ تہ بہ تہ موجوں کا یہ تصور بہت بعد کی دریافت ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے ہیں اور یہ اندھیرے بھی اسی طرح تہ بہ تہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو جگنو کی طرح روشنی عطا کر کے ان اندھیروں میں روشنی کا انتظام کیا۔

میں آنے والا نیا مادہ بھی انہیں قواعد و ضوابط اور اس نظام کی پابندی کرتا ہے جو اس سے پہلے موجود مادے پر نافذ ہیں۔ علم کیمیا یہ بتاتا ہے کہ مادہ بتدریج فنا ہو رہا ہے۔ اس کی بعض انواع کے معدوم ہونے کی رفتار اتہائی سست ہے اور بعض کی انتہائی تیز اور اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مادہ اپنی ذات میں ازلی وابدی نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر لامحالہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مادے کی کوئی ابتدا اور اس کا کوئی نقطہ آغاز بھی ضرور ہوگا۔ نہ صرف علم کیمیا بلکہ دوسرے علوم عقلی بھی اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ مادہ کسی طویل تدریجی عمل کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ یک لخت اور اچانک وجود میں آیا اور مختلف آثار و شواہد سے یہ بھی متعین کیا جاتا ہے کہ اندازاً یہ واقعہ کب ہوا، گویا ثابت ہو گیا کہ یہ بزم کائنات ایک مقرر گھڑی پر یکبارگی سجائی گئی۔ یہ کسی دانا و مینا ہستی کی قوت تخلیق کا کرشمہ ہے اور جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اسی وقت سے یہ مقررہ قوانین کی پابندی کر رہی ہے۔ حادثات و اتفاقات اس کائنات کی زندگی اور رونق کا سرچشمہ نہیں ہیں۔“

(۳: ص ۱۵۶)

ایڈورڈ لوتھر کیسل، ماہر حیوانیات و حشرات ایم۔ ایس سی۔ پی ایچ ڈی اپنے مضمون ”آئیے کسی تعصب کے بغیر حقائق کا مطالعہ کریں“ میں لکھتے ہیں:

”سائنس کارخانہ قدرت کے نظام کی تفصیلات سے بحث کرتی ہے اور اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اس کارخانہ کو بنایا اور چلایا کس نے ہے لیکن ہر شخص تھوڑا بہت فلسفی ضرور ہوتا ہے اور اس چیز سے سائنس دان بھی مستثنیٰ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اچھے سائنس دان ہمیشہ اچھے فلسفی نہیں ہوتے۔ ان میں سے کچھ تو کائنات کے آغاز کے بارے میں ذہنی انتشار اور پراگندہ خیالی میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگ اس لغویت کا شکار ہیں کہ وہ ازلی وابدی ہے تو آخر یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ یہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آگئی ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا کے بارے میں یہ جانا جا سکتا ہے کہ وہ ازلی وابدی ہے تو

اسی طرح سے لوگوں کے تصور میں یہ بات بھی نہیں آسکتی تھی کہ ایک موج اوپر سے آنے والی روشنی کی کرن کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روشنی کو زائل کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بادل سورج کی بعض شعاعوں کو زمین تک آنے سے بالکل روک دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کے سب اسرار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیئے ہیں اور آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے :

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَمَّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدًا لَمْ يَرَ يَدَهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ - (النور: ۴۰)

”یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھاتی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پاتے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں“

قرآن مجید میں سورج اور چاند کا تصور

یہ بات جدید سائنسی دور میں معلوم ہو سکی ہے کہ چاند میں جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی کا عکس ہے۔ اس کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ اس طرح کہ چاند کی روشنی سے انکار تو نہیں کیا گیا، اس کو روشن تو کہا گیا ہے لیکن روشنی کا منبع یا چراغ قرار نہیں دیا گیا۔ صرف سورج کے لیے چراغ بلکہ گرم و روشن چراغ (سراجاً وحاجاً) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ سراج کا لفظ استعمال ہوا ہے اور صیغہ واحد میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک چاند روشن تو ہے لیکن روشنی کا منبع نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل آیتیں قابل غور ہیں:-

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا -
(الفورقات: ۶۱)

آخر یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ یہ کائنات ہی ازلی وابدی ہے۔ حرکیاتِ حوادث کا دوسرا قانون جسے ضابطہ ناکارگی (Law of Entropy) کہا جاتا ہے، اس آخری تصور کی نفی کرتا ہے۔ یہ حقیقت سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے۔ ضابطہ ناکارگی بتاتا ہے کہ حرارت ہمیشہ باحرارت وجود سے بے حرارت وجود میں منتقل ہوتی رہتی ہے لیکن اس چکر کو الٹا نہیں چلایا جاسکتا کہ یہ حرارت خود بخود کم حرارت وجود سے زیادہ حرارت کے وجود میں منتقل ہونے لگے۔ ناکارگی ممکن الحصول اور ناممکن الحصول تو انسانی کے درمیان تناسب کا نام ہے اور اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کائنات کی ناکارگی برابر بڑھ رہی ہے۔ او ایک وقت آنے والا ہے جب تمام موجودات کی حرارت یکساں ہو جائے گی اور کوئی کارآمد توانائی باقی نہیں رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیمیائی اور طبیعی عمل کا کوئی میدان باقی نہ رہے گا۔ زندگی ناپید ہو جائے گی اور ایک ہمہ جہتی جمود طاری ہو جائے گا۔ لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ کیمیائی اور طبیعی عمل جاری ہے اور زندگی کے ہنگامے قائم ہیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا وجود ازلی نہیں ہے ورنہ اس کی توانائی کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی اور یہاں زندگی کی ہلکی سی رتی بھی موجود نہ ہوتی۔ اس طرح غیر ارادی طور پر سائنس کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نقطہ آغاز ضرور ہے اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر خدا کا وجود آپ سے آپ ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو اپنی ذات میں ازلی نہیں ہے اس کا وجود یقیناً کسی محرک اول اور کسی خالق یعنی خدا کے کرشمہ قدرت کا رہین منت ہے۔

سائنس کی تحقیق نے صرف یہی ثابت نہیں کیا کہ یہ کائنات ازلی نہیں اور اس کی ایک ابتدا یا آغاز ہے بلکہ تازہ انکشافات یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اب سے تقریباً پچاس کرب سال پہلے ایک تخلیقی دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آگئی اور آج بھی اس میں توسیع کا عمل جاری ہے۔ جو لوگ سائنس کی تحقیقات کو کوئی وزن دیتے ہیں وہ یہ حقیقت

”خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔“

وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ۖ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ (النبا: ۱۲-۱۳)

”اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔“

یہاں چاند کو ایک ایسا جرم قرار دیا گیا ہے جس سے روشنی منعکس ہوتی ہے (قرآن میں)۔ آیت والفاظ کے اسلوب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چاند کو روشن تو قرار دیا گیا ہے مگر روشنی کا منبع و مصدر قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے برعکس سورج کو ایک شعلہ فگن سراج سے یا ایک گرم چراغ (وہاج) سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

بقول مورس بکائیے ”قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ان معلومات کی تردید کرتی ہو جو ہمیں آج ان اجرام سماوی کے بارے میں حاصل ہے (۱۹۲: ۱۰)۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سراجا کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی صیغہ واحد میں۔ اگر چاند کی بھی پوزیشن ہوتی جو سورج کی ہے اور وہ بھی شعلہ فگن چراغ ہوتا تو سراجا کی بجائے ”سراجین“ (دو چراغ) کے الفاظ استعمال کیے جاتے۔

سورج اور چاند کے مداروں کا وجود

آج سے ہزار ڈیڑھ ہزار سال قبل دنیا میں اجرام فلکی کے مداروں کا کوئی تصور نہیں تھا اس لیے قرآن مجید کے مفسرین کو لفظ فلک کی تشریح کرنے میں بہت دقت پیش آئی۔ مورس بکائیے اس موضوع پر لکھتے ہیں :-

”قرآن کے قدیم مترجمین کو اس لفظ (فلک) نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ جو چاند اور سورج کے مدور راستوں کا تصور قائم نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے خلا میں ان کے

تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ کائنات تخلیق کی گئی ہے اور یہ عمل تخلیق لگے بندھے قوانین فطرت سے ماورا کسی طاقت کا اثر ہے۔ کیونکہ یہ قواعد فطرت تو خود کسی کی تخلیق کا نتیجہ ہیں اسی ذات خالق کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اس خالق حقیقی نے جب قدرتی مادے کو وجود بخشا اور مادے کے عمل کے لیے قواعد و ضوابط معین کر دیئے تو پھر اس نے اس مادے کو اس مقررہ عمل کے ذریعہ تخلیق مسلسل میں لگا دیا۔“

(۳ : ص ۷۰)

پیریڈکٹک سٹونز ماہر ریاضی و فلکیات اپنے مضمون ”کتاب پیدائش کا پہلا باب جدید فلکیات کی روشنی میں“ لکھتے ہیں۔

”لیکن اب ایسی طاقت وجود میں آچکی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ مادے کو ایک خوفناک قوت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور طاقت کو پھر سے مادے کا ایک طومار بنا یا جاسکتا ہے۔ اب تخلیق کا خیال زیادہ قابل یقین معلوم ہونے لگا ہے۔ سائنس نے کچھ ادوار مقرر کر لیے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:-

۱۔ دورِ ارض

۲۔ دورِ سیارگان

۳۔ دورِ قمر زمین

۴۔ دورِ آفتاب

۵۔ دورِ کہکشاں

۶۔ دورِ کائنات

۷۔ دورِ ارتقاء و ترقی و تقسیم

یہ ادوار تقریباً ساٹھ کھرب سال تک جاتے ہیں۔ یہ صورت حال اتنی خیال انگیز ہے کہ بہت سے سائنسدان خودیوم تخلیق کا اقرار کرنے لگے ہیں اور اس کا نقطہ آغاز ساٹھ کھرب سال پہلے بتاتے ہیں۔“

(۳ : ص ۱۸۷)

راتے میں کچھ ایسی شکلیں محفوظ کر لی تھیں جو یا تو کسی حد تک درست تھیں یا بالکل ہی غلط تھیں۔
 حمزہ ابو بکر اپنے ترجمہ قرآن مجید میں اس لفظ کی یہ مختلف النوع تشریحات پیش کرتے
 ہیں جو دوسروں نے کی ہیں۔ ایک قسم کا ”دھرا“ جو ایک آہنی سلاح کے مثل ہوتا ہے جس
 کے گرد کوئی کل گھومتی ہے، ایک سماوی گڑھ، مدار، سورج کی علامتیں، رفتار، لہر۔۔۔“
 لیکن پھر وہ حسبِ ذیل بیان جو دسویں صدی کے مشہور مفسر طبری نے دیا ہے پیش کرتے ہیں۔
 ”جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں“
 اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ سورج اور چاند کے مدار کا یہ تصور حاصل کرنے میں کس قدر ناکام
 رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ نقطہ اس فلکیاتی تصور کو واضح کرتا جو حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھا تو ان آیات کی توضیح و تشریح کرنا انتہائی مشکل ہوتا، لہذا
 قرآن میں ایک بالکل ہی جدید تصور موجود تھا جس کی وضاحت صدیوں بعد تک نہیں کی جا
 سکی تھی“ (۱۰: ۱۹۷)

اب آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید نے فلک یا مدار کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ ارتداد باری تعالیٰ ہے
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
 (الانبیاء: ۳۳)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ سب

اپنے اپنے مداروں پر چل رہے ہیں“

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۗ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي
 لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔

(یس: ۲۹-۳۰)

”اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا
 وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے

عدم سے وجود تک

یہاں تک یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ کائنات ازلی وابدی نہیں بلکہ اس کی ابتدا و انتہا بھی ہے ایک وقت ایسا گزرا ہے جب یہ بالکل موجود نہیں تھی۔ کوئی شے موجود نہ تھی۔ ہر چیز عدم سے وجود میں آئی مگر سوال یہ ہے کہ کائنات کو وجود کیسے ملا؟ کیا یہ خود بخود ظہور میں آگئی؟ کیا مادہ اپنا خالق خود آپ ہے؟ کیا عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی موجد کی ضرورت نہیں؟ کیا تخلیق بغیر کسی خالق کے ممکن ہے؟

قرآن مجید کی اس دلیل پر غور کیجیے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْمَخْلُوقُونَ - أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ -
(الطُّور: ۳۵، ۳۶)

”کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے یا وہ خود
پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے
کہ وہ کسی خالق کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔“

جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو یہ آسمان، سورج، چاند، تارے، یہ زمین، سمندر اور پہاڑ کہاں سے آگئے؟ کیا کوئی شے خود بخود عدم سے وجود میں آسکتی ہے؟ انسانی عقل صاف گواہی دیتی ہے کہ کسی موجود کا وجود بغیر موجد کے پایا جانا عقلاً محال ہے اس لیے کہ ہر ممکن الموجود پہلے عدم میں تھا، پھر وجود میں لایا گیا، تو لازم ہے کہ کوئی اس کا لانے والا ہو۔

انسانی عقل صاف گواہی دیتی ہے کہ کسی موجود شے کا خود ہی اپنا موجود ہونا عقلاً محال ہے کیونکہ اس سے شے کا وجود اس کی ذات سے پہلے آنا لازم ہوتا ہے جو عقلاً باطل ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک شے جو ابھی تک موجود ہی نہیں ہے، حالت عدم میں ہے، لاشعاً ہے، خالق نہیں بن سکتی یعنی ابھی تو وہ سرے سے موجود ہی نہیں کجا یہ کہ وہ وجود میں آنے والی شے کی موجد بن جاتے۔

اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار پر تیر رہا ہے۔
موریں بکایتے اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں:-

”اس جگہ ایک اہم حقیقت کا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے وہ ہے سورج اور چاند کے مداروں
کا وجود۔ اس پرستیزانہ حوالہ ہے جو ان اجرام کی اپنی حرکت سے خلا میں سفر کرنے کے سلسلے
میں دیا گیا ہے۔“

ان آیات کے مطالعہ سے ایک منفی حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سورج
ایک مدار پر حرکت کر رہا ہے لیکن اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ زمین کے لحاظ سے یہ مدار
کون سا ہو سکتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت خیال کیا جاتا تھا کہ سورج متحرک ہے اور زمین ساکن۔
یہ زمین کی مرکزیت کا نظام تھا جو پطلمیوس کے زمانہ سے مقبول چلا آ رہا تھا۔ جو دوسری صدی
عیسوی کا سائنسدان ہے اس کا سلسلہ نکولاس کوپرنکس (۱۵۴۳ء) تک چلا جس کا دور سو لھویں صدی
عیسوی ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ اس نظریہ کے حامی تھے لیکن قرآن کریم
میں کہیں بھی اس کا اظہار نہیں ہوا۔ نہ یہاں نہ کہیں اور۔“ (۱۰: ۱۹۶)

سورج اپنی منزل کی جانب واں ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یس: ۳۸)

”اور سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب زبردست علیم ہستی کا ہاتھ
ہوا نصاب ہے۔“

پندرھویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے ایک منجم نکولس کوپرنکس (Nicholas

Copernicus) نے یہ اعلان کیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے،

اس سے دنیائے علم میں ایک بھونچال آگیا۔

تو ثابت ہوا کہ ایک شے کا بیک وقت مخلوق و خالق ہونا ناممکن ہے کیونکہ وجود میں آنے سے پہلے تو اس کا کسی طرح سے وجود ہی نہیں کجا کہ وہ اپنی تخلیق کا سامان پیدا کرے۔
چنانچہ تخلیق کائنات کی اس کے علاوہ اور کوئی توجیہ ممکن نہیں کہ ایک خالق و مدبر کے وجود کو مانا جائے۔
فلسفہ قدیم میں خدا کے وجود پر یہی دلیل کچھ اس انداز سے بیان کی گئی ہے:-

ہمارے حواس خمسہ پورے یقین کے ساتھ ہیں اس فیصلہ پر پہنچا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں حرکت کر رہی ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں یا گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں یا ان میں کسی اور قسم کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ دوسری یقینی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک حرکت نہیں کرتی جب تک کہ کوئی دوسری قوت یا کوئی دوسری چیز اسے حرکت میں نہ لائے۔ ایک چیز خود اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتی کیونکہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ وہ ایک ہی وقت میں خود ساکن بھی ہے اور متحرک بھی جو عقلاً محال ہے۔

چنانچہ یہ بات طے ہوتی کہ جو چیز بھی حرکت کر رہی ہے اس کو کوئی اور چیز حرکت میں لاتی ہے۔ اور اس حرکت میں لانے والی چیز کو بھی کوئی اور چیز حرکت میں لاتی تھی۔ اب اس حرکت میں لانے والی چیز کو بھی کوئی اور چیز حرکت میں لاتی۔ یونہی اوپر کی طرف بڑھتے جاتے، ہر متحرک کا ضرور کوئی نہ کوئی متحرک ہلکانا چاہیے۔ لیکن متحرکوں کی حرکت میں لانے والی اشیا، کا یہ سلسلہ لانتنا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر متحرکوں کا یہ سلسلہ لانتنا ہی مان لیا جائے تو یہ بات لازم آئے گی کہ کوئی بھی متحرک اول نہیں ہے یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس نے سب سے پہلے حرکت پیدا کی ہو۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی متحرک اول نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے سب سے پہلے حرکت دی ہو تو لازماً یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حرکت کا وجود نا پیدا ہے۔ جب متحرک اول ہی نہیں ہے تو حرکت کہاں سے آگئی۔ لازماً حرکت کی نفی کرنا پڑے گی۔

لیکن حرکت کے وجود کے انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس کے وجود کا فیصلہ تو شروع ہی میں ہمارے حواس خمسہ دے چکے ہیں۔ چنانچہ ہمیں لازماً متحرک اول کا وجود ماننا پڑے گا۔ ایسا متحرک جس

جب دنیائے کوپرنکس کے اس نظریہ کو ایک حقیقت سمجھ لیا تو عالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے کہ قرآن مجید سورج کو متحرک قرار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھارہویں صدی عیسوی میں سرفریڈرک ولیم ہرشل نے یہ اعلان کیا کہ سورج متحرک ہے۔ اس کا قول ہے:

Herschel

"The sun is travelling through space".

”سورج خلا میں سفر کر رہا ہے“

دالین ایٹن، گریٹ ڈیزائن U.S.A ۱۹۳۲ء، ص ۲۴۔ دیکھیے حالہ ۹: ۲۴) سورج کس طرف سفر کر رہا ہے۔ کیلیفورنیا کی ایک رصدگاہ کے ڈائریکٹر آر جی ایٹن Aitken کا اندازہ یہ ہے کہ سورج اپنے نظام شمسی سمیت اپنی کہکشاں کے ساتھ چوبیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے (۹: ۲۴)۔ جدید ترین انکشاف جو سائنس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج مجمع النجوم شلیاق کی جانب کسی نامعلوم مرکز کی طرف نہایت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اس مرکز کو سولہ ایپس کہا گیا ہے۔

ایک منجم کہتا ہے کہ سورج میں بھی دو قسم کی حرکت پاتی جاتی ہے ایک کہکشاں کے ہمراہ خلا میں اور دوسری مرکز کہکشاں کے گرد۔

یہاں ایک اہم بات قابل غور ہے اور وہ یہ کہ جو لوگ کوپرنکس کے نظریہ سے متاثر ہو کر قرآن مجید یہ طعن و تشنیع کرتے رہے یا اس کی صداقت کے بارے میں مبتلا ہو گئے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سائنس کا ہر نیا انکشاف اور ہر نظریہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جہاں وہ دین حق کی کسی بات سے ٹکرایا تو فوراً دین حق کو چھوڑ دیا جاتے اور اسے قبول کر لیا جلتے۔ نظریات، نظریات ہی ہوتے ہیں اور یہ روزانہ بدلتے رہتے ہیں اور ان کی بنیاد پر دین کے حقائق کو متزلزل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہی حال آج کل ان لوگوں کا ہے جو ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں یا مسند میں پیش کرتے ہیں یا دین کی بعض باتوں کی تاویل کرتے ہیں۔ ان حضرات کو نظریے میں اور

نے حرکت دے تو دی لیکن وہ خود حرکت کا محتاج نہیں تھا۔ بالفاظِ دیگر ایسا خالق جس نے دوسری اشیاء کی تخلیق تو کی لیکن خود اس کی کسی نے تخلیق نہ کی۔

دیکھیے سورۃ اخلاص میں ایسے ہی خالق کی صفات بیان کی گئی ہیں:-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کسی کا محتاج

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌ - نہیں، بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو بنا اور

نہ وہ کسی سے بنا گیا اور نہ کوئی اس کا

(الاخلاص) ہمسر و شریک ہے۔

اب قرآن مجید کی ان آیات پر غور کیجیے۔ بات واضح ہو جائے گی:-

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ - اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہے سب

کی انتہا۔ (نجم-۴۲)

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - اور خدا کے پاس ہی آسمانوں اور زمین کی چھپی

بات ہے اور اسی کی طرف ہر بات لوٹانی

جاتی ہے تو اس کی عبادت کر اور اسی پر

دھرو۔ (دھرو-۱۲۳) بھروسہ رکھو۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ خدا کے وجود کے علاوہ تخلیق کائنات کی کوئی اور توجیہ ممکن نہیں حضرت

امام ابو حنیفہ کی خدمت میں کچھ منکرینِ خدا نے اس مسئلہ پر اگر بحث کرنا چاہی تو آپ نے مندرجہ ذیل حکیمانہ انداز میں ان کی تشفی فرمائی:-

فرمایا ”چھوڑو چھوڑو، میں ایک فکر میں مستغرق ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا ہے کہ سمندر

میں ایک کشتی کھڑی ہے جس میں قسما قسم کے سامانِ تجارت ہیں، کوئی اس کا محافظ یا چلانے

والا نہیں ہے اور وہ خود بخود آتی جاتی ہے، خود بخود تند و تیز موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے

جہاں جاتی ہے صاف بچ کر نکل جاتی ہے اور سامان پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کا کوئی چلانے

حقیقت میں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ نظر یہ روزانہ بدلتا ہے اور حقیقت وہ چیز ہوتی ہے جس کے غلط ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔

یہ کائنات توسیع پذیر ہے

قرآن مجید کا انکشاف

یہ کائنات ہر دم پھیل رہی ہے اور یہ بات جدید سائنس کی دریافت ہے۔ اس وقت یہ نہایت محکم تصور ہے کہ ایک کہکشاں دوسری کہکشاں سے دُور ہٹتی جا رہی ہے۔ یعنی تمام کہکشاں ایک دوسرے سے ہٹتی جا رہی ہیں اور اس طرح سے کائنات کی جسامت بڑھتی جا رہی ہے اور جس قدر کہکشاں ایک دوسرے سے دُور ہٹیں گی اتنا ہی کائنات کے حجم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب کہکشاں ایک دوسرے سے بٹ جاتی ہیں تو خالی جگہ میں نئی کہکشاں بن جاتی ہیں۔

کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل جبکہ عربوں کے پاس کوئی بھی فلک بینی کا آلہ موجود نہیں تھا، قرآن نے ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاف ۱۹۲۸ء کے بعد کوہیلوم کی ایک بہت بڑی دُور بین نے کیا، اور وہ یہ کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ - (الذاریات : ۴۷)

”ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس میں توسیع کرتے رہیں گے“
یہ بات قرآن مجید کے وحی منزل ہونے کا ایک قطعی ثبوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک کھلی نشانی۔

زمین سکر رہی ہے :-

اس دُور کے سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ زمین کے حجم میں آہستہ آہستہ کمی پیدا ہو رہی ہے۔

والا نہیں ہے۔“

زندیق کہنے لگے: یہ ایسی بات ہے جو کوئی عقلمند انسان نہیں کہہ سکتا۔“

فرمایا: ظالمو! پھر یہ نظامِ شمسی، یہ عالمِ بالا اور عالمِ سفلی اور اس میں جس قدر مضبوط حکم و مصالح سے

پُر اثباتِ موجودہیں ان کا خالق و مدبر کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ بات کسی کے عقل و تصور میں آسکتی ہے؟

اسی طرح سے ایک بدو گنوار سے کسی نے خدا کی ہستی کی دلیل و ریافت کی تو اس نے اپنے سادہ

اسلوب میں خوب جواب دیا۔

یعنی اُونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے یعنی

یعنی کانظر آجانا اس بات کی دلیل ہے کہ ضرور

اُونٹ یہاں سے گزرا ہے، اور قدموں کے نشان

کسی چلنے والے کا پتہ دیتے ہیں پھر یہ کیا بات

ہوتی کہ بڑے بڑے بڑے برجوں والا آسمان اور

بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین اور موجوں والے

سمندر کسی لطیف و خیر ذات کے وجود پر دلالت

نہ کریں۔

البعرة تدل على البعير واثار

الاقدام لتدل على المسير فالسما

ذات ابداج والارض ذات فجاج و

وجار ذات امواج كيف لا تدل على

وجود اللطيف الخبير۔

حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی مادی شے خود اپنی تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات از خود اپنے آپ

کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر کائنات از خود پیدا ہو سکتی ہے اور تخلیق کی قوت سے منصف ہے جسے ہم خدا کی

صفت قرار دیتے ہیں تو پھر ہم اس کائنات کو ہی خالق یا خدا قرار دے رہے ہیں مگر یہ بہت عجیب قسم کا

خدا ہوگا جو مادہ بھی ہوگا اور مادہ سے بلند تر بھی۔ جو خود فطرت بھی ہوگا اور مافوق الفطرت بھی، جو خود

خالق بھی ہوگا اور مخلوق بھی، ایسا خدا خود حاکم بھی ہوگا اور محکوم بھی۔ آخر ایسے مہمل تصورِ خدا کو قبول کرنے

کی بجائے ایک سیدھے سادھے تصورِ خدا کو کیوں نہ مان لیا جاتے جس میں کوئی عقلی و منطقی جھول نہ ہو ایسا

خدا جس نے ایک عالمِ مادی کی تخلیق کی ہے، وہ خود اس کا جزو نہیں بلکہ اس کا خالق اور حاکم ہے۔

فلکیات کے مشہور ماہر سنر جنرل جینر (۱۸۷۷ء - ۱۹۴۶ء) کا خیال یہ ہے کہ "آغاز میں ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا۔ زور کشش سے سورج کا ایک ٹکڑا کٹ کر دو رخلا میں گھومنے لگا اور زمین کھلایا۔ شروع میں زمین کا درجہ حرارت وہی تھا جو سورج کا ہے پھر رفتہ رفتہ زمین ٹھنڈی ہونے لگی اور اب تک ہو رہی ہے۔ جب یہ گرم تھی تو اس کا حجم زیادہ تھا۔ ٹھنڈی ہو جانے کے بعد یہ سکڑنے لگی اور سکڑتی چلی جا رہی ہے (۶: ۴۲)۔"

یہ بات آج سے ایک ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے لوگوں کے تصور میں نہیں آسکتی تھی، لیکن قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ (الرعد: ۴۱)

”کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اطراف (باہر) سے سکیرتے چلے جا رہے ہیں“

فرعون موسیٰ کی لاش کے بارے میں

قرآن مجید کی پیش گوئی

قرآن مجید میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ فرعون موسیٰ کی لاش کو دنیا بھر کے لیے عبرت کی خاطر محفوظ کر لیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا

حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكَهُ الْعُدْقُ قَالَ أَمِنْتُ اللَّهُ لَإِلَهِهِ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو

إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَلَمْ نَقْدَعْ عَصِيَّتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْفٰسِقِينَ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

عَنْ آيَتِنَا لَغٰفِلُونَ - (یونس: ۹۰-۹۲)

”اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی

کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا وہ میں نے مان لیا کہ

تخلیق کائنات کی مادی توجیہ سے ایک اور غیر منطقی صورت بھی پیش آجاتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کائنات از خود پیدا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کائنات کے ایک ایک ذرہ کو تخلیق کی خدائی صفت سے مُتصف ماننا پڑے گا۔ ہر ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ پر خالق، ہر ہر ایٹم اپنی جگہ پر خدا۔ لیکن جدید دور کی سائنس تو بڑے وثوق سے ہمیں بتلا رہی ہے کہ کوئی ذرہ خود کو ممکنہ یا کاتی نہیں ہے، کوئی ذرہ تنہا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ہر ذرہ اپنے وجود کے لیے دوسرے ذرے کا محتاج ہے۔ ہر ذرہ خارجی مدد کا محتاج ہے تو وہ ذرہ کائنات جو اپنے تئیں اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تخلیق کا عمل کس طرح بناہ کر سکتا ہے؟

پھر جدید دور کی سائنسی تحقیقات نے حتمی طور پر بتلا دیا ہے کہ ان ذرات کا آپس میں بہت ہی گہرا نظم و ربط ہے۔ اس نظم و ربط کے بغیر کائنات کی تخلیق، اس کا وجود اور اس کا ارتقاء سب کچھ ناممکن ہے۔ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ ان نہایت خیر سے ذرات نے جن کی حقیقت و ماہیت کو ہمارے لیے دیکھنا بھی مشکل ہے کہ وڑھا بلکہ ارب ہا ایسے ستاروں اور سیاروں کو جو دُنشٹا ہے جن کی ہیئت متعین اور ان کی ہیئت کا بیان ممکن ہے، جو اُل قوانین کے تحت قائم و متحرک ہیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کی ترکیب و ترتیب کمالِ حکمت سے، جو مادی فہم و ادراک سے بلند تر ہے، انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات سے کی گئی ہے۔ اور پھر ان ذرات کے اندر خود بھی وہی نظام چھوٹے پیمانے پر قائم اور جاری ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ارب ہا ذرات میں یہ ہم آہنگی اور نظم و ربط کہاں سے آگیا؟

پھر انہی ذرات سے نہ صرف ستارے اور سیارے وجود میں آتے ہیں بلکہ کروڑ ہا ذی رُوح ہستیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک زندہ انسان کس طرح سے عالم وجود میں آگیا؟ اگر کائنات کا ہر بے بس اور بے جا ذرہ اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہے تو میں تو ایک زندہ اور باشعور ہستی ہوں، ایک بے بس ذرے سے زیادہ طاقتور، زیادہ باشعور، زیادہ تخلیقی قوتوں کا مالک، میں اپنے آپ سے پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ اور اپنے

خداوندِ حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے اور میں بھی سرطاعت
 جھکا دینے والوں میں سے ہوں جو جواب دیا گیا، ”اب ایمان لاتا ہے! حالانکہ اس سے پہلے
 تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو
 بچاؤں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو
 ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔“

اس موضوع پر ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب سے خط و کتابت
 کی اور خود بھی تحقیق کی لکھتے ہیں :-

”عہدِ رسالت میں عرب اقوامِ عالم کی تاریخ تہذیب، تمدن ان کے آثار اور علوم و
 فنون سے مطلقاً نا آشنا تھے۔ انہیں یہ قطعاً معلوم نہ تھا کہ فرعون کتنے تھے اور وہ کب سے
 مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ یہی کھدائیاں تو مصر میں ان کا آغاز پچھلی صدی (انیسویں) کے
 آواخر میں ہوا تھا اور فرعونِ موسیٰ کی لاش ۱۹۰۶ء میں ایک انگریز مفتش سر گرافٹن سمتھ کی
 کوششوں سے برآمد ہوئی“ (۶: ۱۲۰)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ڈاکٹر صاحب کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں :-
 ”برٹانیکا کے مضمون ”موسیٰ“ میں ذکر ہے کہ ۱۹۰۶ء میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن
 اسمیٹ سمتھ نے میوں کو کھول کھول کر ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی تھی اور چوالیس میوں کا
 مشاہدہ کیا تھا۔ گولڈنگ لکھتا ہے کہ ۱۹۰۶ء میں سمتھ کو منفظہ کی لاش ملی تھی (یہ منفظہ وہی
 فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا) اس کی ٹہیاں کھولی گئیں تو یہ
 دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور می کے جسم پر
 نہیں پائی گئی۔ گولڈنگ یہ بات بیان کرتا ہے کہ فرعون بحیراتِ ترہ میں غرق ہوا تھا جو اس
 زمانے میں بحیرۃ احمر سے ملی ہوئی تھیں۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل
 پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبلِ فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار

آپ کو از خود پیدا کر لینے کے بعد میں اپنے نظام جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہوں؛ کیا دل کی دھڑکن میرے حکم کے مطابق ہو رہی ہے؛ کیا جگر، پھیپھڑے، گردے اور دیگر تمام اعضا تے جسمانی کوئی کام کرنے سے پہلے میرے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور میری مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیا میرے سر کے بال میری مرضی سے گرتے ہیں، میری ڈاڑھی کے بال میری مرضی کے مطابق سفید ہو رہے ہیں میرے چہرے پر جھریاں میری اجازت سے پڑ رہی ہیں؛ — دل صاف گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے خود نہیں کیا اور میں نہیں کر سکتا۔ ایک قوت، ایک ہستی جو میرے علاوہ کوئی اور ہے — کم از کم میں خود نہیں ہوں — جو میرے پورے نظام جسمانی کو سنبھالے ہوئے اور اس قدر چابکدستی اور صحت کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے کہ میں اس کے نظام کو اور اس کی حکمتوں کو پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اور عام انسانوں کی اکثریت تو اتنی بات سے بھی واقف نہیں کہ ان کے جسم کا سارا نظام کس طرح سے وجود میں آگیا اور اب کس طرح سے چل رہا ہے؛ جگر کہاں واقع ہے، دل کہاں ہے پھیپھڑے کس طرف ہیں؛ وہ کیا کر رہے اور کس طرح سے کر رہے ہیں؛ اُٹ انسان کی بے بسی! اُس انسان کی بے بسی جو اس کائنات کی مضبوط ترین اور ذہین ترین ہستی ہے! ہلے انسان کی بے بسی خود اپنے جسم کے بارے میں، خود اپنے جسم کی تخلیق اور نظام عمل کے بارے میں اور خود اس نظام کو سمجھ سکنے کے بارے میں!

قابل غور بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی تخلیق اور اپنے جسمانی نظام کو چلانے کے بارے میں بے بس ہے تو ایسے سبب بے شمار اور بے بس ذرّہ کائنات اپنی تخلیق خود کس طرح سے کر سکتا ہے؛ پھر کس طرح سے مادہ خود اپنا خالق اور اپنا ناظم بن گیا؛ پھر کس طرح سے یہ کائنات از خود پیدا بھی ہو گئی، از خود ارتقا پذیر بھی ہو گئی اور از خود پورا نظام کائنات نظم و ضبط کی تمام باریکیوں سمیت خود بخود صحت سے جاری و ساری ہے؛ اب تک تو ان نشانیوں کا ذکر کیا گیا جو مجموعی طور پر اس پوری کائنات میں نظر آتی ہیں۔ آیتے اب کچھ ان نشانیوں کا تذکرہ کریں جو جمادات، نباتات، حیوانات بلکہ خود انسان کی شکل میں اس زمین پر بکھری ہوئی ہیں۔

میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں اور سینہ بر سینہ روایات کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ فرعون کی لاش ملی تھی۔

میں ان معلومات سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بحیرات مرہ میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سطح سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا جس کے دوران میں اس کے گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جاسکتا تھا۔ تین ہزار برس کے دوران میں یہ رقتہ رقتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہہ کی صورت میں جم گیا تھا اور پٹیاں کھولی گئیں تو یہ نمک اس پر جما ہوا پایا گیا۔ (۶: ۱۱۲)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام اسرار جو جدید سائنس کو اس دور میں معلوم ہوئے قرآن مجید میں کس طرح سے بیان ہو گئے؟ وہ کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے چودہ سو سال پہلے یہ باتیں بیان کر دیں جبکہ نہ دور مبین تھیں نہ خورد مبین اور نہ سائنسی تحقیق و تفتیش کے آلات۔ ہر سمجھ دار انسان یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں قرآن مجید میں انسانی تخیل کا نتیجہ نہیں ہو سکتیں بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے۔ وہ فرماتا ہے:

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الفرقان: ۶)

”اے نبی کہہ دیجیے، اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے۔“

یہ تمام حقائق جو سائنس کو آج معلوم ہوئے لیکن محمد رسول اللہ کو ڈیڑھ ہزار سال قبل معلوم تھے اپنی اپنی جگہ پر حجت قاطعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سبحانہ کے وجود کی کھلی ہوئی نشانیاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر روشن دلائل ہیں۔ ایسے دلائل جن کا کوئی ہوشمند انسان انکار نہیں کر سکتا۔

کم سے کم مدت حمل

جنین کی پیدائش کی مدت نو ماہ شمار کی جاتی رہی ہے۔ مگر دور جدید میں سائنسی تحقیقات نے

فصل ۱

جمادات :-

قرآن مجید میں ہے :-

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ - اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے۔
 هَذَا عَذْبٌ فُورَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ - ایک لذیذ شیریں، اور دوسرا تلخ و شور اور دونوں کے
 اُبْحَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَدْرًا حَاقًا - درمیان ایک پردہ مائل ہے، ایک رکاوٹ
 رَجْدًا تَحْجُورًا - (الفرقان - ۵۲) ہے جو انہیں گڈبڈھونے سے روکے ہوئے ہے۔

”یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آگرتا ہے۔ اس کے علاوہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پاتے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ ترکی امیر البحر سیدی علی رئیس (کاتب رومی) اپنی کتاب مرآة الممالک میں جو سوٹھویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے، خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشان دہی کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتداءً وہ بھی خلیج فارس کے انہی چشموں سے پانی حاصل کرتی تھی بعد میں ظہران کے پاس کنوئیں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا۔“

— تفہیم القرآن جلد سوم ص ۴۵۸

تلخ و شور پانی کے عین درمیان میٹھے پانی کا وجود سوائے ایک خلاقِ عظیم کے تخلیقی شاہکار کے اور کیا ہو سکتا ہے جسے اپنی مخلوق کی تکلیف و پراس گوارا نہیں۔ اس نے اپنے عظیم منصوبہ کے تحت اس جگہ بھی میٹھے پانی کا انتظام فرما دیا جہاں عام حالات میں میٹھے پانی کا وجود ممکن نہیں۔ پھر سمندر کے اس تلخ و شور پانی میں سے انتہائی احتیاط کے ساتھ پانی کشید کیا جاتا ہے اور

بیان کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چھ ماہ کی مدت گزارنے کے بعد صحیح و سالم پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد تعید حیات بھی رہ سکتا ہے۔ گویا جدید سائنسی نقطہ نگاہ سے جنین کی پیدائش کے لیے کم سے کم مدت نو ماہ کی بجائے چھ ماہ ہے۔

اب آئیے دیکھیں کہیں یہی بات قرآن مجید نے بالکل صراحت کے ساتھ ڈیڑھ ہزار سال قبل بیان تو نہیں کر دی۔

تفسیر ابن کثیر میں ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ ایک صاحب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شکایت لے کر آتے کہ اس کی شادی کو صرف چھ ماہ کی مدت ہوئی ہے اور اس کی بیوی کے بال لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ بیوی کو اصرار تھا کہ بچہ اس کے خاوند کا ہی ہے، حرامی نہیں ہے لیکن اس کا خاوند اور خود امیر المؤمنین عورت کی بات کے قائل نہ ہوتے۔ ابھی اس عورت کو سزا سنانے ہی والے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپہنچے اور انہوں نے از روئے قرآن فیصلہ دیا کہ بچہ عورت کے خاوند کا ہی ہے اور عورت کو باعزت بری کر دینا چاہیے۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا استدلال یہ تھا کہ اگر قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ بچہ جننے کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے نہ کہ نو ماہ۔ وہ دو آیتیں یہ ہیں۔

۱۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

حَمَلْتُهُ أُمَّهُ كَرَاهًا وَوَضَعْتُهُ كَرَاهًا۔

وَحَمَلْتُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔

میں نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنما۔ اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ پھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے۔

(الاحقاف-۱۵)

مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ

پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری

مدت دودھ پلوانا چاہے۔

۲ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ

كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْتَمَّ الرِّضَاعَةَ۔

(البقرہ: ۲۳۳)

انتہائی صاف، شفاف اور شیریں پانی بادلوں کی پیٹھ پر سوار کر کے بالائی علاقوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اتنے کڑوے پانی میں سے بیٹھا پانی نکال لانا اگر تخلیقی فن پارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس خلاقِ عظیم کے لیے یہ زیادہ آسانی سے ممکن نہ تھا کہ کڑوے کا کڑوا پانی ہی بادلوں میں بھر دیا جاتا، نہ یہ پانی پینے کے کام آسکتا اور نہ آبپاشی کے۔ بلکہ جس جس زمین تک یہ پہنچ جاتا اس کی زرعی استعداد بھی تباہ ہو جاتی؟

اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ
 اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَازِنِ
 اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
 اَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔
 کیا تم نے اس پانی کو (غور سے) دیکھا ہے جسے
 تم پیتے ہو۔ کیا تم نے اسے بارش کے ذریعہ اتارا
 ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر
 ہم چاہیں تو اسے دھبے پانی کو رکھاری بنا دیں۔
 پس تم شکر کیوں نہیں کرتے۔
 (الواقعه: ۷۰-۷۸)

بارش کے یہ چھینٹے اتفاقاً ہی زمین پر نہیں گر جاتے بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک زبردست قسم کا نظام ہے جس سے انسانی زندگی رواں دواں ہے۔ اگر بارش کے چھینٹے محض اتفاق کا نتیجہ ہوتے تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ کسی علاقے میں خوب بارش ہو جاتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ کئی کئی سال تک وہاں ایک چھینٹا بھی نہ پڑتا۔ اس کے برعکس صورت حال یہ ہے کہ بارش کا زمین کے تمام خطوں کے لیے ایک مخصوص کوٹہ (Quota) مقرر ہے جو ہر سال صبح وقت پر مل جاتا ہے۔ انسانی آبادی شروع سے لے کر اب تک بارش کے اس مخصوص کوٹے سے وابستہ چلی آرہی ہے اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ بارش ہو گئی اور سال بھر پانی کو ترستے رہے بلکہ بارش کا پانی پہاڑوں پر کہیں جھیلوں کی شکل میں اور کہیں برف کی شکل میں شاک کر دیا جاتا ہے اور یہ شاک اربوں من برف کی شکل میں سال بھر تھوڑا تھوڑا ٹیسی علاقوں کی طرف سپلائی ہوتا رہتا ہے۔ بارش کا ایک اور کمال دیکھیے:

وَمِنْ آيَاتِهِ يُبْرِقُ الْبَرْقُ
 اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ حمل کی مدت اور دُودھ پلانے کی مدت کا مجموعہ دُحاتی برس ہے۔
 دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دُودھ پلانے کی مکمل مدت دو برس ہے۔
 حمل کی مدت خود بخود معلوم ہو گئی یعنی دُحاتی برس سے دو برس تفریق کر دیں یعنی چھ ماہ!

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
الرزم: ۱۲۴

کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس میں ڈر بھی ہے اور
لاچ بھی۔ اور آسمان سے پانی اتارتا ہے جس سے
زمین موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ اس
میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے

کام لیتے ہیں۔

یہ بجلی بھی خوب رہی، اس میں خوف بھی ہے اور طمع بھی۔ خوف تو بجلی کے گر جانے سے تباہی
کا، اور طمع اس بات کی کہ پانی سے زمین سیراب ہوگی۔ جدید سائنس نے ایک اور انکشاف بھی بجلی کے بارے
میں کیا ہے کہ اس کی کڑک سے بارش کے پانی میں کثیر مقدار میں نائٹروجن ملا دی جاتی ہے وہی نائٹروجن
جو کھاؤ کا جزو عظیم ہے۔ نائٹروجن سے ملا ہوا یہ پانی جب زمین پر گرتا ہے تو زمین کی زرعی قوت کو
کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔

یہ پہاڑ جو ہمارے لیے برف اور پانی کا ذخیرہ ہیں ایک اور اہم کام انجام دیتے ہیں وہ یہ کہ
پہاڑ زمین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، وہ زمین جس کے پیٹ میں کھولتے ہوتے آتش فشاں،
انتہائی گرم سیال مادے اور گیسوں موجود ہیں، کبھی سکون سے اپنی سطح ایک سی برقرار نہیں رکھ سکتی تھی،
اگر پہاڑوں کی لمبی لمبی میخیں اس کے پیٹ میں نہ گاڑ دی جاتیں۔ یہ بات قرآن مجید میں یوں بیان
کی گئی:

الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّ
الْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝ (النبا: ۷۹)

کیا ہم نے زمین کو چنگھوڑا اور پہاڑوں کو
میخیں نہیں بنا دیا۔

نیز فرمایا:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ ۝ (لقمان: ۱۰)

ہم نے زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں تاکہ
وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔

آگ کے وجود کو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔

چند اہم پیشین گوئیاں جو رسمی ہوں گی

زمانہ قرب قیامت سے متعلق چند ایسی پیش گوئیاں احادیث نبویہ میں ملتی ہیں جو آج سے چودہ سو سال قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتیں۔ اور آج کے دور میں حرف بحرف پوری ہو گئیں۔ اس بات کی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے رسول نے اللہ تعالیٰ سے ان کا علم حاصل کیا اور انسانیت (خصوصاً آج کے دور کی نسلوں) کو ان اہم باتوں سے خبردار کر دیا۔

اس اعتبار سے یہ سچی پیش گوئیاں بیک وقت وجود باری تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صادقہ اور آخرت کے برحق ہونے پر پختہ اور قطعی دلائل ہیں۔ ذیل میں ایسی چند احادیث صرف اردو ترجمہ کے ساتھ نقل کی جاتی ہیں :-

اعظیم وحیران کن امور در پیش ہونگے

قال عليه الصلوة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تروا اموعا عظما ما لم تكونوا ترونها ولا تختدون بها انفسكم، رواه نعيم بن حباد في كتاب المشهور بكتاب الغتن من حديث سمرة بن جندب ورواه احمد البراز والطبراني في الكبير.

• رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسے بڑے امور نہ دیکھو جو جن کو اب تم نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کا تصور تمہارے ذہنوں میں ہے۔

دوبدیساتنی ترقی، انسان کی جانب سے تسخیر کائنات اور خلا نوردی کی طرف واضح اشارہ

اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ - کیا تم نے آگ کو دیکھا ہے جسے تم تاپتے ہو کیا
 اَانتُمْ اَلنَّاسُ شَجَرَتَاهُمَا مَخْنُومُونَ - تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم اسے
 الْمُنشُوتُونَ - (الواقعه - ۷۶، ۷۷) پیدا کرنے والے ہیں؟

ہوا، پانی اور زمین کی نعمتوں کی طرح آگ بھی انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کیا یہ خود بخود وجود میں آگئیں؟ کیا انسان نے ان کو پیدا کیا؟ کیا ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کا نظام انسان چلا رہا ہے؟ کیا آگ اور پانی میں کوئی ایسا سمجھوتہ ہے جس کے تحت یہ دونوں اپنے اپنے وجود کو اور ایک بہترین نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ اگر انسان کی عقل سلامت ہے تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ فطرت کی یہ بے پناہ اور بے حدود حساب پھیلی ہوئی اندھی بہری قوتیں خود کو پیدا کرنے اور پھر آپس میں نظم و ربط قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، ان کی تخلیق و تنظیم کے لیے ایک قدیر و بصیر خالق کا وجود مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

فصل (ب)

نباتات

نباتات کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی بے شمار نشانیاں ہیں۔

وَآيَةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيِّتَةُ
 اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
 يَأْكُلُونَ - وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ
 نَّخِيلٍ وَّاَعْنَابٍ وَفَجْرًا فِيهَا مِمَّنِ
 الْعُيُونِ - لِيَاْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَاَمَّا
 عَمَلَتُهُ اَيُّدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ -
 ”ان کے لیے ایک نشانی مژدہ زمین ہے جسے ہم
 نے زندہ کیا اور اس میں سے ایک دانہ نکلا جسے وہ
 کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغ
 پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیئے تاکہ لوگ
 زمین کے پھل کھاتیں اور یہ سب کچھ انسان کے
 ہاتھوں نے نہیں بنایا پس کیا یہ لوگ شکر نہیں

کرتے؟ (یس: ۲۳-۲۵)

ہے۔ عجیب و غریب سائنسی ایجادات مثلاً سکی نظام ریڈیو۔ ٹیلی وژن۔ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ،
طب و جراحی کے جدید کمالات، اور زندگی کی دیگر حیران کن سہولتیں بھی اسی ضمن میں آتی ہیں۔

۲۔ عظیم و بلند عمارتوں کی تعمیر و زیبائش

قال عليه الصلوة والسلام: "إذا رأيت الحفافة العذراة العالة رعاة الشاء
يتناولون في البنيان فانتظر الساعة۔ (رواه البخاری ومسلم)
وقال عليه الصلوة والسلام: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر
الزلزلة ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن وحتى يتناولوا الناس في
البنيان (رواه البخاری في صحيحه عن ابی هريرة)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آپ ننگے پاؤں، برہنہ جسم فقیر لوگ اور
بکریوں کے چرواہوں کو دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر
سبقت لے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا! اور فرمایا: قیامت اُس وقت تک
قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھانا نہ لیا جائے، زلزلے کثرت سے ہوں، زمانہ مختصر ہو جائے،
فتنے ظاہر ہو جائیں اور لوگ عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں“

محدثین کا کمال ایمان دیکھیے کہ اس حدیث کو نسلاً بعد نسل منتقل کرتے چلے گئے اور پورے
ساڑھے تیرہ سو سال تک اس میں بیت گئے تا آنکہ یہ پیش گوئی خسوف بحرف پوری ہو گئی۔
آج سے صرف پچاس سال پہلے دنیا کے کسی شہر کی تصویر دیکھیے اور اس کا مقابلہ جدید تعمیر شدہ
شہر سے کیجیے۔ یہ بات خاص عرب ممالک پر صادق آتی ہے جہاں پر بہت بڑی اور اونچی عمارتیں بنا
کی دھن واضح نظر آتی ہے۔ ریاض کے قریب ”انخرج“ میں راقم نے ایک مکان کرایہ پر لیا بڑا خوبصورت
مکان تھا۔ مالک مکان چرواہا بھی تھا اور جب کرایہ لینے آتا تو اکثر ننگے پاؤں ہوتا صدق اللہ تعالیٰ
۔ الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

ایسے ہی ایک اور جگہ یوں فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى - "بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ نکال لاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے تو پھر تم لوگ کہاں

(انعام - ۹۵) پٹ کے جاتے ہو۔

قابل غور بات یہ ہے کہ زمین میں سے اناج اور پھلوں کے باغات کا پیدا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس زمین سے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات کی بے شمار چیزیں مل کر پورے تعاون اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنی قوتیں ایک بیج کے دانے پر مرکوز نہ کر دیں۔ زمین کی زرعی قوت، پانی، خاص قسم کا درجہ حرارت، بروقت بارش، سورج کی گرمی، آکسیجن اور نائٹروجن کا عمل غرض یہ کہ بے شمار عوامل اپنی اپنی جگہ سے ایک بیج کے دانے پر اپنی قوتیں صرف کر رہے ہیں، اگر سورج کی گرمی کم یا زیادہ ہو جاتے، اگر زمین کی زرخیزی کم یا زیادہ ہو جاتے، اگر سمندر سے بادل آکر بارش نہ برسائیں اور موسم ٹھیک ٹھیک وقت پر اس بیج کی چاکری نہ کریں تو اناج کا یہ دانہ اور کسی بیج کا کوئی پودا کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ سمندر، ہوا، بارش، سورج، زمین مختلف گیسوں اور اسی طرح بے شمار مختلف قوتیں کسی ایسی بڑی قوت کے ماتحت ہیں جو انہیں ایک نظام میں بانڈھے ہوئے ہے جس نظام کے تحت یہ ٹھیک ٹھیک وقت پر ٹھیک ٹھیک نسبت سے باہمی تعاون کرتے ہوئے اس بیج کی چاکری کرتی ہیں اور وہ بیج پودے کی شکل میں زمین سے بڑھتا ہے، بیچارے کسان کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ زمین کو نرم کرنے کے بعد اس میں بیج ڈال دے اور پھر اناج کے لیے خدا کی رحمت کا منتظر رہے۔ یہ بات قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے :-

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الذَّارِعُونَ - کو
"کیا تم نے دیکھا ہے جو تم کاشت کرتے ہو، کیا تم اگاتے ہو، یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟"

وقال عليه افضل الصلوة والسلام: "من اعلام الساعة واشراطها ان
يعمر خراب الديار ويخرب عمرانها، رواه الطبراني عن ابن مسعود و
ابن عساكر عن محمد بن عطية -

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"قیامت کی علامتوں اور شرائط میں سے یہ ہے کہ اُجڑے ہوئے گھر آباد ہو جائیں گے اور
آبادیاں اُجڑ جائیں گی"

دیہاتی لوگوں کا تیزی سے شہروں کی طرف منتقل ہونا مراد ہے بہت سی دیہاتی آبادیاں
اُجڑ گئیں اور شہر میں وسعت پیدا ہو گئی اور غیر آباد جگہیں آباد ہو گئیں،

وقال عليه الصلوة والسلام:

"ان من اعلام الساعة واشراطها، ان تزحف المحاريب وتغرب القلوب"
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"بے شک قیامت کی نشانیوں اور شرطوں میں سے یہ ہے کہ مسجدوں کی محرابوں کی زینبائش
کی جاتے گی اور دل ویران ہو جائیں گے"

۳۔ زمین کی طسائیں کھنچ جائیں گی

(سواریاں انتہائی تیز رفتار ہوں گی)

قال عليه الصلوة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتزوي
الارض زيا، اي تطوى ويضم بعضها الى بعض - رواه الطبراني في الكبير من
حديث ابى موسى الاشعري -

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ مختصر نہ ہو جائے اور زمین مسکڑ

اگر ہم چاہیں تو ہم اسے خاک کر ڈالیں اور تم
تفکھون۔ اِنَّا لَمُعْرَمُونَ بَلْ غَنُّ
مَحْدُوْمُوْرًا۔ (الواقعه: ۶۳ تا ۶۷)

پڑ گیا بلکہ ہم تو محروم ہیں۔“

تو معلوم ہوا کہ کاشت کرنا تو انسان کے بس میں ہے لیکن کھیتی کا اگانا اور پودے کو بڑھانا انسان
کے بس میں نہیں ہے۔

پھر نباتات میں بھی زندگی کا پورا نظام موجود ہے۔ قرآن مجید نے آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے
اس نظام کی نشان دہی کی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان میں بھی نروادہ موجود ہیں۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ۔
”ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس زمین
میں نباتات اگاتے جس میں کہ ہر قسم کا عمدہ
جوڑا موجود ہے۔“ (تھمان: ۱۰)

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند
ہمہ از بہر تو سرگشته و فرماں بردار
تا تو نمانے بگفت آری و بغفلت نخوری
شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهٖ
اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا
الْاَرْضَ شَقًّا۔
”انسان اپنی خوراک کی طرف تو دیکھے کہ
کہاں سے آئی، ہم ہی نے پانی برسایا (جی بھر کر،
پھر زمین کو بچاڑ دیا) بیج کے اندر سے پودا

(عبس: ۲۴ تا ۲۶) زمین کو چیرتا ہوا باہر نکلا۔

نہ جاتے: " زمین کی طنائیں کھنچ جائیں گی،

رپوری دنیا ایک شہر کی طرح ہو کر رہ گئی ہے۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ ایک
برا عظم سے دوسرے برا عظم جانا بالکل اس طرح ہو گیا ہے جیسے کسی شہر کے ایک محلے سے دوسرے
محلے کی طرف جانا ہو۔

قال عليه الصلوة والسلام :-

« وستترك القلاص فلا يسعى عليهما » (رواه مسلم في صحيحه عن ابى هريرة)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

« تم اونٹنیاں بالکل چھوڑ دو گے اور تیز رفتاری کے لیے ان پر سواری نہیں کرو گے اور اونٹنیوں
کے کہیں زیادہ تیز رفتار سواریاں عیسرا جائیں گی۔ »

قال عليه الصلوة والسلام : « يكون في آخر الزمان رجال يركبون على

المياثر حتى ياتون ابواب المساجد، رواه احمد والحاكم عن ابن عمر والمياثر:

كما فرها عمر بن الخطاب هي السروج العظام، وقال عليه الصلوة والسلام :

« سيكون في آخر امتي رجال يركبون على السروج كاشباه الرجال يندون على

ابواب المساجد » رواه احمد في مسنده والحاكم في صحيحه عن ابن عمر «

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

« آخری زمانے میں لوگ ہونگے جو بڑی بڑی گدیوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں

تک آپہنچا کریں گے «

اور فرمایا :

« عنقریب میری امت کے آخری لوگوں میں ایسے آدمی ہوں گے جو گدیوں پر سوار ہونگے

گویا کہ وہ (اونٹوں کے) کجاوے ہیں اور مسجدوں کے دروازوں میں جاؤں گے «

آج ہم اس صفت کو کاروں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جن کی سیٹیں بڑے بڑے کجاووں کی

فصل ج

حیوانات

یوں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ زمین پر بے شمار قسم کے جانور پیدا کیے گئے اور ان کی ساخت بتاتی ہے کہ یا تو یہ سواری کے لیے بنائے گئے ہیں یا بار برداری کے لیے۔ اور یا پھر خوراک کا کام دے سکتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ

”یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِنَا مِنْ مَّيِّمٍ

ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان

فَرِيٍّ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا

خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے

لِلشَّارِبِينَ ۗ وَالنَّحْلُ ۖ (النحل: ۶۶)

والوں کے لیے خوشگوار ہے“

سچی بات یہ ہے کہ اگر دودھ کی پیدائش کے نظام پر ہی غور کیا جائے تو انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ پیٹ میں ایک طرف ناپاک اور غلیظ گوبر اور دوسری طرف بدبو دار خون۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ انتہائی صاف، خوشگوار اور خوشبودار ہے اور انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر انسانی عقل ضد کی وجہ سے اندھی نہ ہو گئی ہو تو ایک ایسی ہستی کا وجود جو ماؤں میں ماما پیدا کر دیتا ہے اور ماما کے ذریعے دودھ پلا دیتا ہے، سورج کی روشنی سے زیادہ عیاں نظر آتا ہے۔

انسان کی بساط تو فقط اتنی ہے کہ وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا تو کیا کرے گا اگر مکھی اس کے کھانے میں سے کچھ چھین کر لے جاتے تو وہ بھی واپس نہیں لا سکتا۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

”وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو

اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا

پکارتے ہیں بگٹی بھی کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔

طرح ہی ہیں جن پر لوگ سوار ہو کر مساجد کے دروازوں تک جا پہنچتے ہیں۔

ولقد سئل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن سرعة سير الدجال في الارض؛
قلنا يا رسول الله وما اسرعه في الارض؟ قال: "كالغيث استدبره الريح" ای
کسرعه السحب، الحدیث رواہ مسلم فی صحیحہ وغیرہ من حدیث النواس
بن سمان۔

اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دجال کتنی تیزی کے ساتھ ساری
زمین میں گھوم جائے گا، ہم نے کہا یا رسول اللہ زمین میں اس کی کیا رفتار سفر ہوگی؟ تو
آپ نے جواباً فرمایا "اس بادل کی طرح جسے دین ہوا دھکیل رہی ہو یعنی جس طرح
بادل تیز چلتے ہیں" اور اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوائی جہازوں کی طرف اشارہ ہے۔

۴۔ نطق الجماد: (بے جان اشیاء باتیں کرنے لگیں گی)

قال عليه الصلوة والسلام: "انها امارات من امارات بين يدي الساعة
اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى يحدثه تعلاء وسوط ما احدث
اهله من بعدة۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا تو واپس نہ لوٹ پائے گا
حتیٰ کہ اس کے جوتے اور چھڑی اسے وہ کچھ نہ بتادیں جو اس کے دل سے چلے جانے کے بعد اس کے
گھر والوں نے کیا ہوگا۔

ٹیسپ ریکارڈر کی طرف اشارہ ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن
ایجادات ہوں گی،

لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ -

چاہے سارے اس کام کے لیے اکٹھے
کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی مکھی ان
سے کوئی چیز چھین کر لے جاتے تو وہ واپس
نہیں لے سکتے۔

(الحج - ۷۳)

۵۔ علمی ترقی اور دین سے ناواقفیت

قال عليه الصلوة والسلام:

« من اقترب الساعة كثرة القراء، وقللة الفقهاء وكثرة الامراء

وقللة الأمناء »

« رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے قریب قاری کثرت سے ہوں گے

اور علماء کم ہوں گے۔ رؤسا زیادہ ہوں گے اور امانت دار لوگ کم ہوں گے »

وقال عليه الصلوة والسلام: « ان من اشراط الساعة ان يظهر العلم »

رواه احمد والبخاري والطبراني وغيرهم عن ابن مسعود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قلم کا استعمال بکثرت ہوگا » اہل قلم زیادہ ہوں گے،

وقال عليه الصلوة والسلام: « سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء و

يقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج » والحديث رواه الحاكم و

والطبراني عن أبي هريرة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

« عنقریب میری اُمت پر ایسا وقت آئے گا کہ قاری زیادہ ہوں گے اور علماء کی قلت

ہوگی علم اٹھایا جائے گا اور قتل و غارت عام ہوگی »

وقال عليه الصلوة والسلام: يكون في انحرالزمان عباد جمال وقراء

فسقة » رواه ابو نعيم في الحلية والحاكم عن انس

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« آخری زمانہ میں جاہل عبادت گزار اور فاسق قراد بکثرت ہوں گے »

باب ۵

تخلیق انسانی

اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی خود انسان کا اپنا وجود ہے چنانچہ

قرآن مجید میں ہے :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

”اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے

جو یقین رکھتے ہیں۔“

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔

اور خود تمہاری اپنی ذات میں اللہ کے وجود

کی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟
(التاریات: ۲ تا ۲۱)

قرآن مجید میں کئی جگہ یہ دلیل دی گئی ہے کہ انسان سرے سے موجود ہی نہیں تھا، یہ ناحیہ تر تھا

اس کو پیدا کیا گیا :

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ

”میں نے تجھے پیدا کیا اور تو تو کچھ بھی نہیں تھا

سے سے موجود ہی نہیں تھا۔“

لَعَلَّكَ شَيْئًا۔ (مریم: ۹)

ایک اور جگہ یوں بیان کیا گیا :

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ

”کیا انسان پر زمانے میں ایسا لمحہ بھی آیا ہے کہ

وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے اسے ایک

بوند سے پیدا کیا تاکہ اسے آزما میں چنانچہ ہم

نے اس ایک بوند کو سمیع و بصیر بنا دیا۔“

الدَّهْرِ لَعَلَّكَ شَيْئًا مَّذْكُورًا

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔

(الدبر: ۲ تا ۲)

اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مادہ پرست لوگوں کا یہ نظریہ کہ مادہ (Matter) اپنے آپ کو

۶۔ تجارت میں وسعت

قال عليه الصلوة والسلام: "ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة وقشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وفتشوا القلم و ظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق" رواه احمد والمحاكم وصححه والبخاري عن ابن مسعود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”قیامت کے قریب خاص لوگوں کی بات مانی جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی حتیٰ کہ عورت تجارت (کے معاملہ) میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی۔ قطع رحمی ہوگی۔ قلم کا استعمال بکثرت ہوگا، جھوٹی گواہی کا ظہور ہوگا اور سچی گواہی چھپائی جائے گی“

۷۔ خواتین کی زیب و زینت

قال عليه الصلوة والسلام: "يكون في آخر الزمان رجال، يدكبن على المياثر حتى يأتون ابواب المساجد نساء وهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كاسنمة البخت العجاف، العنوهن فانهن ملعونات" رواه احمد والمحاكم عن ابن عمر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”آخری زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو پریشکوہ گدیوں والی سوار یوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک آیا کریں گے۔ ان کی عورتیں لباس کے باوجود برہنہ ہوں گی اور ان کے سروں پر نیچی اونٹوں کے کوبان کی مانند (دوپٹے) ہونگے۔ ان پر لعنت بھیجو، وہ ملعون ہیں“

پیدا بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا بھی ہے اور اپنے حال اور مستقبل کا انتظام بھی خود ہی کر لیتا ہے۔ یہ نظریہ قرآن کی اس دلیل کے سامنے کس حد تک ٹھہر سکتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو۔ اگر مادے میں اپنے آپ کو پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو تم تو مادہ ہی ہو تمہارا وجود بھی تو مادی اشیاء ہی سے بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچو کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی نشوونما دی ہے؟ تمہارے جسم میں اعضائے ربیہ یعنی دل، دماغ، جگر اور پھیپھڑے ایک مسلسل عمل میں مشغول ہیں۔ کیا ان سب کو تم حرکت دیتے ہو؟ تم مادہ ہو، تم اس خون کو جو کہ شریانوں میں دوڑ رہا ہے کیا خود دوڑا رہے ہو؟ ذرا انصاف سے اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہارے بدن کا یہ سارے کا سارا انتہائی پیچیدہ نظام کیا صرف داخلی طور پر خود بخود چل رہا ہے؟ کیا کہیں کوئی باہر کی قوت تو اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ تمہارے چہرے پر تمہاری مرضی کے خلاف پسینہ آجاتا ہے۔ روکنے کی کوشش کرتے ہو لیکن آنکھوں میں آنسو آہی جاتے ہیں۔ تمہارے بس سے باہر ہے کہ اپنے بالوں کو سفید نہ ہونے دو۔ تم خود مادہ ہو تمہارا اختیار تو تمہارے جسم کے ایک بال پر بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ مادہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیتا ہے لیکن اپنی پیدائش کا وقت تو تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا اور یہ پیدائش جن مرحلوں سے اور جن مرحلوں سے گزر کر آئی ہے اگر ان پر غور کرنے لگو تو بہت ہی شرمناک اور قرآن مجید سوالیہ انداز میں دعویٰ کرتا ہے:

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ - اَأَنْتُمْ
 تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ -
 ”ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پس کیا تم اس کی
 تصدیق نہیں کرتے؟ کیا تم نے دیکھا ہے وہ قطرہ
 جو تم عورت کے رحم میں ٹپکاتے ہو؟ کیا ان قطروں
 کو تم پیدا کرتے ہو یا ہمیں پیدا کرنے والے
 ”ہم ہیں؟“

والواقعہ: ۵۸، ۵۹

قرآن مجید کی دلیل یہ ہے کہ مادے کے بارے میں یہ دعویٰ کہ اس میں تخلیقی صلاحیت موجود ہے مادے کے قریبی مطالعے کے بعد رد ہو جاتا ہے۔ مادے کا انتہائی قریبی مطالعہ صرف اس طرح سے

وقال عليه الصلوة والسلام: "صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه مسلم عن أبي هريرة (

آپ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں دو قسم کے لوگ جنہیں میں نے نہیں دیکھا جہنمی ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی شکل کے کورے ہوں گے۔ ان سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے دوسرے وہ کج رویہ نیم برہنہ اور اپنی طرف متوجہ کرنے والی عورتیں ہوں گی جن کے سرختی اونٹوں کی ٹیڑھی کو ہانوں کی طرح ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے پر پہنچ جاتی ہے۔

۸۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی مشابہت کریں گے

قال عليه الصلوة والسلام: "من اقترب الساعة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال" رواه (ابو نعيم في الحلية عن حذيفة وروى غيره مثله)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"قرب قیامت میں مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے اور عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی"

۹۔ شراب نوشی اور کثرت زنا

قال عليه الصلوة والسلام: ان ناسا من أمتي يشربون الخمر ويستمونها

کیا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے قریب ترین مادے کو دیکھ لے۔ مادہ کا اس سے زیادہ صحیح اور قریبی مطالعہ ہرگز ممکن ہے کہ انسان خود اپنے ہی مادے پر غور کر لے اور اپنے نفس سے ہی یہ فیصلہ لے لے کہ کہیں وہ تخلیق میں کسی بیرونی قوت کا محتاج تو نہیں ہے۔

اگر ہر چیز اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتی، اپنے آپ کو خود ہی چلا سکتی اور اپنے آپ کو خود ہی سنبھال سکتی تو پھر انسان سے تو بہتر کوئی مادی چیز اس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ انسان اپنے آپ کو پیدائش کے ابتدائی مراحل سے لے کر آخری منازل تک خود ہی اپنے آپ کو گزارا لاتا، خود ہی قطرہ بن کے ٹپکتا۔ خود ہی خون کا لوتھڑا بن جاتا۔ اپنی مرضی سے ہی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا پھر اپنی مرضی سے ہی ہڈیاں پیدا کر لیتا چلتا، تو عورت بننے کی بجائے مرد بن جاتا۔ مرد کی بجائے عورت بن جاتا۔ سیاہ فام بننے کی بجائے انتہائی سُرخ و سفید رنگ کا بن جاتا۔ اپنی آنکھیں اور ناک نقشہ اپنی مرضی سے انتہائی خوبصورت بناتا۔ دنیا میں کوئی چھٹی ناک والا انسان نظر نہ آتا، کوئی سیاہ رنگ کا انسان نظر نہ آتا، کوئی شخص بھی کند فہن کمزور اور کسی صلاحیت سے عاری نہ ہوتا۔ ہر شخص دنیا میں بیک وقت حسنِ یوسف، دمِ عیسیٰ اور یدِ بیضا سے آراستہ ہوتا۔ ارسطو کی سی ذہانت اور رستم کی سی طاقت کا مظہر بن کر پیدا ہوتا پھر پیدائش کے بعد بڑھتا ہی چلا جاتا۔ کوئی شخص ٹھگنا نہ رہتا اور چونکہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی اہلیت کا دعویٰ رکھتا ہے اس لیے کبھی بیمار نہ ہوتا۔ جسم پر کوئی سفید بال نہ اُگنے دیتا۔ اس کا دل اس کی مرضی سے حرکت کرتا، اس کے پھیپھڑے اُس کی اجازت سے خون صاف کرتے جس چیز کو چاہتا کھا لیتا اور ہضم کر ڈالتا، بڑھاپے کے آثار کبھی اُس کے چہرے پر نمایاں نہ ہوتے، ہنسنے اور کاہلی کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیتا اور موت تو بہت تکلیف دہ چیز ہے اس کا عمل دخل زندگی سے ختم کر دیتا۔

لیکن انسان اگر آنکھیں کھول کر دیکھے تو حالات کا رخ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ انسان خود مادہ ہے اور یہ مادہ اپنے آپ سے باغی ہے اس کا کنٹرول ٹاور (Control Tower) اس کے جسم

سے کہیں باہر ہی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس دلیل کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَ أَمْرٌ
 حکایا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں

بغير اسمها روات الحاكم في المستدرک۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک میری امت کے لوگ شراب پیا کریں گے البتہ اس کا نام بدل لیا کریں گے“

وقال عليه الصلوة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافدا

البهايم في الطرق“ روات الطبرانی عن ابن عمر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ جانوروں کی طرح سر بازار زنا

نہ کریں گے“

وقال عليه الصلوة والسلام: لا تقوم الساعة حتى توجد المداة نهارا تنكم

وسط الطريق، لا ينكر ذلك احد فيكون امثلهم يومئذ الذي يقول لو تحييتما

عن الطريق قليلا، اعاذنا الله من هذا“ روى الحديث الحاكم عن ابى هريرة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اُس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی حتیٰ کہ عورت سے دن و باڑے سر بازار زنا کیا جلتے گا

جسے کوئی برا نہ جانے گا اور ان میں سے سب سے بہتر انسان وہ متہمور ہوگا جو ان سے یوں کہے گا:

یہاں یہ کام اگر راستے سے ذرا ہٹ کر کر لیا ہوتا تو مناسب ہوتا۔ اللہ ہمیں اس صورت حال

سے محفوظ رکھے“

زنا روے، سوٹین اور ڈنمارک جیسے ممالک میں بڑی بڑی شاہراہوں پر ایسے کلب موجود

ہیں جہاں اس قسم کے (live show) برسر عام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف پارکوں

میں اسی قسم کے بے حیاتی کے مناظر دیکھے جاسکتے ہیں۔ راقم سطور خود بھی اس کا شاہد ہے)

وقال عليه الصلوة والسلام: ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر

الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر“ والحديث رواه البخاري ومسلم و

هُمُ الْخَالِقُونَ - (الطور: ۳۵) یا یہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے خود ہیں؟

پھر انسان یہ بھی تو سوچے کہ جس مادے سے وہ بنا ہوا ہے وہ انتہائی بے جان مادہ ہے۔ اگر انسان کے جسم کا کیمیائی تجزیہ کیا جائے تو انسانی جسم کچھ دھاتوں، کچھ نمکیات اور کچھ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ دھاتیں، یہ نمکیات اور یہ پانی ہر جگہ سے عام مل سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ انسانی جسم میں یہ سب اجزاء کس تناسب اور کس ترکیب سے پائے جاتے ہیں۔ ان سب اجزاء میں کہیں بھی زندگی کی رمتی نظر نہیں آتی۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انہیں بے جان اجزاء کو ایسی ترتیب، ایسی ترکیب اور ایسے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے کہ یہ بے جان مادہ ایک خود شناس اور عقل مند انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ انسان جو زندگی اور زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور ہے۔ اس کی توجیہ قرآن مجید کے اس دعوے کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ
أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ

”تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ
تم تو مردہ تھے (مردہ اجزاء پر مشتمل تھے)

(البقرہ - ۲۸) چنانچہ اُس نے تمہیں زندہ کیا“

بے جان مادے میں زندگی کیسے پیدا ہو گئی، یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فلسفے کی تاریخ اور جدید ترین سائنس کی تحقیق اس مسئلہ کے حل سے ابھی تک عاجز ہے۔

آیتے اب تخلیق انسانی کے مراحل کو قرآن مجید کی نظر سے کچھ تفصیلاً دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ
مِّنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي
قَرَارٍ مَّكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ لَحْمًا - ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنَّا خَلْقًا

”ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم
نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک مدت معینہ تک
ایک محفوظ مقام میں رکھا۔ پھر ہم نے نطفہ سے
خون کا لوتھڑا پیدا کیا۔ پھر ہم نے خون کے
لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی کو پیدا کیا پھر
اس بوٹی کے بعض اجزاء سے ہڈیاں پیدا کیں

رَفِعَ الْعُلَمَاءُ مَوْتِ الْعُلَمَاءِ وَكَثْرَةَ الْجَمَلِ: الْجَهْلُ بِالدِّينِ =

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھالیا جائیگا اور جہالت بڑھ جائے گی اور زنا زیادہ ہو جائے گا اور شراب بکثرت پی جلتے گی۔“ (علم کے اٹھ جانے سے مراد علماء کی موت ہے، جہالت کے بڑھنے سے مراد دین سے جہالت کا ہونا ہے)

۱۔ سوڈی کاروبار کا غبار کی طرح پھیلنا

قال عليه الصلاة والسلام: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم الا اكل الربوا فمن لم ياكل اصابه من عبارة" روى الحديث ابو داود وابن ماجه والحاكم عن ابى هريرة (

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک سوڈ خور ہوگا اور جو نہ کھلتے گا اسے بھی اس کی کچھ نہ کچھ گروہ پیچ جائے گی۔“

(دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس میں تجارت، صنعت اور زراعت کا کوئی کاروبار سوڈی قرضوں کے بغیر نہیں چل سکتا)

۱۱۔ دل کے دوسے اور ناگہانی موت:

قال عليه الصلاة والسلام: "من اقتاب الساعة موت النجاة" رواه ابن ابى

شبيه عن الشعبي (

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ناگہانی موت قیامت کے قرب کی علامت ہے۔“

آخِرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ
الْبَنَاتَيْنِ۔

پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر
ہم نے اس میں رُوح ڈال کر اس کو ایک

دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ سو کسی بڑی
شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے

والمؤمنون: ۱۲ تا ۱۴

”مارا جاتے انسان، کیسا ناشکر ہے کس

چیز سے بنایا اس کو؟ ایک بوند سے اسے

پیدا کیا اور پھر اسے خاص اندازہ پر رکھا“

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے کسی

وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اُس نے

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا كُنْتُمْ تَعْتَدُونَ۔

أَيُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَةٍ

خَلَقَهُ فَقَدَّرْنَا۔ (عبس ۱۹-۱۷)

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔

طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے“

(نوح: ۱۲۳)

پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ
ایک ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر و وقت بالفعل کار فرما ہے اور ایک کے
وجود اور نشوونما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ
سب کچھ ایک لگے بندھے قانون پر مہور رہا ہے جس کو ایک اندھی بہری بے علم و بے ارادہ فطرت چلا رہی
ہے۔ لیکن وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے
اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس میں ایک حکیم و قادر مطلق ہستی کا ارادی
فیصلہ کس شان سے کام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا، نہ اُس
میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو۔ یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال، کہیں گوشت
اور کہیں ہڈی بنتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی اُس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس کے
اندرا انسان بننے کی استعداد رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں۔ ان تخموں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک
وقت میں ایک مرد سے جتنا نطفہ خارج ہوتا ہے اُس کے اندر کئی کروڑ تخم پاتے جاتے ہیں اور ان

داس بات کا آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج سے پچاس سال قبل ناگہانی اموات یا ایسی امراض جو ناگہانی موت کا باعث ہوں، کس قدر تھیں اور آج کل کس قدر ہو گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو گیا ہے۔ اچھے بھلے تنومند انسان دل کے دوروں کا شکار ہو رہے ہیں۔

۱۲۔ کلام حسین اور اعمال بد:

قال عليه الصلوة والسلام: "انه سيكون في أمتي اختلات وفروقة، قوم يحسنون القول ويستيتون العمل" رواه ابو شعيب الحداد في فوائد، وابوداؤد والمحاكم في المستدرک من حدیث قتادة و انس و ابی سعید و رواه احمد و ابوداؤد، وابن ماجه و المحاکم من حدیث انس و حدیث.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”یقیناً میری امت میں اختلاف اور فرقہ بازی ہوگی، ایسے لوگ ہونگے جن کی باتیں اچھی ہوں گی اور اعمال بُرے ہوں گے“

۱۳۔ جہاد بالسیف کی معطلی

روی عن رسول الله انه قال: "من اشراط الساعة سوء الجوار و قطيعة الارحام، وان يعطل السيف من الجهاد" رواه ابن مريويه عن ابى هريرة و ابونعيم في تاريخ اصبهان،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پڑوسیوں سے بدسلوکی ہوگی، رشتے ٹوٹ جائیں گے اور جہاد سے تلوار روک لی جائے گی“

میں سے ہر ایک بیضہ اُنٹی سے مل کر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر یہ کسی حکیم و قدیر اور حاکم مطلق کا فیصلہ ہے جو ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت پر چھانٹ کر بیضہ اُنٹی سے ملنے کا موقع دیتا ہے اور اس طرح استقرارِ حمل رونما ہوتا ہے۔ پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے بعضی خلیے (Egg Cell) کے ملنے سے جو چیز ابتدائاً بنتی ہے وہ انی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر نہیں دیکھی جاسکتی۔ یہ تھیری چیز ۹ مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جن بے شمار مخلوق سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر ان ایک حکیم فعال کاراوی فیصلہ کام کرتا رہا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے اور کس کو مردہ۔ کس کو معمولی انسان کی صورت و ہیئت میں نکالنا ہے اور کسے ان گنت غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے۔ کس کو صحیح و سالم نکالنا ہے اور کسے اندھا، بہرا، گونگایا، ٹنڈا اور لُٹجا بنا کر پھینک دینا ہے۔ کس کو خوبصورت بنانا ہے اور کسے بدصورت۔ کس کو مرد بنانا ہے اور کس کو عورت۔ کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے اور کسے کودن اور کند ذہن پیدا کرنا ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل، جو ہر روز کروڑوں رحموں میں ہو رہا ہے، اس کے دوران میں کسی وقت کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت کے کم از کم ۹۰ فیصدی فیصلے انہی مراحل میں ہو جاتے ہیں، افراد ہی کے نہیں، قوموں کے، بلکہ پوری نوبہ انسانی سے مستقبل کی شکل بناتی اور بگاڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہونا ہے، کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے، یہاں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما نظر آتا ہے اور غور کیا جاتے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کار فرمائی کسی عالمگیر تدبیر و حکمت پر مبنی ہے جس کے مطابق وہ افراد ہی کی نہیں، قوموں اور ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو

۱۴۔ علمائے حق کا باقی رہنا

وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - انه قال: لا تنال طائفة من
أمتي على الحق ظاهرين لا يضترهم من يخذلهم حتى يأتي امر الله " رواه
مسلم و الترمذی و ابوداؤد عن ثوبان)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :-

”میری امت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی جو لوگ ان سے
اگک ہو جائیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے یعنی قیامت
قائم ہو جائے“

۱۵۔ یہود کا تسلط اور رجال کا خروج

جاء في الحديث الذي رواه ابن اسحاق بن بشروان بن عساكر كوفي (كنز العمال)
عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله قال عن الدجال اليهودي: وتكون
آيته خروجه تركهم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهاونهم بالدماء
اذا ضيعوا الحكموا اكلوا الربا، وشيدوا البنايا، وشربوا الخمر، واتخذوا القيان
ولبسوا الحرير، واظهروا بزوة آل فرعون، ونقضوا العهد وتفقهوا الغير
الدين، وزينوا المساجد، ونحروا القلوب وقطعوا الارحام، وكثرت القراء
وقلت الفقهاء، وعطلت الحدود، وتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال،
وتكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، بعث الله عليهم الدجال فسلط عليهم
قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك ينزل
اخى عيسى بن مريم، وينزل عيسى عليه السلام - في صف المسلمين المجاهدين

اس امر میں شک ہے کہ اللہ "حق" ہے اور صرف اللہ ہی "حق" ہے تو بے شک وہ عقل کا اندھا ہے۔
 "کوئی خالی الذہن آدمی بچھے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ
 یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر جا کر عقل، دانائی اور حکمت و صنعت کے یہ کچھ کمالات
 دکھائے گا اور ایسی ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی۔ وہ ہڈیوں اور گوشت پوست
 کا ایک پلندا سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں
 ہوتا نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گویائی، نہ عقل و خرد، نہ کوئی خوبی۔ مگر باہر آ کر وہ چند ہی روز میں کچھ
 اور بن جاتا ہے جس کو سپٹ والے جنین سے کچھ مناسبت نہیں ہوتی۔ اب وہ ایک سمع و بصیر اور
 ناطق وجود ہوتا ہے۔ اب وہ تجربے اور شاہدے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک
 ایسی خودی ابھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے پہلے ہی لمحہ سے اپنی دسترس کی ہر چیز پر حکم جتاتی
 اور اپنا زور منوانے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذات میں یہ پیرے
 دیگر ہونے کی کیفیت نمایاں تر اور افزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوان ہوتا ہے تو بچپن کی نسبت
 کچھ اور ہوتا ہے۔ ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کچھ اور چیز ثابت ہوتا ہے۔ بڑھاپے کو
 پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا اور جوانی
 کیسی تھی؟ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک طرف
 کسی نچتے عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ
 پچاس ساٹھ برس پہلے ایک روز جو بوند ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا،
 تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی۔ فقبارک اللہ احسن الخالقین۔"

تفسیر القرآن، ج ۳: ص ۲۶۹

انسانی تخلیق سے متعلق قرآن مجید میں ایک اور اہم نکتہ کی طرف بھی اشارہ موجود ہے:

اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْبُدُ لِمَنْ يَشَاءُ
 "اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر جو چاہتا
 ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے"

الذین یجاہدون الدجال والیہود ویقاتلونہم، فیقتل الدجال ویدخل
الناس جمیعاً فی دین اللہ ولا ینقی علی وجہ الارض احد الا دخل الاسلام

ودعی عن رسول اللہ اثنہ قال: لتقاتلن المشرکین حتی یقاتل یقتیکم
الدجال علی نہر الاردن انتم شرقیہ وهم غربیہ قال راوی الحدیث: ولا
ادعی ابن اللردن یومئذ من الارض۔ رعاہ البغار بسند حسن والطبرانی
وابن مندہ فی الصحابی من حدیث نہیک ابن صریم السکونی۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جال
کے متعلق فرمایا کہ "اس کے ظاہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ
دیں گے، قتل و غارت کو معمولی بات خیال کریں گے، اور سود خوی کریں گے، شاندار و بچہ عاریتیں بنائیں گے
جبکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہیں کریں گے۔ شراب پئیں گے گویوں سے لطف اندوز
ہوں گے، ریشم پہنیں گے۔ آل فرعون کی زیبائش کا مظاہرہ کریں گے، عہد و پیمانہ توڑ دیاں گے
غیر دینی علوم میں خوب دسترس حاصل کریں گے، مسجدوں کو خوب سجائیں گے، دلوں کو ویران
کریں گے، قطع رحمی کریں گے، قاریوں کی بہتات ہوگی، علماء کم ہو جائیں گے، حدود اللہ معطل
کردی جائیں گی، مرد عورتوں کی مشابہت اور عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی، مرد مردوں
کے ساتھ (دل لگی کرنے میں) کفایت کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کفایت کریں گی تو اس
وقت اللہ تعالیٰ ان میں دجال کو بھیجے گا اور اسے ان پر مسلط کر دے گا۔"

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"ان حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ مسلمانوں کی صف میں اتریں گے جو
دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد و لڑائی کریں گے تو دجال مارا جائے گا اور لوگ سب کے
سب اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ نوے زمین پر ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوگا جو
اسلام میں داخل نہ ہوگا۔"

إِنَّا نَأْتِيهِمْ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
 أَوْ يُذَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَجْعَلُ
 مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
 اور کسی کو لڑکے عطا فرمادیتا ہے کسی کو لڑکے
 اور لڑکیاں دونوں عطا فرمادیتا ہے اور چاہتا
 ہے تو کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ
 خود جاننے والا اور خوب قدرت رکھنے
 والشوری: ۴۹، ۵۰

والا ہے“

یہ بات کہ ماں کے پیٹ میں نہ پیدا ہو یا مادہ سواتے خدا کے کسی اور کے بس میں نہیں ہے
 ورنہ دنیا میں کوئی عورت نظر نہ آتی۔ پھر انسانوں کی تعداد میں ایک خاص قسم کا تناسب اور توازن
 نظر آتا ہے۔ ہر زمانے میں اور ہر خطے میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں قریب قریب اتنی ہی تعداد میں
 عورتیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی علاقے میں صرف مرد ہی مرد پیدا ہو گئے ہوں، یا
 عورتیں ہی عورتیں پیدا ہو گئی ہوں اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ
 انہیں عورتیں کسی باہر ہی کے خطے سے درآمد کرنا پڑیں اور نہ کبھی عورتوں کی تعداد اس قدر بڑھی ہے
 کہ انہیں مرد باہر سے درآمد کرنا پڑیں اور یہ بس آج کل ہی کی بات نہیں ہزار ہا سال سے عورتوں اور
 مردوں کی تعداد ٹھیک ٹھیک توازن اور تناسب سے چلی آرہی ہے۔ یہ توازن اور تناسب کہاں سے
 آگیا۔ اگر یہ توازن اور تناسب انسان کے بس میں ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مرد یا عورت
 بن جانا انسان کے اپنے بس کی بات ہوتی اور اگر یہ سب کچھ انسان کی اپنی مرضی سے ہوتا تو دنیا میں
 کوئی شخص عورت بن کر پیدا نہ ہوتا، سب مرد ہی مرد پیدا ہوتے اور عورت کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔
 اور اگر عورت کا وجود نہ ہوتا تو انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ پس اگر انسان کی تخلیق اس کی مرضی پر چھوڑ
 دی جاتی تو انسان ختم ہو جاتا۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ انسان کی تخلیق اُس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی مرضی سے
 ہوتی ہے۔ اُس ذات کی مرضی سے، اُس خالق کی مرضی سے، جو کروڑوں ہزاروں مردوں اور عورتوں
 کی تعداد میں توازن اور تناسب رکھتا ہے اور ایک بہترین منصوبہ ساز ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”تم ضرور مشرکین سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے باقی ماندہ لوگ نہر اردن پر دجال سے جنگ کریں گے، تم مشرقی جہت میں ہو گے اور وہ مغربی جہت میں ہوں گے“

راوی حدیث کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اردن اس دن اس زمین کے کس خطہ پر ہوگا؟

لقد روی عن رسول اللہ انہ قال بعد تحدّثہ بعلامات خروج الدجال:

”..... انما احدثکم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه فاعملوا علیہ و

حدثوا بہ من خلفکم، ویحدث الآخر الآخر، فان فتنہ اشد الفتن، روی

المحدث نعیم ورواہ الحاکم فی المستدرک“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بتانے کے بعد فرمایا:

”میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اس کی صحیح معرفت نصیب ہو جائے

اور اس کا فتنہ اچھی طرح سمجھ آجائے اور اصل صورت حال کا پہلے سے اندازہ ہو تاکہ صحیح وقت

پر صحیح تدبیر کر سکو اور آنے والی نسلوں کو متنبہ کر سکو اور وہ آگے نسل کو ایک دوسرے کو بتائیں

کیونکہ اس کا فتنہ سب فتنوں سے شدید تر ہوگا“

ثابت ہوتی کہ مردوں اور عورتوں کی پیدائش کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں اور نہ کسی حادثہ کا کرشمہ ہے ورنہ ان کی باہمی تعداد میں ایسا توازن اور تناسب جو دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے اور ہزار ہا سال سے پایا جاتا ہے نظر نہ آتا۔

اولاد کی خاطر لوگ کس قسم کے پاڑ بیٹے ہیں مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ امر ناممکن ہے —
وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَاقِبَةً — اگر مادے میں اپنے آپ تخلیقی قوت ہونے کا عنصر ہے تو ہر جوڑے کے ہاں بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟

حصہ پنجم

کائنات کا تصور جدید

- سائنسی نظریات اور حقائق ثابتہ میں فرق
- حرکیات حرارت کا دوسرا قانون اور کائنات کا نقطہ آغاز،
- کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصور اور اثبات توحید،
- ان دیکھی دنیا۔ ڈائیم، ہوا، درد، کشش ثقل، ریڈیائی ہسٹری، جذبات،
- منطقی اثباتیت اور ایمان بالغیب، نظریہ خبر،
- دانش اعلیٰ (حقیقت حیات، وحدت و دانش، جبلت)
- لیبارک اور ڈارون کا نظریہ اور ارتقاء۔ جنین کا جسمانی نظام، ناک کا عمل
- حقیقت ارتقاء۔

— فلسفہ مادیت

مادیت کے دو روپ — سرمایہ داری اور اشتراکیت
 سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام اور اسلام کا معتدلانہ
 نظام۔ مادیت کی شکست۔

تنوع

اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک بہت بڑی نشانی اس کائنات کی تمام اشیاء میں تنوع ہے۔ ہر چیز ایک ذاتی حُسن لیے ہوتے ہے۔ وہ حُسن جو اس سے پہلے کسی چیز کو نصیب نہیں ہوا۔ مختلف اقسام کے جمادات، نباتات، حیوانات موجود ہیں۔ پھر ان نباتات میں کوئی ایک قسم دوسری قسم سے نہیں ملتی۔ ایک ہی زمین ہے۔ ایک ہی آب و ہوا، ایک ہی موسم، لیکن مختلف رنگوں، مختلف ذائقوں اور مختلف شکلوں کی نباتات اُگ رہی ہیں۔

”اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے

ٹکڑے (جزیرے) ہیں، اور انگوروں کے باغ

ہیں جن میں بعض تو ایسے ہیں کہ ایک تنہ سے اوپر

جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں اور بعض میں دو تنے

نہیں ہوتے۔ اور سب کو ایک ہی طرح کا پانی

دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں

میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان باتوں میں سمجھاؤ

کے لیے (توحید کے) دلائل موجود ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَ

جَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَدُرٌّ وَنَخِيلٌ

صُنُوفٌ وَغَيْرُ صُنُوفٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ

وَاحِدَةٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ

فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّعُقُومٍ

يُعْقِلُونَ۔

(الرعد: ۱۴)

یہی حال حیوانات کا ہے۔ ہر علاقے میں مختلف قسم کے حیوانات اور پھر ایک ہی علاقہ میں ایک ہی قسم کے حیوانات کی شکلیں بھی آپس میں نہیں ملتیں۔ ہر جاندار اپنی جگہ پر تخلیق و تسویہ کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک ہرن اپنی جگہ پر نہایت خوبصورت ہے لیکن خوبصورتی کا یہ ڈیزائن اس کی ذات پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے ہم جنس جتنے بھی ہرن ہوں گے سب الگ الگ ڈیزائن اور الگ الگ

سائنسی نظریات اور حقائق ثابتہ میں فرق

مشہور سائنسدان جارج گیمو کا خیال ہے کہ یہ کائنات آج سے لاکھوں سال پہلے ایک جمع شدہ اور سمٹے ہوئے مواد کی صورت میں تھی، یہ مواد ایک تو وہ یا قرآنی اصطلاح میں رقیق Patch تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس توڑے کے آتشیں ٹکڑے فضا میں برابر منتشر ہوتے چلے گئے اور اسی وقت سے انتشار کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے بعید تر ہوتے جا رہے اور اس طرح سے کائنات کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔

جارج گیمو ہی نہیں بلکہ دور جدید کے قریب قریب تمام سائنس دانوں کا یہی نقطہ نظر ہے۔ سائنس دان اپنے اس نقطہ نظر پر کب تک قائم رہتے ہیں اور کب اپنی راستے بدل لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے اہم نہیں۔ انیسویں صدی تک سائنسدان کو ہرنکیس کے نظریہ کو درست سمجھتے رہے اور ان کے نزدیک سورج بالکل ساکن تھا۔ اس کے بعد ہرنشل کے آنے سے نہ صرف سورج بلکہ نظام ہائے شمسی متحرک نظر آنے لگے۔ اگر آج پھر سائنس دانوں کا ایک گروہ سورج یا نظام ہائے شمسی کو ساکن کو ساکن قرار دے دے تو حقائق کی واقعیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی قرآن مجید میں بیان کروہ یہ حقیقت اپنی جگہ پر متزلزل ہوگی کہ

”سورج اپنے مستقر ٹھکانے کی جانب روانہ ہے“

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ

یہ ایک زبردست اور عظیم حکمت والے کابنایا

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - ریس - ۳۸

ہو نظام ہے“

اہم بات یہ ہے کہ سائنس یا فلسفہ کے وہ نظریات جن میں انکل پچ اور ظن و تخمین کو دخل ہے

شکل و صورت لے کر پیدا ہونگے۔ کسی کی شکل دوسرے ہرن سے نہیں ملتی ہوگی اور سبھی حسن و رعنائی کا نمونہ ہوں گے۔

عام طریقہ یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی فیکٹری کیوں نہ ہو اس میں تخلیقی اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ نقش آرائی (Designing) کا ہوتا ہے۔ فیکٹری جتنی معمولی سطح کی ہوگی اس کی تیار کردہ اشیاء کے ڈیزائن اسی قدر کم ہونگے، اور فیکٹری جس قدر اعلیٰ درجہ کی ہوگی اس کی مصنوعات کے ڈیزائن اسی قدر زیادہ اور متنوع ہونگے لیکن ہر فیکٹری محدود تعداد میں ڈیزائن رکھنے پر مجبور ہے۔ اس کے آرٹسٹوں کی صلاحیتیں اس قدر محدود ہیں کہ چند ڈیزائن بنانے کے بعد وہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ بس آخر میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائن چل نکلا اور تمام اشیاء اسی ڈیزائن کے سانچے میں طہلی ہوتی تیار ہو رہی ہیں۔ تمام اشیاء بالکل ایک جیسی شکل کی، دو اشیاء کو بغیر خاص نشان لگاتے رکھ دیجیے، ان میں پچان کرنا مشکل ہوگا۔ آخر کار تخلیق کے عمل میں اس قدر ہم رنگی (Monotony) پیدا ہو جاتی ہے کہ خود فیکٹری کے مالک و منتظم اسی ڈیزائن کو دیکھ دیکھ کر تنگ آجاتے ہیں اور نئے ڈیزائن کی تیاری کے لیے بھاری رقمیں پیش کرتے ہیں۔

اب فطرت کے خلاق اعظم کی تخلیقی فن کاریوں کا تماشہ دیکھیے، دنیا میں جتنی اشیاء بنائیں سب الگ الگ ڈیزائن کی کوئی بڑے پیمانے پر تیاری (Mass Production) کا کاروبار نہیں ہے کہ سب اشیاء مجبوراً ایک ہی ڈیزائن کی بنانا پڑیں اور نئے ڈیزائن بنانے سے تخلیقی قوت عاجز آگئی ہو۔ اس متوجع کو قرآن مجید وجود خدا کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ وَ اٰخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ وَ

اَنْوَانِكُمْ۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

لِّتَعْلَمُوْا۔ (الروم: ۲۲) کے لیے دلائل دتوجیہ ہیں۔

یعنی زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کے وجود کی نشانی ہے۔ دنیا میں ہزاروں سال سے

وہ روز روز بدلتے رہتے ہیں لیکن حقائق اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔ قرآن مجید وحی الہی ہے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آج کے دور میں سائنسدان اپنے نظریات میں قرآنی حقائق سے قریب تر آ رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت نہیں بلکہ یہ سائنس دانوں کی صداقت پر دلیل ہے، انہیں شاباش ملنی چاہیے۔ قرآن مجید بلکہ تمام الہیات ہماری داد و تحسین کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو وہیں رہیں گے جہاں یہ ڈیڑھ ہزار سال قبل تھے۔ حکماء اور سائنسدانوں کی عقلوں پر پرے پڑیں یا یہ پرے کچھ سرک جائیں۔ حقائق قرآنیہ اور صداقت ایمانیات میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔

ہزاروں بار بادل بجلیوں کے ہمراہ آئے

مگر زندہ و پائندہ ہے شاخ اشیاں اپنی

زیادہ دور کی بات نہیں۔ ۱۹۵۴ء میں ایک ہائی اسکول میں سائنس ماسٹر صاحب ہمیں قانون بقا مادہ پڑھا رہے تھے۔ مادہ کے بقا پر آسمان سائنس اور بلندی عقل پر فائز گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ”ماسٹر صاحب اگر مادہ صرف صورت بدلتا ہے اور کبھی فنا نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا قیامت پر ایمان تو گیا؟“

فرمانے لگے: ”اگر تمہارا ایمان سائنس کے حقائق کے سامنے نہیں ٹھہرایا تو اسے جائینے دو“

میں نے اپنی کم علمی کے باوجود پھر عرض کیا:

”مادہ کو کب سے بقا حاصل ہے؟“

فرمانے لگے: ”ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی“

میں نے عرض کی: ”جناب تو اسے اللہ تعالیٰ نے کبھی پیدا نہیں کیا؟“

اب ماسٹر صاحب تھوڑی دیر تو پریشان ہوئے، پھر زیر لب مسکرا کر مجھے یوں دیکھا گویا میں سائنس

یبارٹری میں داخل ہونے کے لائق نہ تھا۔ آخر کہہ ہی دیا:

”ماسٹر تفسی! میں عقائد کے موضوع پر تو بات نہیں کرتا لیکن قانون بقا سے مادہ کی رُو سے مادہ

کروڑوں انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر انسان علیحدہ شکل، علیحدہ بناوٹ رنگت لیے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی۔ وہی گلا ہے، ایک ہی قسم کی کیمیائی اجزاء سے مرکب، بناوٹ میں بھی ایک ہی ترتیب لیکن آواز ہمیشہ مختلف۔ بولیاں ہیں تو مختلف، زبانیں ہیں تو مختلف، گفتگو کا انداز ہے تو مختلف۔ ہر چیز نئے انداز پر، نیا حسن و رعنائی لیے ہوتے پیدا ہوتی ہے، نئے نئے نیا ڈیزائن۔ کوئی درخت اپنی شکل میں دوسرے درخت سے نہیں ملتا۔ کوئی پھول دوسرے پھول سے نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ ایک ہی پھول کی کوئی پتی کسی دوسری پتی کی ہم شکل اور ہم صورت نہیں۔ وہ کائنات جس میں کھربوں پتوں میں سے کوئی پتہ صحیح طور پر دوسرے سے نہ ملتا ہو اور تخلیقی تنوع کا ٹھکانہ بناتا ہو، سمندر ہر طرف موجزن ہو، کیا خود اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس رنگارنگ کائنات کا ایک ایسا خالق ہے جس کی تخلیقی قوت بے حد و بے کنار ہے اور جس کے بارے میں ہر صحیح العقل انسان یہ کہنے پر مجبور ہو:

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس بڑی شان والا ہے وہ اللہ جو تمام صنائع

را المؤمنون: ۱۴۰ سے زیادہ بڑھ کر صنائع ہے۔

برگ درختان سبز و نظر ہوشیار

ہر ورقے و قریت معرفت کردگار

تنوع میں نظم | حیوانات اور نباتات کے اس عظیم تنوع میں کمال نظم و ضبط بھی موجود ہے۔ ایک ماہر حیوانات رسل لویل باکٹر کے محتاط اندازے کے مطابق تقریباً دو لاکھ اقسام پودوں کی ہیں اور دس لاکھ اقسام حیوانات کی ہیں۔ ان دس لاکھ اقسام میں سے صرف ایک صنف ہی کو لے لیں تو اسے بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور ہر صنف کی خصوصیات اس کے ہر فرد میں ملیں گی۔ ایک بتلی میں جو اوصاف ہیں وہ تمام بتلیاں کی بتلیوں میں پاتے جاتیں گے۔

نظر تیر جبین | دور جدید میں جبین کے متعلق تحقیقات نے تو انسان کو حیرت میں ہی ڈال دیا ہے۔

کے پیدا ہونے یا اسے پیدا کرنے والے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ سائنس ماسٹر صاحب بنظاہر مسلمان بھی تھے اور سید و ہاشمی کی اولاد بھی، لیکن قانون بقائے مادہ کے ایک جھٹکے سے ان کے ایمان و اسلام بھر شٹ ہو گئے اور ایسے جہل و جاہل کا شکار ہوئے کہ وجودِ خالق اور عملِ تخلیق پر ایمان رکھنے والے ان کی نظر میں احمق و جاہل ٹھہرے۔

اب اگر وہ شاہ صاحب (سائنس ماسٹر صاحب) مجھے کہیں مل جائیں (خدا کرے میری یہ سطور ان تک پہنچ جائیں) تو ان سے پوچھوں کہ شاہ جی وہ آپ کا "قانون بقائے مادہ" کدھر گیا، وہ تو داستانِ پارینہ بن کر رہ گیا۔ اب دنیا سے علم میں اس پر یقین کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اب مادہ تو انسانی میں تبدیل ہو رہا ہے اور تو انسانی مادہ میں اور یہ دونوں مجموعی طور پر ایسے انجام کو پہنچ رہے ہیں کہ نہ وہ رہے گا اور نہ وہ۔

اصل خرابی یہ ہے کہ لوگ حقائقِ ثابتہ اور نظریات میں صحیح فرق قائم نہیں رکھتے۔ نظریات جن کی بنیاد میں سائنسی تحقیق کے ساتھ ساتھ ظن و تخمین، اٹکل پچو اور ٹانک ٹوئیاں شامل ہوتی ہیں، اس سچائی کی حامل نہیں ہوتیں جو سچائی محض سائنسی تحقیق پر مبنی حقائقِ ثابتہ میں ہوتی ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ کوئی بات سائنسی تحقیق اور سائنس کے حقائقِ ثابتہ سے نہیں ٹکراتی۔ اگر کبھی اختلاف ہو اسے تو سائنسی نظریات سے ہوا ہے جو روز اپنا قبلہ نظر دیتے رہتے ہیں۔ اس کی بہترین مثالیں قانون بقائے مادہ اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہیں قرآن مجید میں بار بار ظن و تخمین کی مخالفت اور برہانِ قطعی کی حمایت کی گئی ہے یا علمِ قطعی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔

ذیل کی آیات پر غور فرمائیں :-

”اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

مست کیا کر، کیونکہ کان اور آنکھ اور ذل ہر شخص

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

سے ان سب کی (قیامت کے دن) پوچھ گچھ

كَانَ عِنْدَ مَنْسُؤَلٍ

ہوگی“

(الاسراء: ۳۶)

”إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا“

”صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں اور
یقیناً بے اصل خیالات امرِ حق کے اثبات،

میں ذرا بھی سفید نہیں ہوتے۔“

(النجم: ۲۸)

”آپ کیسے کہہ (اچھا) تم (ان کے استحقاقِ عبادت

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

پر) اپنی دلیل پیش کرو اگر تم (اس دعوے میں

صِدِّقِينَ - (البقرة: ۱۱۱)

سچے ہو۔“

”میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو

إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ

یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ اگر تم سچے ہو۔“

أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صِدِّقِينَ -

(الاحقاف: ۴)

”بلکہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات اور اپنے

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَمُورِ

نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں حالانکہ ان کے

الْأَنْفُسُ - وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ

پاس ان کے رب کی جانب سے دجوا سطرہ

الْمُذْمَى“

رسول، ہدایت آپکی ہے۔

(النجم: ۲۳)

کائنات کے حادث ہونے کے بارے میں ہم گذشتہ صفحات میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اور بہت سے معروف سائنسدانوں کی تحریروں سے اقتباس پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم حرکیات حرارت کے دوسرے قانون کی کچھ مزید تشریح کریں گے۔

حرکیات حرارت کا دوسرا قانون اور کائنات کا نقطہ آغاز۔

حرکیات حرارت کا دوسرا قانون صرف اتنی سیدھی سی بات کہتا ہے کہ حرارت صرف ایک ہی سمت میں منتقل ہوتی ہے اور وہ یوں کہ زیادہ گرم شے کی طرف سے کم گرم شے کی طرف۔ انتقال حرارت کم گرم شے سے زیادہ گرم شے کی طرف نہیں ہو سکتا۔

Fundamentals of classical thermo dynamics جی۔ بی۔ وان وائلن اپنی کتاب

میں اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ قہوہ کے گرم کپ میں جو گرمی موجود ہے وہ آہستہ آہستہ کمرے کے کم درجہ حرارت کی جانب منتقل ہوتی ہے اور اس وقت تک منتقل ہوتی رہتی ہے جب تک قہوہ اور کمرہ کا درجہ حرارت بالکل ایک جیسا نہیں ہو جاتا۔ جس وقت قہوہ اور کمرہ کے درجہ حرارت ایک درجہ پر آجاتیں گے اس وقت انتقال حرارت کا عمل ختم ہو جائے گا۔

مطلب یہ ہوا کہ حرارت میں یہ رُخجان پایا جاتا ہے، وہ منتقل ہوتی ہے اور کم گرم اشیاء کی طرف منتقل ہو کر پھیلتی ہے اور بالآخر سب اشیاء کو اپنے درجہ حرارت سے قریب تر لاتی ہے اور خود اپنی حرارت ان کی طرف منتقل کر کے ان سے قریب تر ہو جاتی ہے اور بالآخر جانبین کا درجہ حرارت بالکل برابر ہو جاتا ہے اور حرارت کی حرکت یا انتقال کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔

حرارت کا یہی عمل پوری کائنات میں جاری ہے۔ کائنات میں بعض اشیاء (مثلاً سورج) مستقل طور پر حرارت منتقل کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قہوے کے کپ کی طرح آہستہ آہستہ ان کی ساری حرارت کائنات کی دیگر اشیاء کی طرف منتقل ہو کر پوری کائنات کا درجہ حرارت ایک جیسا ہو جائے گا۔ اس وقت حرارت کے انتقال کے عمل میں پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ ہر قسم کی حرکت، انتقال، تخلیقی عمل، اور ہر قسم کی سرگرمی ختم ہو جائے گی اور یہ اس کائنات کا نقطہ انجام ہوگا۔

اس سے یہ بات بھی اصولی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کائنات کی ساری موجود حرارت جو اس وقت پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے، آج سے لاکھوں سال پہلے ضرور کسی ایک ہی نقطہ پر مرکوز ہوگی جہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ یہی نقطہ اس کائنات کا نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔

تو اس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا لازماً ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک نقطہ انجام۔ اول الذکر کا تعلق اس وقت سے ہے جب کہ کائنات کا جمع شدہ Concentrated مواد، یا تودہ یا رقیق اچانک کسی دھماکہ سے پھٹا اور اس نے پوری کائنات میں کوکب بکھیر دیئے اور پھر انتقال حرارت کا عمل شروع ہو گیا۔

مختلف نظام ہاتے شمسی میں موجود کواکب کے اندر مستقل طور پر دھماکے ہو رہے ہیں اور ان دھماکوں کے نتیجے میں شدید حرارت پیدا ہو کر کائنات میں پھیل رہی ہے۔ اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون کی رُو سے ایک وقت لازماً ایسا آنا چاہیے جب کواکب کے اندر مزید دھماکوں اور پیدائش حرارت کی سکت باقی نہ رہے، ان کی گرمی منتقل ہوتے ہوتے پوری کائنات کے درجہ حرارت کے برابر ہو جاتے اور کائنات کی سرگرمی بالکل ختم ہو کر رہ جاتے۔ یہ اس دنیا کا عملاً خاتمہ ہوگا۔

یہ تو تھا جدید سائنس کا نقطہ نظر یعنی یہ کہ

۱۔ کائنات شروع میں ایک تودہ اور جمع شدہ مواد تھا۔

۲۔ اچانک دھماکہ سے پھٹ گئی اور نظام ہاتے شمسی اور کواکب وجود میں آگئے۔

۳۔ یہ نظام ہاتے شمسی اور کواکب ایک دوسرے سے دُور بیٹ رہے ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے۔

ہر چند کہ یہ نقطہ نظر قرآنی نقطہ نظر سے بہت قریب ہے لیکن اس کے باوجود غیر مکمل، ناقص اور بے روح۔

اب آیت قرآن مجید کا نقطہ نظر دیکھیں اور معاملہ عقل سلیم کے حوالے کر دیں۔ خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کونسا نقطہ نظر زیادہ باریک، معقول اور معنی خیز ہے۔

سائنس نے کہا کہ ”اچانک دھماکہ ہو گیا“ قرآن کہتا ہے کہ یہ دھماکہ ہم نے خود کیا اور بہت تاریک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت — ایسا منصوبہ جو کروڑوں سال بغیر کسی نقصان و حادثہ کے رُو بہ عمل رہے۔

سائنس نے کہا کہ کواکب ایک دوسرے سے دُور بیٹ رہے ہیں اور کائنات وسیع تر ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کواکب اور ان کے نظام ہاتے شمسی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور ہم خود کائنات کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر ستارہ اپنے اپنے مدار پر بے کھٹکے چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کسی اتفاق و حادثہ کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک زبردست، مدبر اور صاحب حکمت کا منصوبہ ہے جس کے سامنے پوری کائنات مطیع و منقاد ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر طوعاً و کرہاً مجبور محض۔ سائنس اشیاء اور واقعات کی جس قدر توجیہ کرے، کہیں نہ کہیں مادہ کو سبب حقیقی قرار دے دیتی ہے

اور واقعات کی توجیہ کا رخ مادہ کی طرف پھیر دیتی ہے۔ ہر چند کہ دور جدید کے سائنسدان واقعات میں علت و معلول کا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ کہنے لگے ہیں کہ ہر عمل کے پس پر وہ صانع حقیقی کا ہاتھ نظر آتا ہے لیکن کئی جگہ ان کا یہ نظریہ پھیلی ہوئی مادیت کے دھند لکوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں ہر چیز کا سبب حقیقی ایک ذات باری تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی کا ارادہ، اسی کا ایک لفظ "کن" ہر تخلیق کا راز ہے۔

اب درج ذیل آیات کو غور سے پڑھیں اور بغیر کسی تعصب کے دل ہی دل میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون سا نقطہ نظر قرین صواب ہے، وہ کونسی بات ہے جسے عقل سلیم بغیر چون و چرا کے قبول کرتی ہے اور جس پر دل خود بخود ٹھکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا

”آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم

لَمُوسِعُونَ۔ (النار ایات: ۴۷)

”اس کو وسعت دینے والے ہیں“

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

”اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ

ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا

كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔

تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ (ذات) پاک ہے

رُئِيسَ: ۸۲، ۸۳)

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور

اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے“

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا كَانَتْمَا

”آسمان اور زمین ایک ڈھیر تھے، پھر ہم نے

رُتَقَاتًا فَنَقَعْنَاهُمَا۔ (الانبیاء: ۳۰)

انہیں بچا ڈیا“

جین تمام زندہ اشیاء کے خلیوں میں موجود اور ان کے جوہری ذرات کی ان ترتیبوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں خوردبین تک سے بھی نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہی جین اشیاء کی ساخت، ان کی صفات اور ان کی وراثتی خصوصیات کے امین ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی چھوٹے جراثیم جنہیں ہم جین کہتے ہیں اس دنیا کی تمام انسانی، حیوانی اور نباتاتی خصوصیات کے سرچشمے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے اربوں انسانوں کی انفرادی خصوصیات کے یہ بنیادی پیکر حجم میں اس قدر باریک ہیں کہ اگر ان سب کا اجتماع ممکن ہو تو ان کے لیے انگلی بھر جگہ کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جین اپنے ان گنت اسلاف کی تمام جسمانی وراثت، ان کی ذہنی، روحانی اور نفسیاتی خصوصیات اپنے وجود میں بحفاظت برقرار رکھتے اور انہیں پروان چڑھانے کی ناقابل یقین صلاحیت رکھتے ہیں۔

مگر وہ کیا چیز ہے جو محفوظ رکھی جاتی ہے اور وراثت کی شکل میں آگے کی نسلوں کو منتقل کر دی جاتی ہے؟ وراثت سے متعلق اتنی صحیح ہدایت جراثیم خصوصیات کس طرح اپنے اندر محفوظ رکھ لیتے ہیں؟ ایک جین بے شمار نسلوں میں سفر کرتے ہوئے اپنی خصوصیات اور صفات کو بحفاظت برقرار رکھتا ہے اور ہر نسل میں اور ہر پیدائش کے عمل میں وہ اپنی سابقہ تاریخ دہراتا چلا جاتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جین جراثیم کو اتنی باریکی اور صحت کے ساتھ تخلیقی عمل پروان چڑھانے کی ہدایات کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کون سی قوت ہے کہ اس کے احکام ان جراثیم کے ذریعے خلیوں تک پوری صحت اور وفاداری سے تخلیقی جامہ پہنتے اور اپنے نتائج کی صحت اور تخلیق ثانی کی باریکیوں میں ریاضی کی باریک ترین اشکال کو اکٹھیں دکھاتے ہیں۔

بیچارے ڈارون اور اس کے ساتھیوں کو جین سے متعلق جدید تحقیقات کا کوئی علم نہ تھا یہی وجہ ہے کہ نظریہ ارتقاء سے متعلق وہ اس مقام سے آگے نہ بڑھ سکے جہاں سے دراصل ارتقاء کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ مقام خلیے کی معرفت کا ہے اور خلیہ ہی وہ مسکن ہے جہاں جین قیام کرتا اور فروغ پاتا ہے۔ خلیہ کی ساخت اور پھر جین کے عمل پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن مادے کے اندھے بہرے ارتقاء کی طرف نہیں جاتا بلکہ ایک خلاق عظیم کی طرف جاتا ہے

کائنات کا جدید سائنسی تصور اور اثباتِ توحید

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ لکھتے ہیں:

» عالم کے حادث یا قدیم ہونے کی بحث جو ایک مدت دراز سے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آ رہی تھی، اب جدید سائنس نے اس کا قریب قریب حتمی فیصلہ ہی خدا پرستوں کے حق میں کر دیا ہے۔ اور دہریوں کے لیے مادے کو انلی اور ابدی قرار دینے کی مشکل ہی سے کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ پرانی مادہ پرستی کا سارا انحصار اس دعوے پر تھا کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا، اس کی صرف صورت بدلی جاسکتی ہے مگر ہر تغیر کے بعد مادہ مادہ ہی رہتا ہے اور اس کی مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ عالم میں مادے کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے لیکن اب جوہری توانائی Atomic Energy نے اس پورے تخیل کی بساط الٹ دی ہے۔ اب مادہ قوت میں تبدیل ہوتا ہے اور قوت مادے میں۔ اب حرکیات حرارت Thermo dynamics کے دوسرے قانون نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مادی عالم نہ انلی ہو سکتا ہے اور نہ ابدی اس کو لازماً ایک وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا چاہیے۔ اب مختلف علومِ طبیعی کی شہادتوں سے کائنات کا ایک وقت آغاز متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر کائنات کا جو نظریہ آج کل زیادہ تر مقبول ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات یک لخت ایک ہی تخلیقی انفجار Explosion سے وجود میں آئی تھی نہ کہ کسی طویل تدریجی عمل سے۔ اس کا مادہ تخلیق کیجا انتہائی کثافت اور انتہائی حرارت کی حالت میں تھا اور ابھی اس کی عمر پانچ منٹ کی تھی کہ ایک عظیم انفجار سے وہ پھٹی۔ تیس منٹ کے اندر اندر تمام کیمیاوی عناصر

جس نے ارب ہا جراثیم خصوصیات کو ایک مثبت، باریک اور انتہائی صحیح نظام کا پابند بنایا ہو ہے۔ خلیوں کی ساخت اور جین کے عمل کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ سوال بار بار ذہن میں اُبھرتا ہے کہ اگر ارتقاء ایک اول اول اور اندھی بہری قوت ہی کا نام ہے تو اتنے عظیم اجتماع مخلوقات، اتنے وسیع متنوع میں اس قدر باریک اور صحیح ترین تقسیم

اور نظم و ضبط کہاں سے آگیا؟

۵ ”گندم از گندم بروید جو ز جو“

دگندم کے بیج سے گندم ہی پیدا ہوگی اور جو کے بیج سے جو

اور ہر گندم کا بیج اپنی خصوصیات کو اپنے جراثیم خصوصیات کے ذریعے گندم کی اگلی فصل تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیتا ہے ورنہ گندم کی اتنی اقسام نہ ہوتیں اور بیج کی اقسام اور ان کی صفات کا اعتبار نہ کیا جاسکتا۔

پیدا ہو گئے اور پھر مادے سے بے شمار فلکی نظام بنے۔ یہ گویا موجودہ سائنس کی زبان سے قرآن کے ارشادات کی تفسیر ہو رہی ہے، جن میں فرمایا گیا ہے:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔
 ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اُس کے لیے
 ہیں بس یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا! اور بس

(النحل: ۴۰) وہ ہو جاتی ہے

إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ (الانبیاء: ۳۰)
 آسمان اور زمین ایک ڈھیر تھے، پھر ہم نے
 انہیں بچاڑ دیا

موجودہ سائنس نے دہریت اور مادہ پرستی کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی پوری طرح کھنڈی ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پوری کائنات ایک ہی مادے سے بنی ہے اور ایک طرح کے قوانین اس میں کار فرما ہیں۔ یہ عظیم کارگر ہستی جس میں کم از کم ایک لاکھ نظامِ فلکی Galaxies پائے جاتے ہیں اور جس کے صرف ایک نظام میں ہمارے سورج جیسے ایک ارب سورج اپنے اپنے نظامِ شمسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے عناصر ترکیبی سب جگہ یکساں ہیں اور وہ وہی عناصر ہیں جن سے ہماری زمین اور اس کی مخلوقات بنی ہیں، آج بعید ترین تاروں کا بھی جو مشاہدہ کیا گیا ہے اس میں وہ عناصر پہچانے گئے ہیں جو ہماری زمین پر عام ہیں اور قوانینِ فطرت کی عالمگیری ہی انسان کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ زمین سے اٹھ کر فضا سے بسط میں جاتے اور دوسرے سیاروں پر پہنچنے کے لیے نقتے سوچ سکے۔ ان معلومات نے اس وہم و گمان کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی کہ یہ کائنات مختلف خداؤں کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ آج یہ بات کھل گئی ہے کہ

هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (الذخرف: ۸۴)

”وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی اور وہی ایک حکیم و علیم ہے“

هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ (الانعام: ۳)

باب

رَبُّوبِيَّت

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا ہے بلکہ وہی اس کا پروردگار بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فائدہ مند چیزوں کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش اور تقسیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہر وجود کو اپنی بقا کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز ٹھیک مقدار میں ٹھیک وقت میں اور ٹھیک ترتیب کے ساتھ اسے مل رہی ہے۔

اس سلسلہ میں انسان کی پرورش کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے :-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا - وَالْبقرہ: ۲۹۰
الْمُتَرَدِّدَاتِ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ
مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً
رَتْمَان: ۲۰

”وہی ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز
کو تمہارے لیے پیدا کیا۔“
”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر
چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے تمہارے
لیے مسخر کر دیا ہے؛ اور تم پر اپنی ظاہری اور
باطنی نعمتیں مکمل فرمادی ہیں۔“

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ
يَرْزُقْكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - لَا
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنۢ تُوَفَّوْاْ

”اے لوگو، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں،
انہیں یاد تو کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور
پیدا کرنے والا بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین
سے رزق پہنچا رہا ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے
سوائے اُس کے پس تم کہاں اٹھے پھرے جاتے ہو؟“

(فاطر: ۳)

”اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے“ (۳ : ۷۰)

وجود باری تعالیٰ اور پھر توحید کا کھلا کھلا ثبوت اس کائنات میں نظام کی وحدت ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جسے بھی دیکھے ایک ہی نظام اور ایک ہی بندھن حتیٰ کہ حرکت کی ایک ہی شکل میں پروتی ہوتی ہے۔

ایٹم کو دیکھیے۔ اس کا الیکٹرون گھڑی کی سوئی کی حرکت کے برعکس Anti-Clock-wise گھومتا ہے یعنی اوپر کی جانب دائیں سے بائیں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ زمین بھی اسی طرح انٹی کلاک وائز طرز پر گھومتی ہے۔ سورج بھی گھڑی کی سوئیوں کے برعکس حرکت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرز پر چاند بھی اور دوسرے اقمار بھی اسی طرح Anti-Clock-wise حرکت کرتے ہیں۔ پھر دیگر سب سیارگان ان کا مجموعہ کرہ، نظام شمسی سب کے سب اسی انداز پر حرکت کر رہے ہیں۔

اور دیکھیے، ایٹم میں الیکٹرون بیضیوی (انڈسے کی طرح) ایلپٹی طرز پر حرکت کرتا ہے۔ زمین سورج کے گرد بیضیوی طرز پر چکر لگاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے زہرہ، نیپٹون، مشتری اور دیگر تمام سیارگان اسی طرح بیضیوی (Oval) ایلپٹی طرز پر چکر لگاتے ہیں۔

زمین کا محور سیدھا نہیں ہے، جھکا ہوا ہے (۲۳½ کے زاویہ پر مائل ہے)۔ چاند کا محور بھی جھکا ہوا ہے۔ مریخ کا محور بھی جھکا ہوا ہے، خود سورج کا محور بھی جھکا ہوا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی نسبت زاویہ سے ایٹم کے اندر بھی نیوٹران اور الیکٹرون کے مابین وہی نسبت ہے جو سورج اور اس کے گرد چکر لگانے والے سیارگان کے مابین نسبت پائی جاتی ہے۔

پھر دیکھیے کہ دنیا میں موجود تمام ذرات، تمام ایٹم ایک زوجیت (جوڑا جوڑا ہونا) پر قائم ہیں۔ ایٹموں میں مثبت اور منفی برقیارے ملتے جلتے ہیں۔ غرضیکہ دنیا کی ہر چیز منفی اور مثبت برقیاروں کی زوجیت کا مظہر ہے۔ نباتات کی طرف آتے تو دور جدید میں پتہ چلا ہے کہ یہاں بھی مادہ و نر کی زوجیت موجود ہے۔ حیوانوں میں، انسانوں میں، حتیٰ کہ انسانوں کی تیسری جنس مخلشوں میں بھی نر اعضائے تناسل اور مادہ اعضائے تناسل صاف نظر آتے ہیں:

قرآن مجید میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا گیا اور ہر چیز کو انسان کے قابو میں دے دیا گیا ہے۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور رکھتی ہے اور اس خاصیت میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ گویا کائنات کی تمام اشیاء فقط انسان کی چاکری کر رہی ہیں۔ یہ بات اور بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب ہم اس انداز میں سوچیں کہ اگر کائنات کی کوئی خاص چیز موجود نہ ہو تو انسان کو کہیں نہ کہیں ضرور کوئی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ کائنات کی ہر چیز انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہی ہے۔ اگر وہ چیز خدا نخواستہ موجود نہ ہو تو انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور شکنہ تکمیل رہ جاتے۔ اس کے برعکس اگر انسان موجود نہ ہوتا تو یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ غرضیکہ کائنات کی کوئی چیز بھی اپنی کسی ضرورت سے بھی محروم نہ رہ جاتی۔ گویا انسان کائنات کی کسی چیز کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ کائنات کی ہر چیز انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان قدرت کا تخلیقی شاہکار ہے اور کائنات کو اس انداز سے اور اس ترتیب سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پروردگاری جھلک رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس لیے ان بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اور جن کے بغیر اس کی زندگی اور بقا ناممکن تھی۔

یہ نعمتیں اس ترتیب کے ساتھ دی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ سب سے زیادہ مقدار میں عنایت کی گئیں اور عام کر دی گئیں اور جن چیزوں کی ضرورت جتنی کم تھی وہ اسی طرح پیدا کی گئیں۔ دیکھیے انسانی زندگی کے لیے ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے یہ اتنی زیادہ اور عام ہے کہ کسی وقت بھی کوئی جگہ ہوا کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ ہوا کے بعد پانی سب سے زیادہ ضروری تھا تو پانی ترتیب کے اعتبار سے ہوا سے کم مگر دیگر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے بھی ٹیٹھے پانی کی نہریں زمین کے اوپر بھی دریا اور سمندر کی فضا میں بھی باؤل!

مُبْصَحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا
 وَبِمَا لَا يَعْلَمُونَ (یس: ۳۶)

”پاک ہے وہ ذات جس نے تمام مقابل قسموں
 کو پیدا کیا تا ماتت زمین کے قبیل سے بھی اور
 (خود) ان آدمیوں سے بھی اور ان چیزوں میں
 سے بھی جن کو دعام لوگ نہیں جانتے۔“

اسی طرح سے پوری زمین میں، سورج میں، تمام ستاروں میں یہی زوجیت، یہی الیکٹرون اور پروٹون
 کی زوجیت اور نیوٹرون جیسے مرکزے کا وجود پایا جاتا ہے۔
 کیا یہ وحدت نظام اس بات کی کھلی کھلی شہادت نہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ایک
 ہی مالک و منتظم اور ایک ہی رب ذوالجلال ہے۔ قَبَّارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
 رابرٹ گرانٹ ایٹلیکن اسے بی، اے ایم۔ ایس سی ڈی اپنے مضمون ”ستاروں کی دنیا میں
 نکھتے ہیں :-“

اُن صدیوں کا پرنکیس کے پیش کردہ تصور کائنات میں مزید وسعت پیدا ہوتی۔ اس
 وسعت میں ابھی تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی انتہا کہیں نظر نہیں آتی۔

دورین سے معلوم ہوا ہے کہ سورج، مشتری اور دیگر تیارے زمین کی طرح اپنے محور پر بھی

گھوم رہے ہیں۔ ۱۶۸۸ء میں انگلستان کے ایک منجم ایڈمنڈ ہیلی
 Edmund Halley

نے ثابت کیا کہ کچھ یا تمام تارے آسمان میں اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں، ساکن نہیں ہیں، بلکہ
 تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ سو سال بعد ہرشل نے اعلان کیا کہ سورج بھی خلا میں محور پر ہے۔
 اور اُس کا راستہ ستاروں کے دو جھرمٹوں لیٹرا اور ہرقلیس کے قریب سے گزرتا ہے۔ تازہ مشاہدات
 سے ہرشل کی تاہد ہوتی ہے۔

کائنات کا وہ قدیم تصور، کہ اس کے مرکز میں ایک تنگ سی زمین یا سورج ہے۔ ختم ہو

ایڈمنڈ ہیلی (۱۶۵۶-۱۷۴۲ء) برطانوی منجم نیوٹن کا ساتھی۔

پانی کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز غذا تھی۔ چنانچہ ہوا اور پانی سے کم باقی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے خورانِ نعمت خشکی اور تری میں بچھے ہوئے ہیں۔

قرآن مجید میں اس خورانِ نعمت کی طرف اشارہ ہے:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ
 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
 شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَقَضْبًا ۖ وَ
 زَيْتُونًا ۖ وَنَخْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ
 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۖ لَمَتَّاعًا لَّكُمْ وَ
 لَآئِعًا مَّكْرَهُ ۗ

”انسان کو اپنی غذا کی طرف تو دیکھنا چاہیے
 ہم نے بارش کا پانی اتارا، پھر زمین کو شق کیا
 اور اس میں ہم نے دانے اگا دیئے۔ دانے،
 انگور، سبزیاں، زیتون، کھجور اور باغات کے
 جھنڈے کے جھنڈ اور پھل اور گھاس پھوس جو تمہاری
 غذا کا سامان بھی ہے اور تمہارے

چوپائیوں کے لیے بھی“ (عس ۲۲ تا ۲۴)

ایک اور جگہ فرمایا ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۚ وَ
 الْجِبَالَ أَوْتَادًا ۚ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۖ
 وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبُلًا ۖ وَجَعَلْنَا
 اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّوْمَ
 مَعَاشًا ۖ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا
 سِدَادًا ۖ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۖ
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
 ثَجَّاجًا ۖ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۖ
 وَجَسْتِ الْأَنْفَاقَ ۗ (النبا: ۱۶ تا ۲۱)

”کیا ہم نے زمین کو پھوٹا اور پہاڑوں کو
 میخیں نہیں بنا دیا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا
 پیدا کیا۔ تمہارے لیے عیند کو باعثِ آرام بنایا۔
 رات کو تمہارے لیے پوشیدگی کا سامان بنایا۔
 دن کو روزی کمانے کا سبب بنایا اور تمہارے
 اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیئے۔ ایک
 چمکتا ہوا چراغ بنایا اور بادلوں کو سلاوا
 بارش نازل کی تاکہ اس سے ہم اناج، سبزیاں
 اور گھنے باغات اگائیں“

اللہ تعالیٰ کے اس خورانِ کرم کی طرف نگاہ ڈالیے اور پھر بچا پڑے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی طرف

چکا ہے اور اس کی جگہ ایک غیر محدود یا غیر معین کائنات کے تصور نے لے لی ہے جس کا ہر نوٹ غیر معمولی رفتار سے محور پر دوازہ ہے۔ ہماری زمین نہ صرف اپنے محور اور مدار پر گھوم رہی ہے بلکہ سورج کے ہمراہ ستاروں کی دنیا میں بچھڑے ہوئے بھی سفر کر رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص خلا میں ایک نہایت پیچیدہ راستے پر جا رہا ہے۔ ہماری زمین بیک وقت تین سفر کر رہی ہے۔ اول، ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے محوری گردش۔ دوم، اڑھائی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مداری گردش۔ سوم، چوالیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے ہمراہ سفر۔

اس رفتار کا اندازہ ہم ستاروں کی ان باقاعدہ یا بے قاعدہ بدلتی ہوئی پوزیشن سے لگاتے ہیں۔ جنہیں صرف دور بین دیکھ سکتی ہے۔ اگر اس رفتار کو ہماری آنکھ دیکھ پاتے تو بڑے سے بڑے شیردل کا پتہ بھی آب ہو جاتے اور اس کی عقل چکر اجاتے۔ سورج کے علاوہ باقی ستارے اور اوران کے چاند بھی اسی رفتار سے خلا میں محو سفر ہیں۔ اور جب ہم ستاروں کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس تیز رفتاری و تندی کے باوجود ان کی رفتار میں وہ توازن، ہم آہنگی اور آئین کی پابندی ہے کہ جوں جوں ہم اپنے مشاہدات کا تجربہ کرتے ہیں تو نظم و نسی کی ایک ایسی واضح تصویر آنکھوں میں کھج جاتی ہے جو بے جان سالمات کی اتفاقیہ ترکیب و رفتار کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔

سر آلیور لاج، ڈاکٹر آف سائنس اپنے مضمون "کائنات کا منصوبہ و مقصد" میں لکھتے ہیں: "سورج کی روشنی کا بہت بڑا حصہ خلا میں پھیل جاتا ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی کسر زمین پر آتی ہے اسی سے ہوائیں چلتی، گھٹائیں بنتی، دریا بہتے، پودے اگتے اور ذی حیات زندہ رہتے ہیں۔ نظام شمسی کب سے قائم ہے؟ ہمیں علم نہیں۔ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ زندگی کسی نہ کسی شکل میں شروع سے موجود تھی، البتہ زمین و دماغ کہیں نظر نہیں آتے تھے بعض پراسرار عوامل صدیوں مصروف عمل رہے۔ تب کہیں فضا عقل و آگہی کے لیے ہموار پاتی۔ یہ عوامل بدستور مصروف کار ہیں اور ایک عظیم تر ذہانت کے منتظر۔"

اس کائنات کی تفسیر و تشریح صرف فرکس اور کمیٹری کے اصولوں سے نہیں ہو سکتی۔ مثلاً

آیتے۔ نظریہ ارتقا زیادہ سے زیادہ یہی تو کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے آپ کو اپنے ماحول میں ڈھالتی چلی جاتی ہے لیکن کیا نظریہ ارتقا میں کائنات کے ہر سمت بچھے ہوئے اس خوانِ کرم کی بھی کوئی توجیہ ہے۔ کیا سورج، چاند، تارے، سمندر، پہاڑان سب نے اپنے آپ کو ایک ایسے انداز سے ڈھال لیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے انسان کی چاکری کرتے رہیں اور انسانی زندگی اور اس کی بقا کا ہر گھڑی سامان کرتے رہیں۔ کائنات میں اس پھیلی ہوئی ربوبیت اور ان خارجی عوامل میں نمایاں ربوبیت آخر نظریہ ارتقا سے کہاں کہاں میل کھاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اُس نے اول تو ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ پھر جانداروں میں بھی جوڑے جوڑے بنائے اور سب سے اہم یہ کہ انسانوں میں بھی جوڑا جوڑا بنایا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت ڈال دی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”اُس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اُس نے تم میں سے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت ڈال دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے

(الروم: ۲۱)

لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

مرد اور عورت کی باہمی محبت ہر معاشرے کی اکائی ہے، ہر خاندان کی ابتدا ہے اور اس میں انسانی نسل کی بقا ہے۔ یہ تعلق کچھ ایسا عجیب ہے کہ انسان اس کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ مرد بیچارہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے۔ اس محنت مزدوری کا مشکل سے دسواں حصہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے باقی ۹ حصے وہ اپنے بیوی بچوں پر بچھا کر دیتا ہے۔ ہر قربانی کرتے ہوئے کبھی اُس کی پیشانی پر بل نہیں آتا۔ ہر شخص اپنے سینے میں جھانک کر دیکھے کہ

حیوانات کو لیجیے۔ کیا ان کی عادات، حرکات اور سکناات کی کوئی توجیہ ان علوم کی روشنی میں ممکن ہے، کائنات میں غور و فکر ہیں ایک ہی نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ یہاں کوئی تخلیق بے مقصد نہیں ہوتی کیجیے کہ کسی حادثے سے زمین کی تمام آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سینکڑوں صدیوں بعد مریخ کا کوئی ساتھی مشن زمین پہ آتا ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی تعمیرات، پلوں اور سڑکوں کو دیکھ کر یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ چیزیں فزکس اور کیمسٹری کے عمل سے ظہور میں آئی تھیں۔ بلکہ یہ سمجھے گا کہ زمین پر کسی وقت کوئی صاحب عقل مخلوق آباد تھی جس نے یہ سب کچھ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا تھا۔

ایک سرجن اس اعتماد پر حسم کے کسی خراب حصے کو کاٹ دیتا ہے کہ یہ حصہ از خود از سر نو پیدا ہو جاتے گا، اندمال و تلافی کا یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ بدستور ایک راز ہے۔ ہماری اس ماویٰ دنیا میں ایک روحانی دنیا بھی موجود ہے جس کی طرف ہم امداد و تعاون کے لیے بار بار لپکتے ہیں ہمارا بولنا پڑھنا، کھنا اور سوچنا، جہانی اعمال ہیں اور روحانی بھی۔ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ اور دماغ بیک وقت مصروف کار ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی ڈرائنگ روم میں حسین آرائشی اشیاء دیکھتے ہیں تو معاذہن ان کے دانش مند صانع کی طرف چلا جاتا ہے۔ نگار خانہ فطرت بھی جمیل مناظر سے لبریز ہے، کیا ان کا کوئی صانع نہیں؟

قدیم کھنڈرات میں زمانہ قبل از تاریخ کے نقش و نگار دیکھ کر ذہن اُس دانش آرٹسٹ کی طرف چلا جاتا ہے جس نے وہ نقش بنائے تھے۔ یہ نباتات، حیوانات اور جہادات نہ صرف آرٹ کے حسین نمونے ہیں بلکہ پلان و مقصد کے عظیم شواہد بھی۔ ان تمام کی تعمیر و تشکیل ایٹم سے ہوتی تھی۔ یہ انہی کی ترتیب کا اعجاز ہے کہ نباتات، حیوانات و جہادات سے الگ ہو گئے۔ اور ان کی اتنی انواع بن گئیں کہ انسانی ذہن ان کے تنوع اور تعدد کے تصور ہی سے سر بسجود ہو جاتا ہے۔

"When we come to philosophize on existence,
we must transcend the limitations of
physical science and admit the working and

قربانی کا یہ جذبہ جس محبت کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ اُس کا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ کہیں باہر سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے ورنہ اس طرح کی قربانی وہ دنیا میں اُن لوگوں کے لیے بھی جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، نہیں کر سکتا تھا۔

اس طرح سے ماں کی مامتا کا حال بھی بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا۔
”اُس کی ماں نے اُسے تکلیف کے ساتھ پیٹ
میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا اور حمل اور
دو دھ چھڑانے کی مدت کم از کم تیس مہینوں

راحت : ۱۵) کی ہے“

وہ کونسا آرام ہے جو ماں اپنے لختِ جگر کے لیے قربان نہیں کرتی؟ وہ کون سی تکلیف ہے جو ماں اپنی اولاد کی راحت کے لیے نہیں اٹھاتی؟ سچی بات یہ ہے کہ مامتا سے زیادہ پُر جوش اور ناقابلِ تسخیر جذبہ اور کوئی نہیں ہے۔

ماں کے دل میں مامتا کا یہ جذبہ کہاں سے آگیا؟ کسی ماں سے پوچھیے کہ یہ جذبہ کیا اُس نے خود ہی اپنے دل میں پیدا کر لیا ہے یا یہ جذبہ کہیں باہر سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے؟ باپ کی قربانی اور ماں کی مامتا کی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس رحمن و رحیم نے اپنی صفتِ رحمت کا عکس اس کائنات کے جانداروں پر ڈالا اور جہاں وہ معمولی سا عکس ہر ماں کی مامتا کی صورت میں نمودار ہوا وہاں ہر باپ کے ایشار میں ڈھل گیا۔

پھر دیکھیے کہ یہ مامتا کا کوئی بے سرو سامان جذبہ ہی نہیں بلکہ ربوبیت کا مکمل مظہر ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں نے جس محبت سے اسے جس سینے سے لگایا وہیں پر بچے کی غذا کا سرچشمہ موجود ہے۔ بچہ پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے پھر اس میں بھی نظم و ترتیب ملاحظہ فرمائیے کہ ابتدا میں بچے کا معدہ کمزور ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے دودھ کا قوام بھی شروع میں پتلا ہی ہوتا ہے۔ پھر جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کا معدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے دودھ کا قوام بھی گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے

operation of a super human guiding and

directing power".

(الیور لاج)

جب ہم زندگی کی حقیقت پر غور کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ فزیکل سائنس کی محدود فضا کو پھلانگ کے
اُس مافوق البشری طاقت کو تسلیم کریں جو ہر شے کو تکمیل کی راہوں پہ ڈال کر اُس کی رہنمائی کر رہی ہے۔
آرتھر سٹوارٹ ایو (ایف آر، ایس۔ ڈی ایس سی) اپنے مضمون "تفسیر کائنات میں نکھتے ہیں:
"اس خلا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کروڑوں لہریں بیک وقت روشنی
کی رفتار سے ہر سمت جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتیں۔ ان کا طول جُدا
جُدا ہوتا ہے۔ اسی خلا سے روشنی بھی گزرتی ہے۔ اگر ہم ایک سو واٹ کا ایک بلب دس گھنٹے کے
یہے بجلائیں تو بجلی کا ایک یونٹ خرچ ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کم از کم تیس پیسے ادا کرنا ہوں گے۔
بجلی کا کچھ وزن بھی ہوتا ہے۔ حساب لگایا گیا ہے کہ ایک یونٹ بجلی خریدنے کے لیے ہمیں ۵ کروڑ
ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے۔ سورج ہر روز ایک سو ساٹھ ٹن روشنی زمین کو دیتا ہے اس کی قیمت ۵ ارب
ملین ڈالر بنتی ہے۔ سورج یہ کام پچھلے دس ارب سال سے کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے ارب سال
اور کتنا رہے گا۔ کوئی بے جو روشنی کی قیمت کا اندازہ لگا سکے؟ اگر کسی دن آسمان والے اہل زمین کے
سلسلے روشنی قابل پیش کردیں۔ اور ساتھ ہی دھمکی دے دیں کہ اگر فلان تاریخ تک یہ بل ادا نہ ہوا
تو کائنات کی تمام روشنیاں گل کر دی جائیں گی، تو اسے زمین والوں ابتاؤ کیا کرو گے؟
یہ خلا جو ہر قسم کی روشنی اور توانائی کی لہریں زمین تک پہنچاتا ہے بالکل خالی نہیں۔ بلکہ اشری مواد
سے پُر ہے۔ یہ مواد مادی اشیاء کی طرح ٹھوس نہیں اور نہ بالکل روحانی ہے۔ ہر دست کائنات کے
متعلق ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ مادہ اور اشری سے مرکب ہے اور اشری توانائیوں کی گزرگاہ ہے۔ اس کی
وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دس لاکھ نوری سال تک کی مسافتیں پانی جا چکی ہیں۔ اور
ملک شناس ایسی مسافتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو دس کروڑ نوری سال سے بھی زیادہ ہوں۔

اور اس میں چکنائی دار اور مقوی عناصر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جو ننھی بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دودھ کے علاوہ بھی کچھ اور غذائیں مضم کر کے ماں کا دودھ بھی خشک ہونے لگتا ہے۔

ماں کی اس قدر منظم اور مرتب مامتا! حالانکہ محبت عام طور پر منظم اور مرتب نہیں ہوا کرتی، کہا سے ماں کے وجود میں آتی؛ ماں کے پستانوں میں دودھ لانے میں ماں کی مرضی کا کس حد تک ہاتھ ہے؟ دودھ کیا ہوا کہ مہمان کی آمد کا استقبال ہوا۔ ادھر سے بچہ پیدا ہوا ادھر سے دودھ جاری ہوا پروردگار کا یہ سارا نظام اگر پروردگار کی ذات کے بغیر کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو بلاشبہ اس شخص کو اپنی سمجھ کا علاج کرانا چاہیے۔ پروردگار کی شان کا ایک اور کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمانے کے بعد انہیں بغیر کسی رہبر کے یونہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے دل میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا کر کے ساتھ ہی الہام فرما دیا۔ اگر زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ ان کے دل میں نہ ڈالا جاتا تو کوئی بچہ کبھی جوان نہ ہوتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستانوں کو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر چوسنے کا یہ فن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام نہ فرماتا تو دنیا کی کوئی طاقت بچے کو دودھ نہ پلا سکتی۔ صرف انسانوں پر ہی بس نہیں بلکہ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق ابتدائی ہدایت ان کے دل میں ڈال دی۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي
قَدَّرَ فَهَدَىٰ۔

”وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر اسے درست
کر دیا اور جس نے ہر وجود کے لیے ایک اندازہ

ڈالا علیٰ ۲ تا ۳) ٹھہرا دیا اور پھر اس پر راہ عمل کھول دیا۔“

پھر ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان عطا فرمایا۔ چوہنی ٹی کو سونگھنے کی دُور رس قوت عطا فرمائی تاکہ وہ دُور دُور جا کر اپنی غذا حاصل کر سکے چیل اور عقاب کو تیز نگاہ عطا فرمائی تاکہ بلندی پر اڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ سکے۔

پھر شہد کی مکھیوں کو خاص قسم کا گھر بنانے کی تربیت دی، ایسی شکل کہ اس سے بہتر گھر ڈیزائن کرنا ناممکن ہے۔ کبھی کسی پرندے کے اشیانے کی طرف غور سے دیکھیں اور اس انجینئرنگ یونیورسٹی کا نام بتائیں جہاں سے اس قدر عمدہ مکان بنانے کی صلاحیت سے یہ پرندہ بہرہ ور

اس کائنات میں ایک طرف سڈیم کہکشاں، ستاروں کی بے کراں مسافتیں اور توانائی کی بے شمار لہریں ہیں اور دوسری طرف مہین برقی ذرات اور بنیادی عناصر مثلاً برٹیم، سوڈیم، کرومیم وغیرہ ہیں، جن سے اشیاء کی تشکیل ہوتی۔ انہی سے زمین بنی اور انہی سے سورج چاند اور کواکب تیار ہوئے۔ ایٹم جو ہر بجلی کے مثبت و منفی ذرات کا مجموعہ ہے۔ یوں تو ایٹم کی ساخت بہت سادہ ہے لیکن نباتات و حیوانات میں یہ بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک پودا بظاہر ایک سادہ سی چیز نظر آتا ہے لیکن درحقیقت وہ ایک نہایت پیچیدہ فیکٹری ہے جس میں پتے شاخیں پھول اور خوش ذائقہ پھل ڈھل رہے ہیں۔ اور عجیب یہ کہ اس کے پاس اپنے جیسی مزید فیکٹریاں بنانے کا سامان (بیج) بھی موجود ہے۔ آم کی گٹھلی سے آم۔ ملٹے کے بیج سے مالٹا اور گلے کے پیٹ سے پچھڑا پیدا ہونا تخلیق کا حیرت انگیز اعجاز ہے۔ وہ کون سی قوت ہے جو شیر کے پتھے کو شیر بناتی اور آم کے پودے کے ساتھ آم لگاتی۔ نور و تیدہ نہال اور نور و مولود بشر کار البطنہ اپنی نوع سے قائم رکھتی ہے۔ اس سوال کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا۔

ایٹم، مثبت و منفی ذرات برق سے ترکیب پاتا ہے۔ مثبت کے گرد ایک سے لے کر بانوے تک منفیہ رالیکٹران۔ اسی طرح چکر کاٹتے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے۔ ہر منفیہ ایک مدار سے گود کر دوسرے میں جاسکتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ کہ یہ وائرلس سٹیشن کی طرح توانائی لیتا بھی ہے اور دیتا بھی۔

اللہ کا کمال تخلیق دیکھنا ہو تو اونٹ اور مٹھی کو نہ دیکھیے بلکہ ان باریک رنگین اور اڑتی ہوئی کھیلوں

کو دیکھیے جو پھولوں اور پھلوں کے پاس ملتی ہیں۔ ان کی نہ ٹانگیں نظر آتی ہیں نہ منہ اور نہ سر۔ بائیں ہمدہ ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہیں۔ یہی کیفیت کائنات کے ان مہین ذرات کی ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود یہ تخلیق کا شاہکار ہیں۔

ہوا ہے۔

تو جانوروں اور انسانوں میں الہامی علم کی توجیہ اگر خدا کی ذات کے علاوہ کہیں اور ممکن ہے تو ہمیں بھی بتایا جائے، اس لیے کہ ابھی تک فلسفہ اور سائنس سوائے حیرت کے اس موضوع پر کسی اور توجیہ کا اضافہ نہیں کر سکے۔

ان دیکھی دنیا

علت و معلول میں یکسانیت

سائنس میں تجربہ و مشاہدہ کی بنیاد یہ اصول ہے کہ ہر نتیجہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ سبب اور نتیجہ کا یہ رشتہ وقتی و عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے۔ مثلاً گرمی آگ کا نتیجہ ہے۔ آگ سبب ہے اور گرمی نتیجہ۔ یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ آگ اور گرمی کا رشتہ یہاں بھی ہے اور دنیا کے ہر حصہ میں یہ رشتہ برقرار رہے گا۔

سبب اور نتیجہ کا یہ رشتہ ہر جگہ اور ہمیشہ برقرار رہتا ہے، ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ اسی رشتہ کی بنا پر ہم قوانین فطرت مرتب انداز میں سمجھتے ہیں بلکہ انہیں اپنے الفاظ میں مرتب کر لیتے ہیں۔ سبب و نتیجہ یا علت و معلول کی اس یکسانیت کی بنیاد پر ہم تمام واقعات و حالات کو علت و معلول کی کڑی میں پروتے چلے جاتے ہیں۔ ہر واقعہ یا نتیجہ کا سبب، پھر اس کا سبب ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سبب کچھ ہم اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہر واقعہ کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوگی۔

سرحد اور اک سے پے

علت و معلول کو کڑی در کڑی پروتے پروتے ایک مقام ایسا بھی آجاتا ہے جہاں ہم کسی معلول کی درجہ بیک وقت علت بھی ہوتا ہے، اگلی کڑی دریافت نہیں کر پاتے۔ واقعہ یا نتیجہ موجود ہے مگر اس کا سبب نظر نہیں آ رہا۔ دیکھنے، چھونے، سننے، سونگھنے اور چکھنے کی قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ آہستہ باقی ہے، منزل بہت آگے ہے مگر حواسِ خمسہ نے ساتھ چھوڑ دیا، آنکھیں دھندلایے لگیں سرحد اور اک

حصہ دوم

نظام کائنات

باب

یکسانیت و عمومیت ہم جانتے ہیں کہ فطرت کے کچھ قوانین ہیں جو ہر جگہ اور ہر وقت یکساں ہیں۔ زمانہ اور جگہ کی تبدیلی سے ان میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔

زمین کی کشش ثقل یہاں پر بھی ہے اور یہاں سے دس ہزار میل دور بھی۔ آج بھی ہے اور آج سے سو سال پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی یہ کشش ثقل اسی طرح سے ہوگی۔ پھر فطرت کے قوانین جس طرح زمان و مکان کی تبدیلی سے نہیں بدلتے، اسی طرح افراد کی تبدیلی سے بھی نہیں بدلتے ایک سائنسدان جب اپنی تجربہ گاہ میں داخل ہوتا ہے تو اس یقین سے داخل ہوتا ہے کہ قوانین فطرت جو کل تھے آج بھی وہی ہوں گے۔ پانی کا جو درجہ انجماد کل تھا وہی آج ہوگا۔ چنانچہ سائنس دان ماضی کے تجربات کی روشنی میں دریافت شدہ طبعی قوانین کو اوائل اور حتمی قرار دینے کے بعد آگے ترقی کرتا ہے اور پرانی بنیادوں کو ترقی دے کر اس پر مزید علم کی دیواریں اُستوار کرتا ہے۔ اسی گذشتہ علم کو صحیح اور مستقل ماننے کے بعد ہی وہ آئندہ کے لیے بھی صحیح پیشین گوئیاں کرتا ہے اور آئندہ کے تجربات کے سہارے آگے بڑھ جاتا ہے۔

یہ سب کیا ہے؟ منطق استقراتیہ میں اسے قانون یکسانیت اور قانون عمومیت کہتے ہیں۔ یہی بنیاد ہے تجربہ و مشاہدہ کی۔ سائنس کی ساری عمارت، حتیٰ کہ انسان کا سارا مشاہداتی علم اسی پر مبنی ہے۔ یہ یکسانیت و عمومیت کیا ہے؟ یہ نظم و ضبط کی معراج ہے۔ اس قدر باریک نظم و ربط کہ کہیں بھی ایک سیکنڈ کے وقت کی کمی بیشی نہیں ہوتی، ایک انچ کے لاکھویں حصہ کے برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا سائنسدان اس قانون فطرت کی انتہائی صحت سے

آگئی۔ آگے کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ اب کیا کریں؟

ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی قوتِ ادراک کی بے بسی مان لیں اور صاف اعتراف کر لیں کہ معلول نتیجہ اور واقعہ موجود ہے مگر اس کا سبب کہیں آگے، سرحدِ ادراک سے پرے ہے، ہمارے علم اور ادراک میں نہیں آ رہا۔ ہے ضرور مگر نظر نہیں آ رہا ہے۔

دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوں کہہ دیں کہ جہاں تک ہمیں نظر آ رہا تھا، بس وہیں تک راستہ تھا، اب آگے نہ راستہ ہے، نہ منزل۔

مگر اس موقع پر ہماری عقلِ سلیم شدید احتجاج کرے گی، وہ کہے گی کہ وہ تمہارا علت و معلول کا رشتہ کیا ہوا۔ تمہارا اٹل فطری قانون کہ نتیجہ کا سبب ہوتا ہے اور اس میں زمان و مکان کی قید سے آزاد کیا نیست و عمومیت ہوتی ہے، کہاں گیا؟ اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو تو اپنے مرتب کردہ اٹل فطری قانون کو جھٹلانے لگے ہو، معلول سامنے موجود ہے لیکن علت کے وجود کا انکار کرتے ہو؟

حیرت کی بات ہے کہ سرحدِ ادراک سے پہلے تو علت و معلول کا رشتہ بھی لازمی، قانونِ فطرت بھی۔ اٹل قانونِ کیسانیت و عمومیت بھی برسرِ کار ہیں۔ اب جو نہی سرحدِ ادراک سے پار کا معاملہ زیرِ بحث آیا تو سارے رشتے ناٹے ٹوٹ گئے۔ نہ سبب و نتیجہ کا رشتہ باقی رہا۔ نہ تعلیل، نہ کیسانیت و عمومیت اور نہ کوئی قانونِ فطرت۔ وہ آخری معلول جس کی ایک ٹانگ سرحدِ ادراک سے پہلے ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے اور جس کی دوسری ٹانگ سرحدِ ادراک سے پار ہے، اب درخورِ اعتبار ہی نہیں ہے؛ اب اس کا وجود بھی معرضِ شک و انکار میں پڑ گیا؛ بس اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ
وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

”بس صرف اس لیے جھٹلادیا کہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور ابھی اس کی حقیقت ان پر

(رؤیس: ۳۹) نہیں کھلی“

باتیں تو بہت سی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتیں! کیا ان کے وجود سے انکار کریں، ان سے منہ پھیر لیں؟ خدا نخواستہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہو۔ نہ درونی نقسہ نظر آتا ہے اور فرض کیجئے کہ اس کی وجہ

فائدہ اٹھاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے چاند پر پہنچ جاتا ہے۔ کائنات کا اس قدر باریک، پیچیدہ اور صحیح انتظام جس میں علت و معلول کی کڑیاں واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں۔

ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سبب نظر آتا ہے اور ہر سبب کوئی نہ کوئی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔

علت و معلول ایک تجربہ گاہ میں ساتھی تجربات کے ذریعے یا براہ راست فطرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم تمام واقعات و حالات کو علت و معلول کی کڑیوں میں

پروتے چلے جاتے ہیں لیکن ایسی منزل بھی ایک آ جاتی ہے جہاں ہم "علت" کی اگلی کڑی نہیں دریافت کر سکتے۔ یہاں پر اگر ہماری دیکھنے کی محدود قوت جو اب دے جاتی ہے۔ سننے، چمکنے، سونگھنے اور چھونے

کے حواس بے بسی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ہم صاف صاف اعتراف کرتے ہیں کہ ابھی راستہ بہت باقی ہے، منزل بہت آگے ہے لیکن ہماری قوت اس قدر محدود ہے کہ ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے۔

اس منزل پر ہر وہ آنکھ جسے عقل سلیم کی رہنمائی حاصل ہوگی فقط یہی بات کہے گی کہ "آگے دھند ہے، راستہ صاف نظر نہیں آتا"۔ لیکن اگر عقل سلیم کی توفیق نصیب نہ ہو تو یہی آنکھ دھٹائی کے ساتھ یہ بھی

کہہ سکتی ہے کہ "راستہ بس وہیں تک تھا جہاں تک میں دیکھ سکتی تھی، جس جگہ سے میری نظر نے کام کرنا بند کر دیا ہے بس وہیں سے راستہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب آگے مزید کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل

نہیں، علت و معلول کی وہ کڑیاں جو اب تک انتہائی باریکی اور صحت کے ساتھ ملتی چلی آتی ہیں بس اب ختم ہو گئیں۔ اس مقام سے آگے نہ کسی سبب کا کوئی نتیجہ ہے اور نہ کسی نتیجے کا کوئی سبب۔

بس دھند ہی دھند ہے۔" بیچاری عقل پیچ کر یہ سوال کرتی ہے کہ جناب آپ اس مقام تک تو علت و معلول کا رشتہ انتہائی صحت کے ساتھ اٹل قوانین کی حیثیت میں بیان کرتے چلے آئے ہیں۔

اب ایک معلول ایسا بھی آن پہنچا ہے جس کی علت آپ کو نظر نہیں آرہی کیا آپ کی گذشتہ ہماری تحقیق یہ بات گوارا کرنے کو تیار تھی کہ بغیر علت کے معلول کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے؟ اب اس

آخری معلول کی علت کے وجود کا انکار صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ علت آپ کو نظر نہیں آرہی کیا ایک واضح اور روشن معلول کی علت کے وجود کا انکار صرف اس لیے کر دیا جاتے کہ وہ آپ کی

سمجھ میں آتی ہے۔ کیا مان لوں کہ میرے سر میں درد نہیں ہو رہا؟

دنیا میں بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حواس خمسہ اور ادراک عقلی کی زد سے دور ہیں، کیا ان سب

کے وجود سے انکار کر دیں؟

تو آیتے آپ کو ایک اُن دیکھی دنیا کی سیر کرادیں۔ وہ اُن دیکھی دنیا جس کے وجود سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ اہل نظر تو صرف چلتے والے کے نقش پا کو دیکھتے ہیں اور کسی خاص شخص کے اس جگہ پر آنے کا ثبوت ہتیا کر لیتے ہیں۔ قدموں کے یہ نشان اس جگہ پر اس شخص کے وجود کی دلیل بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں پاؤں کے نشانوں سے چوروں کا سراغ بھی لگا لیا جاتا ہے، لیکن ہم تو محبوب کے وجود کی بات کریں گے۔

کہے دیتی ہے شوخی نقشِ پا کی

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے!

خلیے

گزشتہ صفحات میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نظر میں نہیں آتی لیکن موجود ہوتی ہیں۔ خلیوں اور ایٹم میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی دنیا بھی اُن دیکھی دنیا ہے۔ جب اس کے عجائبات پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس طرح سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے۔

ڈاکٹر غلام جیلانی برق ۱۴ سائنسدانوں کے مضامین پر مشتمل ایک کتاب ایک عظیم منصوبہ

Great design کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”نباتات اور حیوانات کے بنیادی اجزاء خلیے Cells کہلاتے ہیں۔ ہر خلیہ کئی عمارت

مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن وغیرہ سے مرکب ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر لوہا اور ہر جاندار انہیں سے

تیار ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر جانور کی تکوین انہیں سے ہوتی ہے تو ان کا ایک مجموعہ

نظر میں نہیں آ رہا۔ آپ کی نظر میں تو بہت سی باتیں نہیں آتیں، کیا ان سب کے وجود کا انکار کر دیا جائے؟ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ علت و معلول کا تعلق صرف طبیعی قوانین تک اور طبیعی اور مادی دنیا تک محدود سمجھتے ہیں یعنی جہاں تک انسان کے حواسِ خمسہ کام کر سکیں وہاں تک تو علت و معلول کا سلسلہ موجود ہے اور جہاں انسان کے حواس دھندلانے لگیں وہاں سے علت و معلول کا رشتہ بھی ختم! حیرت کی بات ہے کہ سرحدِ ادراک سے اُس پار تو قوانینِ فطرت بھی اٹل ہیں، قوانینِ یکسانیت و عمومیت بھی برسرِ کار ہیں، رشتہٴ علت و معلول کے بغیر ایک سیکنڈ کے لیے بھی گزارا نہیں اور جُو نہی سرحدِ ادراک سے اُس پار جاتیے سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے، نہ کوئی قانون باقی رہا، نہ یکسانیت، نہ عمومیت نہ تعلیل۔ وہ آخری معلول جو سرحدِ ادراک سے اس پار ہیں نظر آیا ہے اور جس کی دوسری ٹانگ سرحدِ ادراک کی دوسری جانب ہے ان نیم حکیم سائنسدانوں کے لیے درخورِ اعتبار نہیں۔ اس آخری معلول کی علت چونکہ انہیں معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے موجود ہی نہیں۔ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِۦ (القرآن)۔ اگر کسی انسان کی عقل بالکل ماری نہیں گئی تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ اس آخری معلول کی علت اگر حسی دنیا میں موجود نہیں تو غیر حسی دنیا میں ضرور موجود ہے۔ اگر سرحدِ ادراک سے اس پار طبیعی دنیا میں اس کی علت نہیں ہے تو سرحدِ ادراک سے اُس پار مابعد الطبعی دنیا میں اس کی علت ضرور موجود ہوگی اور مابعد الطبعی دنیا میں بھی علت و معلول کا رشتہ اس طرح سے موجود ہے جس طرح سے طبیعی دنیا میں ہے۔

اس کی تائید ایک اور دلیل سے بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم علت اور معلول کی لمبی زنجیر کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ بات از خود طے ہو جاتی ہے کہ کوئی معلول از خود اپنی علت نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اتنی لمبی زنجیر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر معلول کے اوپر ایک علت ہے۔ اگر اونچی سطح پر ہم فطرت کو ایک معلول تصور کر لیں تو اس کی علت ہمیں فطرت سے باہر ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس علت کو ہم مافوق الفطرت

لہ ترجمہ: بس صرف اس لیے جھٹلا دیا کہ بات ان کی سمجھ و علم میں نہیں آتی؟

خرگوش، دوسرا ہرن، تیسرا بیل اور چوتھا سانپ کیسے بن گیا۔ ماہرین حیات کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کمال ترتیب سے ہے۔ ہرن کے خلیوں کی ترتیب دیگر تمام جانوروں کے خلیوں سے جدا تھی۔ اسی اختلاف ترتیب سے ایک خرگوش اور دوسرا شیر بن گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ترتیب دینے والا کون ہے۔ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔

لیکن مذہب کہتا ہے: اللہ!

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِہٖ ط (فاطر: ۱۱)

”اللہ نے تمہیں پہلے چکنی مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر نطفہ سے تمہاری تخلیق شروع کر دی، اس نے تمہارے جوڑے بنائے اور عورت جو کچھ پیٹ میں اٹھاتے پھرتی ہے یا جنتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔“

ایم

بے جان اشیاء مثلاً لوہا، پتھر، سونا وغیرہ میں خلیے نہیں بلکہ برق پارے ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب اور تعداد کے اختلاف سے ایک مجموعہ سونا بن جاتا ہے دوسرا چاندی اور تیسرا لوہا۔ ہائیڈروجن کے جوہر میں صرف ایک منفی الیکٹران ہوتا ہے اور اسکین میں آٹھ اور کیلشیم میں بیس۔“

(۵: ۱۱)

”یہ کائنات بجلی کے مہین ذرات سے تعمیر ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، منفیہ الیکٹران ثابتہ (پروٹان) جسے مرکزہ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ملاپ سے جوہر (ایٹم) بنتا ہے اور کئی جوہر سے مالیکیول تیار ہوتا ہے اور ایک ایٹم کا ٹھوس حصہ مہی ہوتا ہے جسے مرکزہ کہتے ہیں اور باقی جگہ خالی ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہلیم سے اس کی خالی جگہ چین لی جائے تو تین من بجاری انسان کا وزن ریت کے ایک ذرے سے بھی کم ہو جائے گا۔ اور زمین کا قطر جو اب ۸ ہزار میل ہے صرف نصف میل رہ جائے گا۔“ (ریڈر ڈائجسٹ، فروری ۱۹۵۶ء صفحہ ۱۴۲)

کہنے پر مجبور ہوں گے۔ جس طرح سے ایک معلول اپنی علت خود نہیں ہو سکتا اسی طرح سے یہ کائنات خود اپنی خالق و ناظم نہیں بن سکتی۔ اس کائنات کی منصوبہ بندی اور انتظام کے لیے ایک ایسا منصوبہ ساز درکار ہے جو مافوق الفطرت ہو۔

قانون کیسانیت و عمومیت اور علت و معلول کے اس واضح رشتے کے سمجھ میں آجانے کے بعد ایک صحیح ذہن خود بخود اس نتیجہ کی طرف مائل ہوتا ہے :-

۱۔ اس کائنات کا وجود، اس کی تخلیق، اس کا انتظام اور اس کی ارتقائی منازل محض اتفاقات و حادثات پر مبنی نہیں بلکہ ایک انتہائی جامع اور حکیمانہ منصوبہ کو چلانے کے لیے فطرت کی اندھی بہری قوت کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک حکیم و قدیر خالق کا وجود ایک مدبر و منظم کارسرمہستی کا وجود ماننے بغیر چارہ نہیں۔

آئیے اس بارے میں ایک مشہور ماہر نباتات مسٹر سیل بانس کے تاثرات دیکھیں۔ وہ اپنے ایک مضمون ”پھولوں اور پھولوں کے بارے میں“ میں لکھتے ہیں۔

”پانی کے ایک قطرے سے لے کر جو خوردبین سے مشکل ہی سے دیکھا جا سکتا ہے، فضا

بسیط میں پھیلے ہوئے ان دور دراز ستاروں تک نگاہ دوڑاؤ جو دوربین کے بغیر نظر نہیں آتے تبیں

ان میں فقید المثال نظم و ضبط نظر آتے گا۔ ان کے وظائف میں اس قدر کیسانیت پائی جاتی ہے کہ

ہم اس کی بنیاد پر قوانین مرتب کر سکتے ہیں، فطرت کے مظاہر میں کیسانیت اور ہم آہنگی کے

یقین ہی نے بے شمار انسانوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اس کیسانیت کی تحقیق میں عمریں صرف

کریں۔ اگر انہیں اس پر اعتماد نہ ہوتا تو وہ عمر ایسی متاع عزیز کو اس تحقیق میں گنوانے کے لیے تیار

نہ ہوتے۔ اگر اس کائنات کی تہ میں محض اتفاق کارفرما ہوتا تو پھر ہر نئے تجربے سے نت نئے

نتائج برآمد ہوتے۔ ان حالات میں کوئی ترقی ممکن نہ ہوتی۔ کائنات کا حسن انتظام اس بات

کا شاہد ہے کہ اس کا کوئی ناظم ضرور ہے، کیونکہ ناظم کے بغیر کسی کام میں کیسانیت پیدا نہیں

ہو سکتی۔ ہر نیا قانون جو دریافت ہوتا ہے، زبان حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ میرا واضع

نیویارک کا ایک سائنسدان رابرٹ پلمب نیویارک ٹائمز میں لکھتا ہے کہ باؤباراں کا وہ طوفان جو ۸۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہو ایک منٹ میں اتنی توانائی استعمال کرتا ہے جتنی کہ ریاستہائے متحدہ کا نظام برق پچاس برس میں پیدا کرتا ہے۔ (ایضاً ۵: ۱۶)

جیمز آزلڈ گراڈ ٹھہرام اسے ایس سی ڈی اپنے مضمون "ضوفشانی" Radiation میں لکھتے ہیں:

"مادہ کیسے؟ یہ برق پاروں میں مقید توانائی کا نام ہے۔ اگر اس توانائی کو ہم کسی طرح آزاد کر سکیں تو یہ خلا میں نہایت تیز رفتاری سے کسی طرح پرواز کرنے لگے گی۔ اس کی صورت ایک ہی ہے کہ یہ زمین کسی ستارے سے اس طرح بکرا جاتے کہ تمام رشتے بندھن اور رابطے ٹوٹ جائیں اور برق پارے آزاد ہو جائیں۔"

کائنات کی بنیادی حقیقت ضوفشانی Radiation یا توانائی ہے۔ یہ کہیں شعاع کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کہیں لہر اور کہیں ذرے کی۔ اس متنوع کائنات میں توانائی ہی رشتہ وحدت کا کام دیتی ہے۔ آغاز آفرینش میں خلا پر سکون تھا، کہیں سے برق پارے بیج میں اگڑے اور اضطراب سا پیدا ہو گیا۔ ان میں سے کچھ توانائی میں تبدیل ہو گئے اور کچھ مادہ Matter بن گئے۔

سائنس ان گنت صدیوں سے رازِ حیات حل کرنے میں مشغول ہے۔ اس نے تلاش و تحقیق کی بے شمار وادیاں طے کیں۔ بڑی پیچیدہ راہوں سے گذری۔ بے شمار الجھی ہوئی گفتیاں سلجھائیں اور اب اس صداقت تک جا پہنچی ہے جس کا اعلان خدا تے موسیٰ نے ولادتِ مسیح سے پندرہ سو سال پہلے کیا تھا:

"Let there be light and there was light".

ترجمہ: "اللہ نے کہا اُجالا ہو جاتے اور فوراً اُجالا ہو گیا"

خدا ہے۔ اس نے مجھے ضرور وضع کیا ہے۔

ساتس خدا کے وجود پر گواہ ہے۔ ایسا خدا جو روزمرہ زندگی میں بھی موجود ہے۔ پھر ستاروں کی تصویریں لے سکتے ہیں اور آسمانوں پر ان کے راستے متعین کر سکتے ہیں، مگر خدائے واحد کے وجود کی ایسی کوئی مادی شہادت فراہم نہیں کی جاسکتی۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے بتاتے ہوئے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ستاروں کا مشاہدہ نہیں کرتا تو وہ ہٹ دھرمی سے کہہ سکتا ہے کہ ستارا ایسی کوئی چیز کائنات میں نہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ یہی حال خالق کائنات کا ہے، جب تک ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اُس کی تخلیق پر غور نہ کریں اُس وقت تک وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا اور ہم صندی بچوں کی طرح ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلانے کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک مرتبہ بھی اُس کے نور کی پرچھائیں دیکھ لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس کی تکذیب کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ اس عمل کا ایک داخلی تجربہ ہونا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر ہم خود اس کی ذات پر غور و فکر نہ کریں تو محض دلائل کے زور سے اسے دل و دماغ میں کس طرح اتارا جاسکتا ہے۔ وہ اُنہی کو دکھاتی دے گا جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔“

(۳: ص ۲۹۶)

انسان کے تخلیقی مراحل، اس کی ربوبیت کے لیے طویل و عرضی خوان نعمت اور پھر آخر کار اس کی جولانی مطیع کے لیے کائنات کے اس قدر واضح طور پر تدبیر کردہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس حکیم و تدبیر مستی باری تعالیٰ کے وجود کا منکر ہوتا ہے تو اس کی مثال اُس ڈھیٹ چور کی سی ہے جو کسی باغ سے پھل چرا کر لے جا رہا تھا مگر عین موقع پر باغ کا مالک پہنچ گیا۔ باغ کے مالک نے چور سے پوچھا کہ یہاں کیوں آتے؟ چور نے جواب دیا کہ اتفاق ہے کہ آگیا، آنے کا ارادہ تو نہ تھا، غالباً راستہ بھول گیا۔ مالک نے پوچھا یہ پھل کیوں توڑے؟ چور نے جواب دیا: انہیں کسی نے نہیں توڑا، یہ خود ہی ٹوٹ کر گر گئے، غالباً تیز ہوا آتی ہوگی۔ باغ کے مالک نے مزید پوچھا کہ اچھا پھر یہ

منطقی اثباتیت اور ایمان بالغیب

اس موقع پر منطقی اثباتیت Logical positivism کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ جدید دور کے اس فلسفے میں یہ بات بہت شد و مد کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جو امر یا جو چیز حواسِ خمسہ کے ذریعے محسوس نہ کی جاسکے وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ بالفاظِ دیگر جو چیز نظر نہ آتے وہ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ ازراہِ تعینِ عرض ہے کہ اس قسم کی کٹ جھتی آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے حضرت مہر علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک خدا کو نہیں مانیں گے جب تک خدا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آجاتے گا۔

منطقی اثباتیت سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ عرض ہے کہ اس فلسفے کو ماننے والے ایک استاد اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے اور اندازِ گفتگو یہ تھا کہ دیکھیے آپ لوگوں کو یہ کتاب نظر آرہی ہے۔ طلباء نے جواب دیا کہ جی نظر آرہی ہے۔ ارشاد ہوا "تو یہ کتاب موجود ہے" پھر پوچھا کہ "یہ دیوار نظر آرہی ہے؟" طلباء سے جواب ملا "نظر آرہی ہے" تو استاد نے فرمایا کہ "دیوار موجود ہے" پھر پوچھا کہ "یہ قلم آپ کو نظر آتا ہے؟" طلباء نے جواب دیا "جی نظر آتا ہے" استاد نے کہا "یہ قلم موجود ہے" پھر پوچھا "تمہیں خدا نظر آرہا ہے؟" طلباء نے کہا "جی نہیں نظر آرہا" تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ "اگر خدا نظر نہیں آ رہا ہے تو خدا موجود نہیں ہے" اسی اشارے میں ایک ذہین طالب علم نے کھڑے ہو کر طلباء سے پوچھا کہ "کیا آپ کو استاد صاحب کی عقل نظر آرہی ہے؟" طلباء نے کہا نہیں، تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ "استاد صاحب میں عقل نہیں ہے"

قرآن مجید اس اندازِ فکر کی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ ارشاد ہے:

«بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذْبًا وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُرْتَضِينَ وَيُلَكِّمُ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ لَيْلًا نَّجْوَا لِمَنْ لَمْ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» (یونس: ۳۹)

» بس صرف اس لیے جھٹلا دیا کہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی یا دائرہ علم میں نہ آسکی (حواسِ خمسہ کی

گرفت میں نہ آسکی) اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔

بتاؤ کہ پھیل تم نے بوری میں کیوں بھرے؟ چور نے جواب دیا: بوری میں بھی پھیل کسی شخص نے نہیں بھرے، دراصل ہوا کے زور سے بوری کا مٹنہ کھل گیا، ادھر پھیلوں کے گرتے کا زاویہ کچھ اس انداز کا تھا کہ وہ تنظیم و ترتیب کے ساتھ بوری میں فیٹ ہو گئے، یہ سب کچھ اتفاقات ہی اتفاقات ہیں، کسی نے بھی جان بوجھ کر تمہارا نقصان نہیں کیا۔ باغ کے مالک نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ بوری کا مٹنہ کس نے باندھا اور تمہارے کندھے پر یہ بوری کیسے آگئی؟ چور صاحب نے جواب دیا کہ ذرا مل اس وقت سے میں اسی سوال کا جواب سوچ رہا ہوں اور لا ادرتیت کا شکار ہوں، آؤ مل کر اس مسئلہ پر غور و خوض کرتے ہیں۔

دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود ہے اور وہ نظر نہیں آتیں۔ مثلاً ہوا۔ ہوا چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہاں گرد و غبار نظر آتا ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں مگر یہ تو ہوا کی علامتیں ہیں نشانیاں اور آثار ہیں، ہوا تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آیات و بینات تو نہ صرف بکھری ہوئی نظر آتی ہیں مگر اس کی ذات نظر نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ درد کے آثار تو چہرے پر نظر آتے ہیں مگر درد نظر نہیں آتا۔ زمین کی کشش ثقل، فضا میں رطوبت، لہریں، ہمارے جذبات، غم، غصہ، خوشیاں نہ نظر آتی ہیں اور نہ حواسِ خمسہ سے محسوس کی جاسکتی ہیں۔ ہاں ان کے آثار و علامات ضرور نظر آتے ہیں۔ کیا ان سب چیزوں کے وجود کا انکار کر دیں؟

سب چیزیں موجود ہوتی ہے لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا یہ سب چیزیں غیر موجود ہو جاتی ہیں۔ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن آنکھوں کے سامنے اگر دو ہزار واٹ کا بلب روشن کر دیا جائے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔

نظر یا خبر؟

کسی چیز کے ثبوت کے لیے اس کی روایت اور اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم کمرے میں موجود ہوتے ہیں، باہر سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن سورج کے وجود کا افرا کرتے ہیں، کسی مکان سے دھواں اُٹھ رہا ہوتا ہے لیکن آگ نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر آگ کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں وہ شخص نظر نہیں آتا۔ مگر اس کے باوجود اس کا سراغ پالیتے ہیں۔

عملی دنیا میں نظر سے زیادہ خبر کی وقعت ہے۔ حواسِ خمسہ کی کیفیت تو عام طور پر ان چار ذہنوں کی کیفیت سے ملتی جلتی ہے جو ایک ہاتھی کو مختلف زاویوں سے ٹول رہے تھے کسی نے مونڈ پر ہاتھ لگایا تو کہا کہ ہاتھی سانپ کی طرح ہوتا ہے کسی نے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو کہا کہ تھی ستون کی طرح ہوتا ہے۔ اور کسی نے اس کے جسم پر ہاتھ لگایا تو کہا کہ وہ دیوار کی طرح ہوتا ہے۔

مسئلے کا واحد حل

ایک اہم اقتباس

کسی دعوے کی صحت کو پرکھنے کا صحیح طریقہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے اس دعوے کو درست فرض کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ دعویٰ درست ماننے کے بعد کیا کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر یہ نتائج واقعاتی دنیا میں سو فیصد صحیح ثابت ہوں تو اس دعویٰ کو صحیح ماننا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس دعویٰ کے علاوہ اور بھی متبادل دعوے ہیں یا نہیں۔ ان کے نتائج کیسے ہیں، اور یہ نتائج اس کائنات میں حقائق و واقعات کے مطابق ہیں یا نہیں؟

علمی و سائنسی تحقیق کی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے بے شمار دعوے سامنے آتے ہیں اور بالآخر ایک دعویٰ ایسا باقی رہ جاتا ہے جو مندرجہ بالا معیار پر پورا اترتا ہے اور وہی مسئلہ کا اصل حل قرار پاتا ہے۔

وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوچنے کا صحیح اور فطری انداز کیا ہے؟ اس سلسلہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تحریر نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ خبارِ خاطر میں لکھتے ہیں:

”بارہا مجھے خیال ہوا، کہ ہم خدا کی ہستی کا اقرار کرنے پر اس لیے بھی مجبور ہیں کہ اگر نہ کریں، تو کارخانہ ہستی کے معنے کا کوئی حل باقی نہیں رہتا، اور ہمارے اندر ایک حل کی طلب ہے جو ہمیں مضطرب رکھتی ہے۔“

آں کہ این نامتہ سربستہ نوشتہ است نخت

گر ہے سخت بر سر رشتہ مضمون زودہ است

اگر ایک الجھا ہوا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں اس کے حل کی جستجو ہے تو ہم کیا

وعلیٰ ہذا القیاس ... عملی زندگی کا تعلق خیر اور ایمان بالغیب سے ہے ہم اپنی زندگی کے ۹۵٪ امور صرف دوسروں سے سنی سناتی باتوں پر اعتماد کر کے طے کرتے ہیں۔ ایک بیمار شخص ڈاکٹر کی برسرِ بات پر پورا پورا اعتماد کرتا ہے اور ایمان بالغیب لانا ہے۔ ایک شخص عدالت میں مقدمہ لڑتے ہوئے وکیل کی ہر لٹی سیدھی بات پر پورا پورا اعتماد کرتے ہوئے اس پر ایمان بالغیب لانا ہے ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر خبریں سنتے ہیں، سب باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، اگر یہ اعتماد نہ ہو اور ہر چیز کو دیکھنا شرط قرار پا جائے تو زندگی گزارنا ناممکن ٹھہرے۔ مجھے جاپان جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو کیا میں جب تک جاپان کو دیکھ نہ لوں تو ملک جاپان کے وجود سے انکار کیے رکھوں، کہنے والا مجھے کہہ سکتا ہے کہ میاں ابھی چلو ٹکٹ خریدو اور ٹوکیو کے شہر میں جا کر دیکھ لو کہ جاپان موجود ہے۔ میرا جواب یہی ہو گا کہ ہاں بھئی ہو گا مگر صرف تمہارے لیے، اس لیے کہ تم دیکھ چکے ہو اور جب تک میں دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک میرے لیے جاپان کا وجود نہیں ہے۔ کیا یہ جواب اصولاً درست ہو گا لیکن ایک معقول شخص کا رویہ یہی ہے کہ میاں جب تم کہتے ہو کہ جاپان میں پہنچ کر جاپان کو دیکھ سکتے ہو تو دیکھنے سے پہلے ابھی اس کے وجود کا اقرار کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اصولی طور پر تو اس کا وجود مان لینا چاہیے۔

یہی بات اللہ والے بھی کہتے چلے آتے ہیں (ایک لاکھ چوبیس ہزار ستمیر) کہ جب وقت آنے کا تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کا قرب نصیب ہو گا تو تم اس کا مشاہدہ کر سکو گے لیکن اس مشاہدے سے پہلے ابھی مان لینے میں کیا حرج ہے۔ اصولی طور پر تو مان لینا چاہیے۔

میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ فلسفہ کا مطالعہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ گہرا پانی آیا، ڈبکیاں کھانے لگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی چولیس ڈھیلی ہونے لگیں۔ اس موقع پر ایک سہارا تھا جس نے ڈوبنے سے بچالیا اور کنارے پر بارانی بخشی۔ اور وہ تھا محمد عربی پر اعتمادِ کامل کا سہارا! ان پر ایمان بالغیب کا سہارا! اتنا تو یقینِ کامل ہے اور تھا کہ محمد عربی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا اور وہ پھر اس راہ میں اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء ان کے جلو میں چلے

کرتے ہیں؟ ہمارے اندر بالطبع یہ بات موجود ہے اور منطق اور ریاضی نے اسے راہ پر لگایا ہے کہ ہم الجھاؤ پر غور کریں گے۔ ہر الجھاؤ اپنے حل کے لیے ایک خاص طرح کے تقاضے کا جواب چاہتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ایک کے بعد ایک طرح طرح کے حل سامنے آئیں اور دیکھیں اس تقاضا کا جواب ملتا ہے یا نہیں؟ پھر جو نہی ایک حل ایسا نکل آئے گا جو الجھاؤ کے سارے تقاضوں کا جواب دے دیگا اور معاملہ کی ساری گلیں ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائیں گی۔ یہیں پورا یقین ہو جائے گا کہ الجھاؤ کا صحیح حل نکل آیا۔ اور صورت حال کی یہ اندرونی شہادت ہمیں اس درجہ مطمئن کر دے گی کہ پھر کسی بیرونی شہادت کی احتیاج باقی نہیں رہے گی، اب کوئی ہزار شبہ نکلے، ہمارا یقین متزلزل ہونے والا نہیں۔

فرض کیجیے، کپڑے کے ایک تھان کا ٹکڑا کسی نے پھاڑ لیا ہو اور پھٹا ہوا ٹکڑا اس طرح ٹیڑھا ترچھا، دندانہ دار ہو کہ جب تک ویسے ہی الجھاؤ کا ایک ٹکڑا وہاں آکر بیٹھتا نہیں، تھان کی خالی جگہ بھرتی نہیں اب اسی کپڑے کے بہت سے ٹکڑے ہیں مل جاتے ہیں اور ہر ٹکڑا وہاں بٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس غلام کی نوعیت کا تقاضا پورا ہوتا ہے یا نہیں، مگر کوئی ٹکڑا ٹھیک بیٹھتا نہیں، اگر ایک گوشہ میل کھاتا ہے تو دوسرے گوشے جڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، اچانک ایک ٹکڑا ایسا نکل آتا ہے کہ ٹیڑھے ترچھے کٹاؤ کے سارے تقاضے پورے کر دیتا ہے اور صاف نظر آ جاتا ہے کہ صرف اسی ٹکڑے سے یہ غلام بھرا جا سکتا ہے، اب اگرچہ اس کی تائید میں کوئی خارجی شہادت موجود نہ ہو، لیکن یہیں پورا یقین ہو جاتے گا کہ یہی کپڑا یہاں سے پھاڑا گیا تھا، اور اس درجہ کا یقین ہو جائے گا کہ اس یقین کو کوئی مستزلزل نہیں کر سکتا۔

اس مثال سے ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور گورکھ دھندے کی مثال سامنے لائیے۔ بیٹھا طریقوں سے ہم اسے مرتب کرنا چاہتے ہیں، مگر ہوتا نہیں، بالآخر ایک خاص ترتیب نکل آتی ہے کہ اس کے ہر جز کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور اس کی چول ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اب گو کوئی خارجی دلیل اس ترتیب کی صحت کی موجود نہ ہو۔ لیکن یہ بات کہ صرف اسی ایک ترتیب سے اس کا الجھاؤ دور ہو سکتا ہے، بجائے خود ایک ایسی فیصلہ کن دلیل بن جائے گی کہ پھر ہمیں کسی اور دلیل کی احتیاج

آ رہے ہیں۔ کیا یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں؛ ان سب کو جھوٹا کہنے سے پہلے اپنی عقل کا علاج کیوں نہ کروالوں؛ پھر یہی ہوتا رہا کہ جب غوطے آنے لگتے تو ضمیر کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی:

مھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بیتا کر اڑا

تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزِ صدیق دے (اقبال)

یہ سوزِ صدیق کیا ہے؛ یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتِ کبریٰ پر مکمل ایمان ہے اور وہ بات جو سمجھ میں آنے والی نہیں اس پر بھی یقینِ کامل لے آنے کا نام ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گئی ہو۔

تو ہر چیز کا وجود اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اسے ننکی آنکھ سے دیکھا جائے یا حواسِ خمسہ سے محسوس کیا جائے۔ زندگی کے پچانوے فی صد سے زیادہ معاملات خبر سے متعلق ہیں، نظر سے نہیں۔

نظر درد و غم و سوز و تب و تاب

تو اسے ناداں قناعت کر خبر پر (اقبال)

باقی نہیں رہے گی۔ الجھاؤ کا دور ہو جانا اور ایک نقش کا نقش بن جانا بجائے خود ہزاروں دلیلوں کی ایک دلیل ہے۔

اب علم و تحقیق کی راہ میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے اور ایک تیسری مثال سامنے لاتے، آپ نے حرفوں کی ترتیب سے کھلنے والے قفل دیکھے ہوں گے، انہیں اپنے قفل ابجد کے نام سے پکارتے تھے ایک خاص لفظ کے بننے سے وہ کھلتا ہے اور وہ ہمیں معلوم نہیں، اب ہم طرح طرح کے الفاظ بناتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کھلتا ہے یا نہیں؟ فرض کیجیے ایک خاص نقطے کے بنتے ہی کھل گیا، اب کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا کہ اسی لفظ میں قفل کی کئی پوشیدہ تھی، جستجو جس حل کی تھی وہ قفل کا کھلنا تھا، جب ایک لفظ نے قفل کھولا یا تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہا، جس کی مزید جستجو ہو۔

ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اس طلسم ہستی کے معنی پر غور کیجیے، جو ہمارے اندر اور ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، انسان نے جب سے پوش و آگے کی آنکھیں کھولی ہیں، اس معما کا حل ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن اس پرانی کتاب کا پہلا اور آخری ورق کچھ اس طرح کھویا گیا ہے، کہ نہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی، نہ اسی کا کچھ سراغ ملتا ہے کہ ختم کہاں جا کر ہوئی اور کیونکر ہوگی:

اول و آخر ایں کہنہ کتاب افتاد دست!

زندگی اور حرکت کا یہ کارخانہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس کی کوئی ابتدا بھی ہے یا نہیں؟ یہ کہیں جا کر ختم ہو گا یا نہیں؟ خود انسان کیا ہے؟ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ”انسان کیا ہے؟“ تو خود یہ سوچ اور سمجھ کیا چیز ہے؟ اور پھر حیرت و درماندگی کے ان تمام پردوں کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ ہم اس الجھاؤ کو نئے نئے حل نکال کر سلجھانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ الجھتا جاتا ہے، ایک پردہ سامنے دکھائی دیتا ہے اُسے ہٹانے میں نسلوں کی نسلیں گزار دیتے ہیں، لیکن جب وہ ہٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سو پرے اس کے پیچھے پڑے تھے اور جو پردہ ہٹا تھا، وہ فی الحقیقت پردے کا ہٹنا نہ تھا، بلکہ نئے نئے پردوں کا نکل آنا تھا، ایک سوال کا جواب ابھی حل نہیں ہو چکا کہ دس نئے سوال سامنے آکر پڑے ہوتے ہیں، ایک راز ابھی حل نہیں ہو چکا کہ سونے راز چمک

دانشِ اعلیٰ

آئن سٹائن کہتا ہے :

”باشعور زندگی جس کا دھارا ازل سے ابد کی طرف رواں ہے، فطرت کا بہت بڑا راز

ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر، نیز کائنات کی حیرت انگیز ساخت پر غور کریں اور اس دانشِ اعلیٰ

کا سراغ لگائیں جس کا اظہارِ فطرت کے ہر منظر سے ہو رہا ہے“

(۵ : ص ۱۸)

یہ کائنات اس قدر منظم، مرتب، پیچیدہ، دقیق و صحیح تدبیر کا مظہر اور اس قدر حسین ہے کہ اس

کے خالق و مدبّر کا تصور از خود ذہن میں آتا ہے اور اس دانشِ اعلیٰ پر قرآن ہونے کو جی چاہتا ہے۔

کائنات کے حسن و رعنائی اور اس میں موجود تدبیر و حکمت سے اور کیا نا انصافی ہوگی کہ اسے

کسی حادثہ یا اتفاق کا نتیجہ قرار دے دیا جائے اور احسن الخالقین سے منہ موڑ لیا جائے۔

یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ رنگ کا ڈبہ زمین پر گر گیا اور فرش پر مرنالیزا کی تصویر

بن گئی۔ یا یہ کہ سیاہی کا غدیر بھگر گئی اور زمین کا نقشہ بن گیا، یا یوں کہا جائے کہ کسی چھاپہ خانہ میں

اچانک دھماکہ ہوا اور ڈکٹری تیار ہو کر باہر آگئی۔

تخلیقی فن پارہ جس قدر پیچیدہ، مرتب اور حسین ہوگا وہ اسی قدر اپنے خالق کے تخلیقی حسن کا

غماز ہوگا۔

حقیقتِ حیات

آرتھر سٹوارٹ ایو۔ این آر ایس۔ ڈی ایس سی اپنے مقالہ ”تفسیر کائنات“ میں لکھتے ہیں :

کرنے لگتے ہیں۔

اچھا اب غور کیجیے، اس معما کے حل کی کاوش بالآخر ہیں کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے؟ یہ پورا کارخانہ ہستی اپنے ہر گوشہ اور اپنی ہر نمود میں سرتاسر ایک سوال ہے۔ سورج سے لے کر روشنی کے ذروں تک کوئی نہیں جو یک وقت تسلیم پرستش و تقاضا نہ ہو، ”یہ سب کچھ کیا ہے؟“ ”یہ سب کچھ کیوں ہے؟“ ”یہ سب کچھ کس لیے ہے؟“ ہم عقل کا سہارا لیتے ہیں اور اس روشنی میں جسے ہم نے علم کے نام سے پکارا ہے، جہاں تک راہ ملتی ہے چلتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی حل ملتا نہیں، جو اس الجھاؤ کے تقاضوں کی پیاس بجھا سکے، روشنی گل ہو جاتی ہے، آنکھیں پتھر جاتی ہیں اور عقل و ادراک کے سارے سارے جواب دیتے ہیں، لیکن پھر جونہی ہم پرانے حل کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنی معلومات میں صرف اتنی بات بڑھا دیتے ہیں کہ ”ایک صاحب ادراک و ارادہ قوت پس پر وہ موجود ہے“ تو اچانک صورت حال یک قلم منقلب ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے اندھیرے سے نکل کر یکایک اُجالے میں جا کھڑے ہوتے۔ اب جس طرف بھی دیکھتے ہیں روشنی ہی روشنی ہے، ہر سوال نے اپنا جواب پایا، ہر تقاضے کی طلب پوری ہو گئی، ہر پیاس کو سیرابی مل گئی، گویا یہ سارا الجھاؤ ایک قفل تھا، جو اس کنجی کے چھوتے ہی کھل گیا۔

چنداں کہ دست و پا زوم، آشفۃ تر، شدم

ساکن شدم میا نہ دریا کنار شدم

اگر ایک ذی عقل و ذی ارادہ پس پر وہ موجود ہے، تو یہاں جو کچھ ہے، کسی ارادہ کا نتیجہ ہے اور کسی معین اور طے شدہ مقصد کے لیے ہے، جونہی یہ حل سامنے رکھ کر ہم اس گورکھ و حدے کو ترتیب دیتے ہیں، معاً اس کی ساری پیچیدگیاں دُور ہو جاتی ہیں اور ساری چولیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک آ کر بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ ”یہ کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟“ کو ایک معنی خیز جواب مل جاتا ہے۔ گویا اس معما کے حل کی ساری رُوح ان چند لفظوں کے اندر سمٹی ہوتی تھی، جونہی یہ سامنے آتے معما معما نہ رہا، ایک معنی خیز داستان بن گیا، پھر جونہی یہ الفاظ سامنے سے ہٹنے لگے ہیں تمام معانی و اشارات غائب

”حیات کیا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ بعض کہتے ہیں کہ زندگی حرکتِ ذرات کی تخلیق ہے لیکن یہ بات درست نہیں۔ کیونکہ حرکت ایک خارجی عامل ہے اور زندگی ایک داخلی حقیقت۔ نیز فطرت کا ایک ایسا رازِ سرستہ جسے انسانی عقل آج تک کھول نہیں سکی۔ پھر ذرات شعور سے محروم ہیں۔ اور انسان شعور کی بلند ترین قسم یعنی عقل سے آراستہ ہے۔ یہ کون تسلیم کرے گا کہ لا شعور شعور کو جنم دے سکتا ہے۔

گو حیات ایک داخلی شعلہ ہے لیکن اس پر باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کام ہمارے سپرد کیا جاتا تو ہم مدت سے ختم ہو چکے ہوتے۔ کون ہے جو غن کے سُرخ و سپید ذرات کی کمی پوری کرتا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑتا اور زخموں میں گوشت بھرتا:

زندگی کہاں سے آتی؟ اس سوال کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مادہ سے پیدا ہوئی اور مادہ انلی وابدی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ عدم سے نکلی یعنی زندگی موت کی تخلیق ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ آفتاب کی الٹرو وائلٹ شعاعوں کی کارستانی ہے۔ بعض کا سبک پریش *Cosmic pressure* وغیرہ کو عواملِ حیات میں شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی جواب حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتا کیونکہ حیات ایک نہایت پیچیدہ چیز ہے۔ ترکیب تو رہی ایک طرف، ایک خلیے کی ساخت تک کو سمجھنا مشکل ہے۔ رہا انسان کا اعصابی و عروقی نظام تو یہ تخلیق کا اتنا بڑا شاہکار ہے کہ انسان اسے آج تک نہیں سمجھ سکا۔ انسانی جذبات کا مرکز کہاں ہے۔ فکر، تخیل، غم، مسرت اور محبت کی امواج کہاں سے اٹھتی ہیں۔ روح کیا ہے اور دل کیا؟ یہ مسائل ہمارے فہم کی رسائی سے باہر ہیں)“ (۵: ۱۲)

وحدت و دانش

ڈیوڈ فریزر ہیرس ڈاکٹر آف سائنس اپنے مقالہ ”کائنات میں وحدت و دانش“ میں لکھتے ہیں۔

”زمین بیک وقت تین گردشیں کر رہی ہے۔ ایک گردش اپنے گرد۔ دوسری سورج کے گرد،

ہو جاتے ہیں اور ایک خشک اور بے جان چپستان باقی رہ جاتی ہے۔

اگر جسم میں رُوح بولتی ہے اور لفظ میں معنی ابھرتا ہے تو حقائق ہستی کے اجسام بھی اپنے اندر کوئی رُوح معنی رکھتے ہیں، یہ حقیقت کہ معما ہستی کے بے جان اور بے معنی جسم میں صرف اسی ایک حل سے رُوح معنی پیدا ہو سکتی ہے، ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ اس حل کو حل تسلیم کر لیں،

اگر کوئی ارادہ اور مقصد پر دے کے پیچھے نہیں ہے تو یہاں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن اگر ایک ارادہ اور مقصد کام کر رہا ہے تو پھر جو کچھ بھی ہے روشنی ہی روشنی ہے۔ ہماری فطرت میں روشنی کی طلب ہے، ہم اندھیرے میں کھوتے جانے کی جگہ روشنی میں چلنے کی طلب رکھتے ہیں اور ہمیں یہاں روشنی کی راہ صرف اسی ایک حل سے مل سکتی ہے۔

فطرت کائنات میں ایک مثال (Pattern) کی نموداری ہے ایسی مثال جو عظیم بھی ہے اور جمالیاتی (Aesthetic) بھی۔ اس کی عظمت ہمیں مرعوب کرتی ہے اس کا جمال ہم میں محویت پیدا کرتا ہے، پھر کیا ہم فرض کر لیں کہ فطرت کی یہ نمود بغیر کسی مدرک (Intelligent) قوت کے کام کر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ فرض کر لیں، مگر نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا فرض کر لینا ہمارا دماغی خودکشی ہوگی۔

اگر غور کیجیے، تو اس حل پر یقین کرتے ہوئے ہم اُس طریقِ نظر سے کام لینا چاہتے ہیں جو ریاضیات کے اعدادی اور پیمائشی حقائق سے ہمارے دماغوں میں کام کرتا رہتا ہے۔ ہم کسی عددی اور پیمائشی الجھاؤ کا حل صرف اسی حل کو تسلیم کریں گے جس کے ملنے ہی الجھاؤ دور ہو جاتا ہے۔ الجھاؤ کا دور ہو جانا ہی صحت کی اہل دلیل ہوتی ہے۔ بلاشبہ دونوں صورتوں میں الجھاؤ اور حل کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی، اعدادی مسائل میں الجھاؤ عددی ہوتا ہے، یہاں عقلی ہے، وہاں عددی حل عددی حقائق کا یقین پیدا کرتا ہے یہاں عقلی حل عقلی اذعان کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تاہم طریقِ نظر کا سانچہ دونوں جگہ ایک ہی طرح کا ہوا۔ دونوں راہیں ایک ہی طرح کھلتی اور ایک ہی طرح بند ہوتی ہیں۔“

اور تیسری سارے نظام شمسی کے ہمراہ کسی نامعلوم مرکز کے گرد بعض اس تیسری گردش کو کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر قرار دیتے ہیں۔ زمین کا ایک وقت یوں گردش کرنا کہ ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو، تخلیق و صناعتی کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ درست کہا تھا سز جمنز جینز نے:

"The trembling universe must have been

balanced with almost unthinkable precision".

”اس کا پتی ہوتی کائنات کو کسی غیر مرقی ہاتھ نے ناقابل تصور جا بک دستی سے متوازن کیا ہوگا۔“

ہمارا واسطہ دو جہانوں سے پڑتا ہے۔ ایک کائناتِ اکبر جو ارض و سما پہ مشتمل ہے۔ اور دوسری کائناتِ اصغر یعنی ذرات اور خلیوں کی دنیا۔ چھوٹی دنیا بڑی دنیا کی نقل ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ”سیارے“ (الیکٹرانز) مرکز کے گرد نہایت تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ اور وحدت کائنات پر شہادت دے رہے ہیں۔ ستاروں کی وسعتیں ہوں یا ذرات کی تنگنائیاں۔ ہر جگہ حیات کا ایک ہی انداز ہے اور ہر تخلیق میں مقصد کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔

کائنات ایک نہایت منظم مربوط اور محکم تخلیق ہے۔ یہ نظم و ربط بعید ترین کہکشاں میں بھی پایا جاتا ہے اور با ایک ترین ایٹم میں بھی خالق کائنات کے ہاں حجم اور وزن کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کی نظر ترتیب تسانت اور استقامت پر رہتی ہے۔

جب ہم جاندار اشیاء پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ مقصد۔ پلان۔ ترتیب۔ آرڈر اور نظم و نظر آتا ہے۔ ہر جاندار ماحول کے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں۔ جو صرف خشکی پہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھ ہوا میں۔ کچھ کھاری پانی اور کچھ بیٹھے پانی میں جی سکتے ہیں۔ پھلی کی ایک نوع سمند کی ان گہرائیوں میں رہتی ہے جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو برفوں میں رہتے ہیں۔ اور بعض دیگر خطِ استوا کی سخت گرمی میں۔ قدرت نے جانوروں کی حفاظت کا بھی حیرت انگیز

انسانی فطرت کے تقاضے

انسانی فطرت اس زندگی میں بہت سے فطری مطالبات رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی فطرت کا گلا دباتے رکھیں اور اس کی آواز اپنی پریشانی فکری کے تقارخانے میں بلند نہ ہونے دیں۔ لیکن یہ مطالبات برحق ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:-

۱۔ انسان فنا سے نفرت کرتا ہے حتیٰ کہ فلتے عارضی یعنی موت سے بھی گھبراتا ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا ہے برحق ہے کہ اسے ہمیشگی اور قلود حاصل ہو، اسے ایسی زندگی نصیب ہو جس کا خاتمہ نہ ہو۔ مگر یہ بات اسے اس دنیا میں نہیں مل سکتی، اس کا ملنا محال ہے، موت یقینی ہے۔

۲۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے سلیم ہے کہ مکمل انصاف قائم ہو۔ اسے بھی اور ہر شخص کو اعمال کی ٹھیک ٹھیک اور مکمل جزا ملے۔ مجرموں کو مکمل سزا اور محسنوں کو مکمل جزا۔

مگر یہ بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اس دنیا کی بساط اس قدر تنگ ہے کہ نہ مکمل جزا دی جاسکتی ہے اور نہ مکمل سزا۔ فرض کیجئے ایک شخص نے سو آدمیوں کو قتل کر دیا، اسے زیادہ سے زیادہ سزا بس یہی دی جاسکتی ہے کہ اسے ایک مرتبہ قتل کر دیا جائے۔ یہ تو سزا کا محض سوواں حصہ ہے۔ انصاف کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اسے سو مرتبہ زندہ کیا جائے اور سو مرتبہ قتل کیا جائے، مگر اس دنیا میں یہ محال ہے۔

۳۔ انسان حُن پرست واقع ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد حسینوں کے چہرے

ہوں مگر یہ بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ

عمر دراز مانگ کے لاتے تھے چارن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں

انتظام کیا ہے کہ جو جانور جس ماحول میں رہتا ہے اُسے وہی رنگ دے دیا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے۔
تیر، طوطا، خرگوش اور بہرن اس کی واضح مثالیں ہیں۔“

کائنات میں باہمی احتیاج کا سلسلہ بھی عالمگیر ہے۔ پودوں کا انحصار زمین کے نمکیات اور
بکٹیریا پر ہے اور حیوانات کا پودوں پر۔ یہ انحصار محض اتفاق نہیں بلکہ ایک پلان کا نتیجہ ہے،
اور ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ باغ میں کوئی غنچہ کھل نہیں سکتا جب تک ستاروں کی شعاعوں سے
مستفیض نہ ہو۔

انسان نے مختلف کاموں کے لیے مختلف لیور بناتے۔ اس نے کنتیوں پر چوڑھری لگائی۔
زمین جوتے کے لیے بل بنایا۔ کوہ کنی کے لیے کدال ایجاد کیا، دقن علیٰ ہذا۔ اسی قسم کا انتظام انسانی
جسم میں بھی ہے۔ مثلاً ایک لیور سر اٹھانے اور جھبکانے کے لیے۔ دوسرا بدن کو سہارا دینے اور
تیسرا اشیاء کو اٹھانے کے لیے ہے۔ پھر جسم کے ہر جوڑ پر قبضے لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے کندھے،
گھٹنے، ٹخنے اور ہماری کلائی کہنی اور کمر کو مضبوط قبضوں نے جکڑ رکھا ہے۔ بدن میں عروق کا جان بچھا
ہوا ہے اور جا بجا والو لگے ہوتے ہیں۔ ہوا غذا کی نالیوں میں نہیں جاسکتی اور نہ غذا ہوا کی نالی
میں۔ اس طرح کے والوز شریاٹوں میں بھی ہیں جو روں کو تیل مینے کا انتظام بھی بہت مکمل ہے۔
آنکھ اور کان کی ساخت اتنی ماہرانہ اور حکیمانہ ہے کہ انسان غور سے دیکھے تو خالقِ اکبر کی ثنا پر مجبور
ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حیوانی جسم کی یہ پیچیدہ مشینیں مثلاً آنکھ، کان، زبان،
جگر، دل، پھیپھڑے وغیرہ کسی خالق کے بغیر ہی تیار ہو گتے تھے کیا ان کی تکمیل بے پناہ علم کے بغیر
ممکن تھی؟ کیا ان کے خالق کے سامنے کوئی پلان اور مقصد نہیں تھا؟

اگر یہیں کوئی کہے کہ آنکھ اور کان ایک خود کار مشین کی تخلیق ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس

خود کار مشین کا صانع کون تھا؟

ارتقا۔ آہستہ خرام تبدیلیوں کا نام ہے۔ تبدیلیوں کا یہ عمل لاکھوں سال جاری رہا اور ایک ہی
نوع مثلاً طوطے یا مرغابی کی درجنوں اقسام بن گئیں۔ ایک ہی پھول مثلاً گلاب درجنوں اشکال و آوازیں

۴۔ انسان خواہش پرست بھی ہے۔ اس کی بے حد تمنا میں ہیں جن کی وہ تکمیل چاہتا ہے۔ مگر اس دنیا میں پوری نہیں ہو پاتی اور نہ ہی ممکن ہے کہ پوری ہو پاتی۔

غرض یہ کہ یہ دنیا اور پھر زندگی کی یہ مختصر سی عہلت اس کے حوصلوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں اس کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور دنیا ہو اور ابدی دنیا ہو جس میں اس کی یہ ساری فطری آرزوئیں اور یہ سب جائز فطری تقاضے پورے ہوں۔ یہ سب کچھ آخرت کے تصور کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ آخرت جس کا تصور وجود باری تعالیٰ کا رہین منت ہے، وہ آخرت جس میں انسان کو ابدی زندگی میسر ہو، مکمل انصاف میسر ہو، اس کی جمالی حس اور حش پرستی کے جائز تقاضے پورے ہوں، اس کی خواہشات کی تکمیل ہو۔ جو نہی وہ کسی بات کی خواہش کرے، اسی لمحہ وہ خواہش پوری ہو جائے۔

یہ سب کچھ تصور آخرت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور تصور آخرت وجود باری تعالیٰ پر ایمان کی دوسری منزل ہے۔

غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے بغیر زندگی کا تصور لغو ہے۔ اگر زندگی محض یہی کچھ ہے جو اس دنیا میں نظر آتی ہے تو بلاشبہ وہ بے معنی اور بے مقصد ہے۔

اس کائنات میں انسانی زندگی کے لیے انتظامات تو اربوں کھربوں سالوں سے ہو رہے ہیں لیکن انسان کی کل زندگی صرف سو برس ہو، کیا یہ انہونی بات نہیں؟ حق بات یہ ہے کہ آخرت کے بغیر یہ جان مکمل نہیں۔

اس مختصر سی زندگی میں ہماری تمام اُمنگوں کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ خلود۔ موت سے گریز۔ غیر تمنا ہی خوشی۔ ہر تکلیف و دکھ دردے مکمل اور دائمی عافیت۔ حوصلوں کی تکمیل کا آخری حد تک موقع ملنا۔ یہ سب کچھ یہاں ممکن نہیں۔ اقبالؒ نے خوب کہا:

۵ کیا عشق ایک زندگی بے ستار کا
کیا عشق پائدار سے ناپائدار کا

۶ کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا
پھر ذوق و شوق دیکھ دل بقیار کا

انسان اپنی ساری تمناؤں کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، مگر اس محدود و مختصر دنیا

میں نمودار ہونے لگا اور مختلف خطہ ہلے زمین میں انسانوں کی صورتیں اور رنگتیں بدل گئیں۔

"One plan, many variations

One design, many modifications,

One truth, many versions."

دایک ہی پلان لیکن کئی شکلیں۔ ایک ہی منصوبہ لیکن کئی تبدیلیاں۔ ایک ہی صداقت لیکن کئی

تفسیریں۔

فطرت ان تبدیلیوں اور تعبیروں سے اکتاتی نہیں بلکہ وہ کہیں کچھ بڑھا کر اور کہیں گھٹا کر نئی صورتیں پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اور ہر صورت نہایت دلکش اور نظر نواز ہوتی ہے۔ درست کہا تھا یعنی سن (۱۸۰۹-۱۸۹۳ء) نے :-

"What a marvellous imagination God Almighty

has!"

خدا کے عظیم کے تخیل میں کس قدر قدرت و رعنائی ہے۔

آدمی پہلے ماں کے رحم میں ایک بیضہ دانڈہ تھا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ پرفٹ اونچا جوان بن گیا کیا یہ سب کچھ بے مقصد تھا؟ آن سٹائن اور غار میں رہنے والے وحشی آدمی کے درمیان سینکڑوں انتہائی منازل ہیں جن سے حیات کو گزرنا پڑا۔ ارتقا از سرتاپا ایک حکیمانہ پلان ہے اور اس کا واضح سراپا دانش ہے۔

کائنات میں ایک اور وحدت سترال، ہم آہنگی یا زیر و بم کی ہے۔ کروڑوں ستارے ایک مقررہ رفتار سے محو سفر ہیں۔ اور مقررہ اوقات پر مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ زمین پر معتینہ اوقات پر موسم آ جا رہے ہیں۔ انسان کا دل ایک منٹ میں بہتر (۷۲) مرتبہ دھڑک رہا ہے۔ اور پھیپھے ایک منٹ میں ۱۰ بار پھیل اور سکڑ رہے ہیں۔ یہ سترال میں یکسانیت آئین فطرت ہے۔ یہ تند رو ستارے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور دھڑکتے ہوئے دل میں بھی۔ درست کہا

میں ایسا نہیں کر سکتا، کائنات اس کے لیے ناسازگار معلوم ہوتی ہے، وہ ہر قدم بعد انسان کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مایوسی و ناکامی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفکروں نے دنیا کو دکھوں کا گھر قرار دیا ہے۔

کیا ہماری تمام خواہشیں، جذبات، خیالات اور ہماری فطرت کے زوردار تقاضے سب غیر حقیقی ہیں؟ وہ تمام فطری تقاضے، وہ تمام احساسات جن کو لے کر انسانی نسل پچھلے ہزاروں سالوں سے پیدا ہو رہی ہے اور جن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے دفن ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں حاصل نہ کر سکی، کیا ان احساسات کی کوئی منزل نہیں؟

ساری کائنات میں انسان ایک ایسا وجود ہے جو کل (Tomorrow) کا تصور رکھتا ہے انسان کل چاہتا ہے مگر اس کو صرف آج دیا گیا ہے اور وہ بھی ناسازگار!

غور کیجیے کہ ہماری فطرت اور عقل سلیم ہماری کس طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اس کا کیا تقاضا ہے؟ کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت نہ ہو، اس کا کوئی خواہش فطری پوری نہ ہو۔ نہ خلود، نہ ابدیت، نہ انصاف، نہ دیگر آرزوؤں کی تکمیل؟

کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس اپنی فطرت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا تقاضا اس قدر بھونڈا، ظالمانہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہو سکتا ہے۔

انسانی فطرت واضح طور پر یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے ابدی زندگی، انصاف، جس جلال اور دیگر آرزوؤں کی تکمیل کا صحیح سامان ہو اور یہ سب کچھ اخروی زندگی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک خدا ہو جو انسان کو ابدی زندگی اور تمام خواہشات کی تکمیل کا موقع آخرت کی صورت میں عطا فرماتے۔ پس ثابت ہوا کہ وجود باری تعالیٰ انسانی فطرت کا انتہائی زوردار تقاضا ہے۔ اس کے بغیر کسی انسانی مسئلہ کی گرہ کشائی نہیں ہوتی۔

یہی وجہ ہے کہ جب انسان پر آفت آتی ہے تو وہ اپنی مصنوعیت سے باہر آتا ہے، اس کا بناوٹی پن ختم ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت سلیم کی صیح آواز باہر آنے لگتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ

تھا برطانیہ کے ایک شاعر سیموئل رابنز نے :-

"The very law which moulds a tear

and bids it trickle from its source,

the law preserves the earth a sphere,

and guides the planets in their course".

جو قانون آنسو بناتا اور اسے آنکھ سے ٹپکاتا ہے وہی قانون زمین کو متوازن رکھتا اور
ستاروں کو ان کی گزرگاہوں پر چلاتا ہے۔
ان تفصیلات سے دو باتیں واضح ہیں :-

اول :- کہ کائنات میں ایک ایسی دانش مصروف عمل ہے جس کی تخلیقی قوتیں حیرت انگیز اور
جس کا علم بے پناہ ہے۔

دوم :- فطرت میں اس لحاظ سے بھی وحدت ہے کہ اس کی ہر تخلیق اتنا درجے کی پیچیدہ اور فہم
انسانی کے لیے ایک چیلنج ہے جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی مشینوں کی گڑ گڑاہٹ سے
گروہ نواح میں زلزلہ سا آجاتا ہے۔ دوسری طرف قدرت کی کروڑوں کروڑوں مشینیں یوں چل
رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ آم کا درخت ایک مکمل فیکٹری ہے جس میں
شاخیں پتے اور جڑیں ڈھل رہی ہیں۔ پورا مٹیوں میں تبدیل ہو رہا ہے اور ابلیاں آم بن رہی
ہیں۔ آم میں گٹھلی، صوف، مٹھاس، خوشبو اور لذیذ رس پایا جاتا ہے۔ اگر کوکا کولا کی بوتل
بھرنے کے لیے ایک لمبی چوڑی مشین درکار ہے تو آموں میں رس بھرنے کے لیے بھی کئی مشینیں
چل رہی ہوں گی۔ لیکن کمالِ صناعتی دیکھیے کہ یہ تمام مشینیں خموش ہیں۔ اگر ان سے آواز نکلتی تو یہ
زمین رہائش کے قابل نہ رہتی۔ اور تمام جانور اس سے اسی طرح جھاگ نکلتے جیسے ٹرین کے آنے
سے ارد گرد کے جانور دوڑ پڑتے ہیں۔ کوئی ہے جو ان مشینوں یعنی درختوں اور پودوں کو گن سکے۔
یہ خموشی بھی وحدتِ کائنات پر ایک شہادت ہے۔

کو ہی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا
رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً
مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ
مِّن قَبْلُ۔

”انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ

اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اُسے پکارتا

ہے۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت

سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول

جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا۔“

والزمر: ۸

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ
ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْكُفُّ فَلَمَّا
نَجَّيْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ كَفُورًا۔

”جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس

ایک کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، سب گم

ہو جاتے ہیں۔ مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر

پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے مُنہ موڑ جاتے ہو۔“

ذبی اسرائیل: ۶۷

انسان واقعی بڑا ناشکر ہے۔

مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا عکرمہ مکہ سے فرار ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھا تو طوفان نے اگھیرا۔ اچانک خدائے واحد کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت توحید و جود باری تعالیٰ اور توحید کا صحیح ادراک ہوا۔ آخر کار ایمان لے آیا۔

اس سلسلہ میں انتہائی دلچسپ واقعہ روسی زعمیم سٹالن سے متعلق ہے جس کا ذکر سٹرپر چرل نے دوسری جنگ عظیم کے حالات سے متعلق اپنی کتاب کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر ۳۳۳ میں لکھا ہے: ۱۹۴۲ء کے انتہائی نازک حالات میں جب روس حیات و موت کی کشمکش سے گزر رہا تھا اور ہٹلر سارے یورپ کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا، چرل نے ماسکو کا سفر کیا تھا۔ اس موقع پر چرل نے سٹالن کو اتحادی فوجی کارروائی کے متعلق اپنی اسکیم کی تفصیلات بتائیں۔ اسکیم کی تشریح کے ایک خاص حصہ پر جب کہ سٹالن کی دلچسپیاں اس سے بہت بڑھ چکی تھیں، اس کی زبان سے نکلا:-

فہم و دانش انسان ہی کا خاصہ نہیں۔ بلکہ یہ جو ہر حشرات، طیور اور حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔
 پرندے اس جہارت سے اشیاء بناتے اور پتھروں کی پرورش کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا
 ہے۔ نخل اس چایک دستی سے شہد بناتی ہے کہ انسان اس کے علم سے مرعوب ہو جاتا ہے چنچر چلو
 اور پھولوں کے رس سے شہد جیسی مفید، لذیذ، خوش ذائقہ اور خوش بو چیز تیار کرنا کوئی کھیل نہیں۔
 ہے دنیا میں کوئی کیمسٹ جو علم الکیمیا کے تمام فارموں استعمال کرنے کے بعد شہد کا ایک قطرہ
 بھی بنا سکے۔ بااں ہمہ انسانی عقل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان عقل کے زور سے ارض و سما پر دو پہ
 چھا رہا ہے۔ اور ساری کائنات اس کی غلامی کا دم بھرنے لگی ہے۔ یہ شہد یا آم یا سیب اس لیے
 نہیں بنا سکتا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کی ہر تخلیق سراپا اعجاز ہوتی ہے۔ دماغ کے لحاظ سے
 انسان ساری کائنات کا سردار ہے لیکن کائناتی دماغ کے سامنے اس کی حقیقت نہیں۔

تو ہم کہہ رہے تھے کہ کائنات میں وحدت ہے۔ اور دلائل یہ کہ :

۱۔ آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کو روش ایک سی ہے۔ سب کے سب اپنے مداروں
 پر مصروف گردش ہیں۔

۲۔ ساروں کائنات بجلی کے مثبت و منفی ذرات سے بنی ہے۔

۳۔ برف کہیں بھی برے اُس کے برسنے کا انداز ایک سا ہوتا ہے۔ اس کے نرم نرم گالے اس
 خموشی سے زمین پہ قدم رکھتے ہیں کہ ہلکی سی صدا بھی پیدا نہیں ہوتی۔

۴۔ آنکھ چوٹی کی ہو یا ہاتھی کی۔ اس کی تشکیل میں ایک ہی فارمولے سے کام لیا گیا ہے۔

۵۔ نباتات، حیوانات کے غلے، خواہر اور سالمات ساخت میں ایک جیسے ہیں۔ اور سب کے
 سب خدائی پلان کے مطابق۔

کیا اس بے کراں کائنات میں ایک بھی ایسا منظر ہے جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ یہ کائنات

ذرات کی اتفاقیہ آمیزش سے وجود میں آئی تھی؟ قطعاً کوئی نہیں۔ یہ ایک عظیم پلان کا نتیجہ ہے جو

ایک بلند ترین دانش نے سر جاتا تھا۔

۶۰
”خدا اس ایہ کو کامیاب کرے“

دبوالہ ڈاکٹر سعید عبدالغنیف: وی ماشڈ القرآن بلڈز، صفحہ ۹۴



"We are at a loss to know which
to admire the more,
the mathematical accuracy
Or the beauty of the design"

(مجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کی زیادہ تعریف کریں۔ پلان کی ریاضیاتی صحت یا اس کے حسن کی؟)

(۵: ص ۱۰۶-۱۱۲)

سمندر کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟

ہنری ای ایم سٹرانگ ڈاکٹر آف سائنس لکھتے ہیں :-

”زندگی جیسا کہ نظر آرہی ہے، پانی، روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کھیل ہے تمام حیوانات

و نباتات مشینیں ہیں جو سورج کی توانائی سے چل رہے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی چیز ختم ہو

جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ تحلیل ہو کر پھر ہوا، پانی اور مٹی میں مل جاتی ہے“ (۵: ۱۰۰)

سمندر کے پانی میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت یوں نظر آتی ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہے مٹی

نہیں ہے۔ اگر پانی مٹی سے ہوتا تو شاید متعفن ہو جاتا اور اس میں سے شدید بو آتی۔

برف سے متعلق قاعدہ استثنائیہ

ایک عام قاعدہ ہے کہ جب پانی عام درجہ حرارت سے ٹھنڈا کیا جاتے تو اس کا حجم گھٹتا ہے اور

یہ نیچے کی طرف جاتا ہے لیکن برف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب قاعدہ استثنائیہ رکھا ہے کہ

پانی جب اس قدر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ برف بن جاتے تو اس کا حجم اور بڑھ جاتا ہے اور وہ نیچے کو جانے

کی بجائے سطح سمندر کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پورے کا پورا سمندر برف بن جاتا اور اس میں

کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا۔

حُسن و جمال

اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو کائنات کی ہر ہر چیز میں حُسن و جمال نظر آتا ہے۔ سبزہ، دریا، پہاڑ، ادیان، بادل، برکھا، سورج، چاند، تارے تو بے جان چیزیں ہیں مگر ان کا حُسن آپ سے باہر کر دیتا ہے جانداروں کا حُسن اور سب سے بڑھ کر انسان کی صورت، حُسنِ عظیم کا شاہکار ہے۔

۵ دھنک، شفق، مہتاب، گھٹائیں، بجلی، تارے، نغمے، پھول

اس کے دامن میں کیا کچھ ہے، ہاتھ میں دامن آتے تو

کائنات بے حد حسین ہے اور ہم جب بھی حُسن کا کوئی تخلیقی فن پارہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس فن کار کو داد و تحسین دیتے ہیں۔ اس لیے کہ

۶ ہے رگ ساز میں روال صاحب ساز کا لہو — اقبال

یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات اپنے حُسن و رعنائی سمیت اپنے اصلی فن کار کی ایک نامکمل سی جھلک ہے، ایک ناممکن عکس! نہ جانے خود فن کار کس قدر حسین ہوگا۔ اگر اس کے فن بلکہ اس کے ناممکن عکس پر نظر ڈالتے ہی ایک عالم وجد کناں ہے تو وہ خود کیا نہ ہوگا؟

۷ اک عکس ناممکن پر عالم کو وجد ہے

کیا پوچھنا ہے آپ کے حُسن و جمال کا

مگر اہم بات یہ ہے کہ حُسن و رعنائی حادثہ یا اتفاق کے طور پر ظہور میں نہیں آتی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف رنگ گر کر صفحاتِ قرطاس پر بکھر جاتے ہیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گروہ ”مونالیزا“ کی تصویر بن گئے ہوں۔ حُسن و جمال کی شان میں سب سے بڑی گستاخی اور اس بارے میں سب سے بڑی

حیثیت

سر جے آر تھر تھا من ایم اسے، ایل ایل ڈی اپنے مضمون ”عجائبات حیات میں لکھتے ہیں۔
 انسان کی بنائی ہوئی کوئی مشین نہ تو از خود چلتی اور نہ اپنی مرمت کر سکتی ہے لیکن حیوانی
 مشین اپنی مرمت، دیکھ بھال اور سنبھال و خود بخود کرتی ہے۔ یہ ازل سے مادے کو توانائی میں اوڑھ
 توانائی کو مادے میں تبدیل کر رہی ہے۔ اور اس میں ہماری کوششیں شامل نہیں۔۔۔

دنیا کا بڑے سے بڑا فاضل یہ بتانے سے قاصر ہے کہ انڈے کی زردی اور سفیدی سے
 چوزا کیسے بن جاتا ہے۔ مکڑی کا بچہ بڑا ہو کر پہلی مرتبہ کسی استاد کی مدد کے بغیر جالا کیسے بن لیتا
 ہے اور شہد کی مکھی شہد کیسے بنا لیتی ہے۔ ماہرین یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ حیثیت
 Instinct ہے اور یہ نہیں بتاتے کہ حیثیت کیا چیز ہے اور اس میں اتنی دانش کہاں
 سے آگئی کہ اس نے نخل کو شہد بنانا، مکڑی کو جالا بنانا، دیمک کو سڑنگ تیار کرنا، عقاب کو
 جھپٹنا اور سانپ کو رنگینا سکھایا۔“

(۵۸ : ۵)

ارنلٹ ولیم میک براڈ ہاپتے مضمون ”کائنات کی وحدت دیکھتائی“ میں رقمطراز ہیں :-
 یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ بڑے سے بڑا جانور بھی شروع میں خلیہ یا مہین انڈہ ہوتا ہے اور
 ایسی ہی طرح نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دو میں تقسیم ہونے کے بعد ایسیا کے دونوں حصے آزادانہ زندگی
 بسر کرتے ہیں اور حیوانی خلیے کے حصے (بعد از تقسیم) ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں۔ نشوونما کے
 دوران ان خلیوں میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں۔ امدان کے مختلف گروہ مختلف فرائض سنبھال لیتے
 ہیں۔ کوئی ہاتھ بنانے لگتا ہے، کوئی پاؤں، کوئی دل، کوئی جگر اور کوئی مختلف رطوبتیں نہ جانے ان
 بے شعور انڈوں کو دل و دماغ جیسی پیچیدہ مشینیں بنانے کا فن کون سکھاتا ہے؟

جب ہم ان انڈوں کی مختلف تبدیلیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں ارتقاء کی پوری تاریخ
 جھلکتی نظر آتی ہے۔ یہ جانور ان تمام منازل سے گزرتے ہیں جو ان کی انواع نے ابتدا سے اب تک

بدذوقی ہی ہے کہ اسے محض اتفاق یا عادتہ کا کرشمہ قرار دے دیا جائے۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک آل پاکستان انٹر کالجیٹ مباحثہ میں اول انعام حاصل کرنے پر ایک صاحب نے مجھ سے یہ جملہ کہا: ”بھئی عجیب اتفاق ہے کہ تم نے اس قدر خوبصورت تقریر کر ڈالی“ مجھے یاد ہے کہ اس کے لفظ ”اتفاق“ کے استعمال کرنے پر مجھے بہت رنج ہوا۔ اس کو رُہ مغز شخص نے میری کئی روز کی محنت اور ایک اچھے بھلے تخلیقی فن پارے کو محض ”اتفاقاً“ قرار دے دیا۔

نظم، ترتیب اور اس سے بڑھ کر حُسن، جمال اور رعنائی بغیر خالق کے تصور میں نہیں آسکتی اور یہ وجود باری تعالیٰ کا ایک اُبھرا ہوا ثبوت ہے جس کا انکار ایک بدذوق اور چشم بصیرت سے محروم انسان ہی کر سکتا ہے۔

اب دیکھیے کہ وہ احسن الخالقین اس کائنات کے بارے میں خود کیا کہتا ہے:-

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ بِخَلْقِهِ - ”وہ جس نے جو چیز پیدا کی، خوبصورت

پیدا کی“ (السجدہ: ۷۰)

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ - ”اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو

انتہائی کمال سے پیدا کیا“ (النمل: ۸۸)

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْذُونٍ - ”ہم نے اس میں ہر چیز مناسب و

موزوں اُگائی“ (الحجر: ۱۱۹)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ - ”ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے

زینت بخشی“ (الملك: ۵)

لاسن کہتا ہے، ”اے آسمانو! مجھ کو خبر دو! اے دریاؤ! مجھ کو بتاؤ! اے زمین! مجھ کو جواں دے! اے بے شمار ستارو! تم بولو کون سا ہاتھ ہے جس نے تم کو آفاق میں تمام رکھا ہے، اور اے شب چاروہ! کس نے تیری تاریکی کو خوبصورت بنا دیا ہے، تو کس قدر پر شکوہ اور تو کتنی عظیم ہے!

طے کی تھیں۔ اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے آباؤ اجداد کرتے رہے۔ اس کی ایک مثال ایل مچلی ہے۔
 فرض کیجیے کہ یہ ایشیا، افریقہ یا یورپ کی کسی ندی میں پلتی ہے۔ پھر نہ جلنے اس کے دماغ میں کیا
 آتا ہے، وہ گھر سے نکل کر مختلف تدیوں اور ریادوں سے ہوتی ہوئی سمندر میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں
 سے جزائر برمودا کا رخ کرتی ہے۔ یہ جزائر ریاستہائے متحدہ کے ساحل سے چھ سو میل مشرق میں واقع
 ہیں۔ یہ سفر تین سال میں ختم ہوتا ہے۔ وہاں یہ سمندر کی گہرائی میں انڈے دے کر مر جاتی ہے جب
 ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اسی ندی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے
 ان کے والدین آتے تھے اور مرنے سے کچھ عرصہ پہلے یہ پھر جزائر برمودا کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ عجیب و
 غریب سلسلہ نامعلوم زمانوں سے جاری ہے اور شاید اب تک جاری رہے گا۔

اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لاکھوں سال پہلے امریکہ کا براعظم یورپ اور افریقہ سے متصل تھا
 اور دونوں کے درمیان پانی کی ایک خلیج حاصل تھی جس میں یورپ کے دریا گرتے تھے۔ اور یورپ کی
 ایل اس خلیج میں انڈے دیتی تھی۔ بعد میں جب دونوں براعظم ایک دوسرے سے دُور بٹ گئے۔
 اور وہ خلیج سمندر بن گئی تو ایل اپنی عادت کو نہ بدل سکی۔ اور اس کا سفر جاری رہا۔

بحرالکابل میں بعض دُور افتادہ جزائر اوشنیک جزائر کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں ایسے پرندے
 رہتے ہیں۔ جو اور کہیں نہیں ملتے۔ ڈارون (۱۸۰۹-۱۸۸۲ء) کے ایک رفیق کارالفریڈریس
 (۱۸۲۳-۱۹۱۳ء) کا خیال یہ ہے کہ ان پرندوں کو کوئی آندھی اٹا کر وہاں لے گئی تھی۔ لیکن اس
 نظریہ پر کوئی شہادت نہیں مل سکی۔ طویل مشاہدہ کے بعد معلوم ہوا کہ پلو در (ایک پرندہ) جو برٹش
 کولمبیا (جنوبی امریکہ) میں رہتا ہے۔ سردیوں کے آغاز میں ہر سال بحرالکابل کے جزائر ہوائی میں
 چلا جاتا ہے۔ اور سردیاں وہیں گزارتا ہے۔ تیس سو میل کی یہ مسافت وہ ایک ہی اڑان میں طے کرتا
 ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے بچے جب پہلی دفعہ اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو کسی رہنما کے
 بغیر وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ بچوں کا وقت سفر ٹیوں سے الگ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت
 پہلے ہوائی جزائر کولمبیا کے بہت قریب ہے۔ بعد میں جب براعظم ایک دوسرے سے

تو خود تبار ہی ہے کہ تیرا کوئی صنایع ہے جس نے تجھ کو بغیر کسی زحمت کے بنایا ہے۔ اس نے تیری چھت کو قبۃ ہاتے نور سے مُصنَع کیا ہے جس طرح کہ اس نے زمین پر خاک کا فرش بچھایا ہے اور گرد کو اُبھارا ہے، او مُردہ رسانِ نحر! او تیر شکر ف اور ہمیشہ روشنی دینے والا ستارہ! او آفتابِ درخشنا! سچ بتا تو کس کی طاعت کے لیے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہے اور نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی روشن شعاعیں عالم پر ڈالتا ہے۔

اُسے پر رُعبِ سمندر! اُسے وہ کہ غضبناک ہو کر زمین کو نیگل جانا چاہتے ہو کس نے تجھ کو مجبور کر رکھا ہے جس طرح شیر پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس قید خانہ سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری موجوں کا زور ایک حدِ معین سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔

نیوٹن کہتا ہے "کائنات کے اجزا میں باوجود ہزاروں انقلاباتِ زمانہ کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ خود کسی ایک ذات میں پایا جاسکے، سوائے اس ذات کے جو سب سے اقل ہے اور صاحبِ علم ہے اور صاحبِ اختیار ہے۔"

دور سر کے تو یہ جزا تہی پرے ہٹ گئے۔

سوال یہ ہے کہ بحر و بر کی ظلمتوں میں ایل اور پلوور کی رہنمائی کون کرتا ہے؟

دہم جانتے ہیں کہ حیات کا جو تصور ہم پیش کر رہے ہیں وہ ان علماء کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جو اجسام حیوانی کو فزکس اور کمیٹری کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ علم الجینین درجہ دار میں بچے کی تشکیل کا علم کے طلبہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نخر یا یہ اور غلیوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو بچے کی تشکیل میں حصہ لیتی ہے اور وہ مادی نہیں۔ کج کوئی شخص یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ انسان محض ایک مشین ہے جو فزکس اور کمیٹری کی مدد سے تیار ہوتی ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ہر زندہ شے میں ایک دماغ نہیں ہے جو خالق کائنات کا خاص عطیہ ہے۔ یہی دماغ حالات کا مقابلہ کرتا اور نشوونما پر نظر رکھتا۔ اور اسی سے حیات تکمیل کی راہوں پر بڑھتی ہے۔

"Can anyone seriously suggest that this directing and regulating power originated in chance encounters of atoms? Can the stream rise higher than its fountain."

روہیم میکبراٹنڈ

دیکھا کوئی شخص سنجیدگی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں نظم و ضبط قائم رکھنے والی اور راہ دکھانے والی قوت جو اہر کی اتفاقیہ آمیزش سے پیدا ہو گئی ہے۔ کیا کوئی ندی اپنے منبع سے بلند تر سطح پر بہ سکتی ہے؟

اس پر بہار فطرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونا لیکن ان میں خالق مناظر اور اس کی صفات کا عکس نہ دیکھنا دلیل کم نظری ہے۔

"He who planted ears shall He not hear".

جس ہستی نے ہمیں کان عطا کیے، کیا وہ خود وصف سماعت سے محروم ہے؟ (۷۵: ۵)

نظم و ترتیب

آیتے اب اس کائنات کا کچھ تفصیل سے مطالعہ کریں۔ اس کے نظم و ربط، ترتیب، توازن، صحت انتظام اور ہم آہنگی میں ہمیں خدا کا ہاتھ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ منطق کی باریکیوں میں اُلجھے بغیر، کائنات کی سیر کرتے ہوئے ہم بار بار اپنے دل و دماغ سے پوچھیں گے کہ آیا وہ خدا کے وجود کی طرف مائل ہوتے ہیں یا خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں؟

سب سے پہلے سائنس کی جدید ترین معلومات کی روشنی میں کُرۃ ارضی کی ماہیت پر کُرۃ ارضی غور کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ زمین ایک خاص نظم کی بجائے محض اتفاقات کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی تو اس کے نتائج کیا ہوتے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر زمین کا حجم موجودہ حجم کی بجائے کم و بیش ہوتا تو اس میں زندگی محال ہوتی۔ اگر اس کا قطر موجودہ قطر کی نسبت $\frac{1}{2}$ ہوتا تو اس کی کشش ثقل موجودہ کشش ثقل کا $\frac{1}{4}$ رہ جاتی۔ اس میں ہوا اور پانی کا وجود ممکن نہ رہتا۔ اس میں اگر درجہ حرارت چڑھتا تو انتہائی حد تک گر جاتا۔ اس کے برعکس اگر کُرۃ ارضی کا قطر اصل کی نسبت دو گنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل دو گنی ہو جاتی۔ ہوا کے غلاف کا حجم خطرناک حد تک گھٹ جاتا اور اس کے دباؤ میں فی مربع انچ ۱۵ تا ۳۰ پونڈ کا اضافہ ہو جاتا اور زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا۔

سورج کے گرد زمین کی گردش کی رفتار انتہائی درجہ مستقل ہے۔ خود اپنے محور کے گرد زمین کی گردش کی باقاعدگی اور پابندی وقت کی یہ کیفیت ہے کہ اگر صدی میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے تو علم بیست کے سارے حساب و شمار غلط ہو جائیں یہی حال زمین کے گرد چاند کی گردش

لیمارک اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء

اس نظریے کی تان یہاں آکر ٹوٹی ہے کہ مادہ فی الحقیقت اپنا خالق آپ ہے جس چیز کی مادہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی احتیاج اور ضرورت کے مطابق اپنے اندر سے آہستہ آہستہ خود بخود پیدا کر لیتا ہے اور جس چیز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، بالفاظ دیگر مادہ کی تخلیق، تنظیم و ترتیب اور اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے کسی خالق کے بیرونی ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی خالق کا وجود ہے۔

فرانس کے ایک سائنس دان لیمارک جین (Lamarck Jean) نے کہا تھا کہ "عادت یا معمول کے بدل جانے سے حیوانات مجبور ہو جاتے ہیں کہ بعض اعضاء کو زیادہ اور بعض کو کم استعمال کریں۔ زیادہ استعمال ہونے والوں کا حجم size بڑھ جاتا ہے اور کم استعمال ہونے والوں کا کم ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر عادت کے بدلنے سے ان کی ساخت بدل جاتی ہے۔ ارتقاء دراصل تبدیلی عادت کی تعریف ہے" (۵ : ۷۶)

لیمارک نظریہ ارتقاء کے بانیوں میں سے ہے اور ڈارون نے اس سے کافی استفادہ کیا۔ قصہ ان کے نظریے کے مطابق انسان یا حیوان کے جسم کی وہ چیز جو استعمال میں نہ آرہی ہو اسے رقمہ رفتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہو اسے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔

جنین کا جسمانی نظام

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوتی بلکہ اسے کہیں مستقبل بعید میں جا کر استعمال ہونا ہے آخر اس کے وجود میں آنے اور بڑھتے رہنے کی ڈارون کے نظریہ ارتقاء

کا ہے۔ اسی طرح چاند کا فاصلہ بھی اگر ہماری زمین سے موجودہ فاصلہ کی بجائے پچاس ہزار میل کے قریب ہوتا تو زمین پر قیامت پا ہو جاتی۔ دن میں دو بار ہمارے سمندروں سے پہاڑوں جیسی لہریں اٹھتیں اور کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔

کرۃ ارضی کے نظم و ضبط اور توازن کے بارے میں اسے کریسی ماریسن کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔
دستِ قدرت نمایاں نظر آتے گا۔

”زمین اپنے محور پر چوبیس گھنٹوں میں ایک گردش مکمل کر لیتی ہے اور چونکہ اس کا محیط بھی کوئی پچیس ہزار میل کے قریب ہے، اس لیے اس کی رفتار کم و بیش ایک ہزار میل فی گھنٹہ سمجھنی چاہیے۔ لیکن فرض کیجیے اس کی رفتار ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی اور کیوں نہ ہوتی؛ ایسی صورت میں ہمارے شب و روز موجودہ شب و روز سے دس دس گنا طویل ہوتے اور گرمیوں کے موسم میں ایک سو بیس سے لے کر دو سو گھنٹے تک مسلسل چمکنے والا سورج ہماری ہر قسم کی نباتات کو جلا کر رکھ دیتا اور حیوانات میں سے کوئی بے مددخت جان ہی زندہ رہ سکتا۔ اسی طرح سردیوں کی اتنی طویل راتیں ہر چیز کو منجمد کر دیتیں اور نباتات و حیوانات کی بہت کم قسمیں سلامت رہ سکتیں۔ پھر سورج کی اپنی گرمی اس کی سطح پر بارہ ہزار درجہ فارن ہائیٹیٹ کے قریب ہے اور ہماری زمین اس سے عین اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ ہم اس کی ”اکش جاودانی“ سے صرف ایک نہایت موزوں و مناسب مقدار کی حرارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ حرارت حیرت انگیز طور پر یکساں اور مستقل ہے اور گزشتہ کروڑوں سال میں اس کے استقلال ہی کے باعث اس کُرے میں زندگی کی وہ صورتیں جن سے ہم واقف ہیں باقی و برقرار رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور ہم تک پہنچنے والی حرارت شمسی میں پچاس پچاس درجوں کا فرق بھی پڑنے لگتا تو زمین کی بیشتر نباتات مرجاتیں اور ان کے ساتھ ہی انسان بھی یا تو منجمد ہو جاتا یا جھلس کر رہ جاتا۔ پھر غور کیجیے کہ کرۃ زمین سورج کے گرد اٹھارہ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اگر اس کی گردش کی رفتار اٹھارہ کی بجائے چھ میل یا پچاس میل فی سیکنڈ ہوتی تو اسی حساب سے اس کا محیط موجودہ محیط کی نسبت بہت چھوٹا، یا

میں کیا توجیہ ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے پیٹ میں بچہ بہت سے ایسے اعضا لیے ہوتے ہیں، جنہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی صورت میں اسے شدید نقصان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں ہر بچہ اپنے سینے میں پھیپھڑے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ان پھیپھڑوں کو ہرگز ہرگز استعمال نہیں کر سکتا بلکہ اگر جنین کے پاس ذرا سی بھی ہوا پہنچ جائے تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پھیپھڑے کس طرح وجود میں آگئے۔ اور کیوں وجود میں آئے۔ اگر لیبارک کا نظریہ ارتقاء درست ہے اور مادہ اپنی فوری ضرورت کے تحت اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو خود بخود پیدا کرتا ہے تو پھیپھڑوں کے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں پھیپھڑے نہ تو بچہ پیٹ کے اندر استعمال کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے بلکہ ان کی ضرورت تو اسے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے چند ماہ گزرنے کے بعد پیش آتے گی۔ اس کی توجیہ ان کے نظریہ ارتقاء میں ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے بلکہ اس کی توجیہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مذہب ہستی ہے جو کہ ایک طویل پروگرام ذہن میں رکھتی ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بچے کے جسم میں پھیپھڑے اور دوسرے اعضاء بنا رہی ہے جو کہ کئی ماہ بعد جا کر استعمال ہونا ہیں۔ یہ بات صرف پھیپھڑے کے لیے نہیں بلکہ پورے نظام تنفس کے لیے ہے۔ اس کی سانس کی نالی، اس کی ناک، اس کی بروہ چیز جس کا تعلق سانس لینے سے ہے وہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتی ہے حالانکہ اس کی وراں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

یہی حال ماں کے پیٹ میں جنین کی آنکھوں کا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں اشیاء کو دیکھتا نہیں ہے لیکن کئی ماہ بعد آنے والی ضرورت کی پیش بندی کے لیے اس کو آنکھیں ماں کے پیٹ میں ہی عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور ان کی نشوونما ماں کے پیٹ میں ہی مسلسل ہوتی چلی جاتی ہے۔

قرابت ہوا کہ کسی چیز کا استعمال ہونا یا اس کی فوری ضرورت کا درپیش ہونا اس کے وجود میں آنے کا سبب نہیں ہے بلکہ بہت سی ایسی چیزیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں جن کی ضرورت بہت عرصے

بہت بڑا ہوتا اور اسی حساب سے ہم سورج سے بہت زیادہ قریب یا بہت زیادہ دُور ہوتے اور ہمارے کُے کی زندگی اپنی موجودہ صورت میں ہرگز قائم نہ ہو سکتی۔

(۷ : ص ۲۰)

اس سلسلہ میں ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے :-

پودے | اس مضمون نگار کو یقین ہے کہ ایک خدا سے جلیل موجود ہے جو متواتر پودوں کی حیرت انگیز

زندگی، ان کے اسرار اور ناقابل تغیر قوانین کی صورت میں خود کو متواتر جلوہ گر کرتا رہتا ہے اور اس کے یہ جلوے جن صورتوں میں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں :-

(۱) تنظیم :- پودوں کی نشوونما اور پھران کے پھلنے پھولنے کا عمل جو ایک نخلیے کے بڑے ہو جانے اور تقسیم ہونے کا نام ہے، انتہائی مرتب، باقاعدہ، حیرت انگیز اور ناقابل تغیر طریق سے تکمیل کو پہنچتا ہے۔

(۲) چھپیدگی :- ایک سادہ سے پودے کی نشوونما اور اس کی قسم کے پودوں کی پیدائش جو چھپیدہ طریق کار ہے، انسانی دماغ آج تک ایسی چھپیدہ مشین نہیں بنا سکا ہے۔

(۳) حُسن :- پودوں، تنول، پتوں اور ٹھولوں کو جو ملکوتی حُسن ملا ہے، وہ نابغہ قسم کے انسان بھی اپنی مصنوعات کو نہیں دے سکے۔

(۴) تولید و توارث :- پودے اپنے ہم شکل اور ہم مثل نباتات پیدا کرتے ہیں اور یہ تولید و توارث بے سنگم طریق پر نہیں ہوتی بلکہ گندم از گندم بروید جو ز جو۔ بہر حال ہر دور اور ہر زمانے میں زیتون کے درخت سے زیتون کا درخت اُگے گا۔

(۲ : ص ۱۲۵)

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے ؛ انہی اجزا کا پریشاں ہونا

زندگی

چھوٹے سے چھوٹے جاندار کے جسم کی ساخت پر غور کیجیے خواہ وہ مکھی کا سر ہو یا مچھر کی ٹانگوں

کے بعد پڑتی ہے یہی حال ماں کے پیٹ میں بچے کے نظامِ مضم کا ہے۔ بچہ سیدھے ماں کے پیٹ سے ماں کی مضم شدہ غذا اپنی ناف کے ذریعے جذب کر لیتا ہے۔ اسے کسی چیز کو مضم کرنے کی ماں کے پیٹ میں ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن غور سے دیکھ لیجیے اس کا نظامِ مضم، اس کا معدہ، بڑی آنت، چھوٹی آنت، غذا کی نالی حتیٰ کہ تمام کی تمام چیزیں از خود نشوونما پا رہی ہیں حالانکہ وہاں نہ تو ان کے استعمال کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ارتقائی تقاضا درپیش ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسی ضرورت درپیش ہو کہ یہ اشیاء خود بخود ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے پیدا ہوں اور پھر نشوونما پاتی چلی جائیں۔ یہی حال جنین کے نظامِ عصبی اور بہت سے دوسرے اعصاب کا ہے کہ وہ صرف آئندہ مستقبل بعید کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی جاتی اور نشوونما دی جاتی ہے ان کی نشوونما میں فوری ارتقائی قوت درپیش نہیں ہوتی۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جانے کے بعد انسان کے جسم میں بہت سے اعضاء ایسے نظر آتے ہیں جو اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہے بلکہ جسم کے بعض دیگر اعضاء کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور ان کے خادم کے فرائض سرانجام دیتے ہیں مثلاً ناک کو ہی لیجیے۔ (۵ : ۷۷، ۷۹، ۸۰)

ناک کا عمل

ذرا اپنے ناک کے عمل پر غور فرمائیے۔ یہاں پر ڈارون کا نظریہ ارتقاء ناک کام ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ ناک جو کچھ بھی کرتی ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ پھیپھڑوں کے لیے کرتی ہے۔ ناک کے اندر ایک طویل، پیچیدہ، منحنی اور نرم ہڈی ہے جو نتھنوں کو جدا کرتی ہے اور ہوا ان دو نتھنوں میں سے ہوتی ہوئی اور پھر سانس کی نالی میں سے گزرتی ہوئی پھیپھڑوں کی طرف جاتی ہے۔ ناک میں کئی خم کھاتی ہوئی یہ نرم ہڈی ہوا کو صاف کرنے کا کام دیتی ہے۔ اس ہڈی پر رطوبت لگی ہوتی ہے تاکہ گرد و غبار اور جراثیم اس رطوبت سے چپک جائیں اور سانس کی نالی یا پھیپھڑے تک پہنچنے سے پہلے پہلے صاف ہو جائیں اور پھر یہ ہڈی اس قدر طویل ہے کہ ہوا اس کے دیواروں میں سے گزرتے

کے جوڑ، زندگی اپنے ظہورِ ترتیب کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ ادھر بڑے بڑے ڈیل ڈول کے جانوروں کی جسمانی ساخت ملاحظہ ہو۔ ہاتھی کے گٹھے ہوتے عضلات آپس میں اس طرح سے مربوط ہیں کہ اعلیٰ درجے کی مشین کے بیزنگ اور جوڑ ان جسمانی جوڑوں اور رابطوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر جانداروں کے جسم کی اندرونی ساخت ملاحظہ ہو۔ اعضائے رتیبہ بغیر جانوروں کی مرضی کے اور بغیر اس کے کنٹرول کے آپس میں پورے توازن و تعامل (Co-Ordination) کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دماغ، دل، پھیپھڑے، جگر، گردے آخر کس کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں؟ پھر یہ خود کار دل جو پیدائش سے موت تک بغیر ستائے حرکت کیے چلا جا رہا ہے اور سارے جسم میں خون کی روانی کو برقرار رکھتا ہے۔ پھر ہر جاندار کے پورے جسم میں ایک عصبی نظام پھیلا ہوا ہے جس کے سامنے دورِ حاضر کے بہترین برقی سلسلے بھی بیچ ہیں۔ مخلوقات کی کم عمری اور کمزوری کے زمانے میں جس مہر و محبت کے ساتھ حفاظت کی جاتی ہے وہ بھی ایک انتہائی رحیم و شفیق خالق و پروردگار کے بغیر ممکن نہیں، انڈے کے جوف اور ماں کے رحم میں پلنے والے بچے کے لیے اتنی غذا فراہم کر دی جاتی ہے جو اس کی پیدائش تک اسے کافی ہو۔ کسی ماں سے پوچھیے کہ آیا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی غذا اور زندگی کی نشوونما کا انتظام اُس نے خود ہی اپنے ارادے سے کیا ہوا ہے یا کسی اور کا ارادہ کار فرما ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ بھی بے بس اور بچے کو اٹھاتے پھرنے والی ماں بھی بے بس لیکن خوبصورت اور تنومند بچہ کس طرح سے پیٹ میں پلتا رہا۔ یہی حال اس بیج کا ہے جسے ہم زمین پر بکھیر کر آجاتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں لگاتے رکھتے ہیں۔ کون ہے جو اس بیج کے لیے بادل و برکھا، شمسی توانائی، زمین کی زرعی قوت اور ہوا و موسم کی سازگاری کے اسباب فراہم کرتا ہے؟

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
 کون لایا کھینچ کر پچھتم سے بادِ سازگار؟

ہونے پھینٹنے کے درجہ حرارت کو اختیار کر لیتی ہے۔ اگر گرمیاں ہوں تو ناک کی یہی ہڈی گرم ہوا کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور اگر سردیاں ہوں تو ٹھنڈی ہوا کو گرم کر کے بھجتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں ناک سُرخ نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں ناک کو ہوا گرم کرنے کے لیے زیادہ خون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ سُرخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سانس لیتے ہوئے ہوا اگر خشک ہو تو ناک کی یہ ہڈی سانس لیتے ہوئے اس میں رطوبت شامل کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہوا بہت مرطوب ہو تو ناک کی یہی ہڈی رطوبت میں کمی واقع کر دیتی ہے تاکہ پھیپھڑے بالکل صحیح ہوا اخذ کر سکیں۔ یہاں پر ہم نظریہ ارتقاہ ماننے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر جسم کا ہر عضو اپنی اپنی مصلحت کے مطابق کام کرتا ہے تو ناک تو اپنی مصلحت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی، یہ تو صرف پھیپھڑے کے دربان اور سانس پورے کا کام کر رہی ہے۔ یہ تو صرف پھیپھڑے کی خدمت کر رہی ہے، اپنی خدمت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہی بلکہ صرف قربانی دیتی ہے۔ باہر کی ہوا کی گندگی، جراثیم اور سردی کو برداشت کرتی ہے اور اکثر نزلہ اور زکام کا مظہر بن رہتی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عظیم ہستی خالق ہے جو پھیپھڑوں کے لیے ناک سے یہ کام لے رہی ہے اور جسم کے مختلف اعضاء میں باہمی تعاون کی صورت پیدا کر رہی ہے۔

اس موقع پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ناک، پھیپھڑے، ہوا کی نالی، معدہ اور آنتیں وغیرہ ماں کے پیٹ میں کسی فوری ارتقائی ضرورت کے تحت وجود میں نہیں آتے بلکہ ماں باپ کی طرف سے ورثہ میں ملے ہیں۔

بہت اچھا! مگر ہمارا اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ اعضاء پہلی مرتبہ وجود میں نہیں آتے ہونگے تو اس وقت کیا صورت پیش آتی ہوگی۔ کیا یہ اعضاء پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ میں وجود میں نہیں آتے؛ اگر پہلی مرتبہ بھی ماں کے پیٹ میں وجود میں آتے تو سوال جوں کا توں باقی رہا۔ ماں کے پیٹ میں تو ناک، آنکھ، اعضاء تنفس و اعضاء ہضم کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ ارتقائی نہ غیر ارتقائی۔

خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟
 کس نے بھروی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟
 موسموں کو کس نے سکھلاتی ہے خوشے انقلاب؟

زندگی خواہ وہ جانداروں میں ہو یا پودوں میں، وہ ابھی تک ایک معما ہے۔ انسان اب ذرہ آخر ترین یعنی جوہر کے طول و عرض سے آگاہ ہو کر اس کی پنہاں قوتوں کا احاطہ کر رہا ہے لیکن زندگی ابھی تک ایک سایہ گریزاں ہے، ایک ناقابل فہم چیتاں ہے۔ ابھی تک سائنس یہ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ مرحلہ جب ایک مادہ میں زندگی ظہور پذیر ہوتی ہے کس طرح وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس مسئلہ کی تک پہنچنے سے پہلے سائنس کو خدا کے وجود کا عرفان نصیب ہو جاتے گا۔

انسانی دماغ کی ساخت پر غور کیجیے۔ اسے کریسی ماریسن کے الفاظ میں "یہ ایک پورا سا زمین ہے جس کے لیے بے شمار باجے اپنی اپنی سرس پیش کرتے اور باہم مل کر ایک ہم آہنگ نغمہ جو انسانی ذہانت کے نام سے معروف ہے، معرض تخلیق میں لے آتے ہیں اور پھر یہی نغمہ کارخانہ ہستی میں ایک آہنگ نو پیدا کرتا ہے اور اپنے سحر سے اسے حیرت انگیز طور پر منظم کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق تک فطرت نے اس زمین کی قدیم چٹانوں سے کوئی ایسا جاندار پیدا نہیں کیا تھا جسے انسان کا سا لچکدار دماغ حاصل تھا۔ چنانچہ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ انسان کو اپنی خلقت میں ذہانتِ اعلیٰ کے فانوس لاہوتی کا ایک شعلہ مرحمت ہوا کہ عالمین پر حاوی ہے اور یہ اسی شعلہ ازل کی آدم افروزی ہے کہ انسان اس زمین پر اپنی اہلیتوں میں بے مثال، اپنی سطوت میں بے عدیل اور اپنی منزل مقصود اور مقدر کے اعتبار سے لافانی ثابت ہوا۔"

کیمیا اور طبیعیات کے ہر نظریے اور قاعدے کی رُو سے ارتقاء کے عمل کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے کامل مطابقت حاصل کرے لیکن اس سے آگے اس کا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ اگر انسان کی تخلیق محض ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی ہی مرہونِ منت ہے تو ڈارون کا نظریہ یہاں تک تو

اور اگر یہ اعضاء ماں کے پیٹ سے باہر رفتہ رفتہ وجود میں آتے ہیں تو پھر ہمارا سوال اور یہی زیادہ مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ تک انسان اعضاء تنفس اور اعضاء مضمک کے بغیر زندگی گزارتا رہا ہے؟ کیا سانس لیے بغیر اور کچھ کھاتے پیے اور مضمک کیے بغیر وہ چند لمحے بھی گزار سکتا ہے؟ اس کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک ہی مرتبہ کامل طور پر پیدا فرمایا!

حقیقت ارتقا۔

ایم۔ ایم۔ ٹسکاف (ڈاکٹر آف سائنس) اپنے مضمون "کائنات کا حکیمانہ پلان اور حیوانات" میں لکھتے ہیں:

"کیا کائنات کا وجود کسی حکیمانہ پلان (منصوبے) کا نتیجہ ہے، یا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس حقیقت پر کافی شہادت موجود ہے کہ یہ کائنات ایک منصوبے اور نقشے کے مطابق وجود میں آئی تھی؟ اگر ہم حیات پر ایک متجسسانہ نظر ڈالیں تو جو چیزیں سب سے زیادہ متاثر کرے گی وہ ہے حیات کا ماحول سے نباہ۔ مثلاً مچھلی کو دیکھیے، اسے پانی میں رہنے اور تیرنے کے لیے تمام وہ ساز و سامان عطا ہوا جس کی اسے ضرورت تھی۔ مثلاً لمبوتر جسم جو پانی کو باسانی چیر سکے۔ آگے کو دھکیلنے والی دم جہاں بائیں دو چوڑے۔ توازن قائم رکھنے کے لیے ایک بیڈر۔ سانس لینے کے لیے گلپھڑے اور ایسی ہی کئی دیگر اشیاء۔

پرنڈول پر نظر ڈالیے، انہیں بھی وہ تمام چیزیں ملیں جو انہیں درکار تھیں۔ مثلاً ہوا کی ایک تھیلی۔ گرم گیس سے پکھو کھلی ہڈیاں اور باہم مربوط پنکھ۔ یہ بے شمار شرات گھونگے اور کیڑے اپنے ماحول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ماحول سے نباہ ہر ذی حیات کا خاصہ بن چکا ہے۔

جب کوئی جانور ایک طرز حیات کو چھوڑ کر دوسرا طرز حیات اختیار کرتا ہے تو وہ ماحول سے

وضاحت کرتا ہے کہ انسان کا ذہن آہستہ آہستہ ماحول سے مطابقت اختیار کرتا چلا گیا لیکن یہ نظریہ ارتقاء اس بات کی کیونکر توجیہ کر سکتا ہے کہ انسان کا ذہن مطابقت کی منزل سے بہت آگے گزر کر اس کائنات کی تسخیر پر اتر آیا اور وہ ماحول جس کی مطابقت اور پیروی اسے کرنا تھی، اسی ماحول کو اپنے گرد اپنی مرضی سے استعمال کرنے لگا۔ نظریہ ارتقاء اس بات کی کیونکر توجیہ کر سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی ذہنی افتاد اور روحانی صلاحیتوں کی بدولت ایام کا مرکب نہیں بلکہ راکب بن جاتے۔

تخلیق کے معاملے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو رد کرنے کے لیے آنکھ کا وجود بذاتِ خود ایک **آنکھ** بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر کوئی صاحبِ نظر آنکھیں کھول کر اس آنکھ کا مشاہدہ کرے تو ایک خالق کا وجود مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اسے کریسی مارین بکھتا ہے :-

”فطرت نے ہمارے احساسِ ہشت پہلو کو بلند تر کر کے اس کا رخ گرمی سے روشنی کی طرف

کیا اور ہماری آنکھ کو رنگ کا شعور عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم دنیا اور اس کی اشیاء کو ان کے اصل

رنگوں اور اصل مقامات کے مطابق دیکھنے کے قابل ہو گئے اور یہی ایک معیاری اور کامل

بصری کیفیت ہے۔ پھر ہماری آنکھ کا خود کار عدسہ اپنی دبازت اور کثافت میں مسلسل تبدیلی کرتا

رہتا ہے تاکہ اس تک پہنچنے والی تمام شعاعیں خود بخود اس کے میں مرکوز ہوتی رہیں اور ہر آنے والی چیز

اپنے صحیح فوکس میں نظر آتے۔ انسان اس قسم کے عدسے (Lens) آج تک ایجاد نہیں کر سکا ظاہر

ہے کہ یہ تمام حیرت ناک مطابقتیں جو چشمِ حیوانی کو اعلیٰ درجے کی بصارت عطا کرتی ہیں اور عینی

عدسوں اور لاکھوں کروڑوں مخروطوں، ہڈیوں اور نرسوں کو ایک کامل ترتیب میں منظم کرتی ہیں

بیک وقت ہی وجود پذیر ہوتی ہوں گی، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی بھی بصارت کو مائل

کر سکتی ہے اور اس صورت میں کسی حیوان کا کوئی چیز دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے پس سوچنے کی بات

یہ ہے کہ آیا ان سب عناصر کا ایک ہی وقت میں یک جا ہو جانا کسی اتفاق پر مبنی تھا یا ان میں سے

ہر عنصر تمام دوسرے عناصر کی ضروریات اور لوازم سے پیشتر ہی آگاہ ہو کر اپنے آپ کو ان کے

مطابق کر لینے پر قادر ہو چکا تھا؟

نباح کا انداز بھی بدل لیتا ہے۔ بینڈک کا بچہ جب تک پانی میں رہتا ہے۔ مچھلی کی طرح گلپھڑوں سے سانس لیتا ہے اور جب خشکی پہ آتا ہے تو اس کا وہ لیڈر جس سے وہ تیرنے میں مدد لیتا تھا پھیپھڑہ بن جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی والے جانور جو خشکی پر رہتے ہیں انہیں اپنی زندگی کا کوئی سا زور سامان نہیں ملتا۔ اور یہاں کے پیٹ ہی سے پھیپھڑوں کا مکمل نظام ساتھ لاتے ہیں۔

اس نباح کی ایک اور مثال دل کی ہیئت میں تبدیلی ہے۔ مچھلی کی ایک نوع ایمفیاکس Amphioxus کہلاتی ہے۔ اس کا دل ایک ٹیوب کی طرح ہے جو بار بار کڑتی اور پھلتی ہے اور یوں خون کو آگے دھکیلتی ہے۔ مچھلی کی دیگر انواع میں یہی ٹیوب سخت ہو کر خانوں میں بٹ جاتی ہے۔ ان خانوں کو ایک دوسرے سے ایک ایک طرف والو جدا کرتا ہے۔ ان مچھلیوں میں گردش خون کا راستہ مقرر ہے، کہ یہ پہلے گلپھڑوں میں پہنچتا ہے اور وہاں سے آکسیجن لے کر جسم میں پھیل جاتا ہے۔ ہوا میں سانس لینے والے جانوروں کا نظام دل مختلف ہے۔ پھیپھڑوں سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کے دل میں دو نالیاں ہوتی ہیں۔ ایک دل کے دائیں طرف اور دوسری بائیں جانب۔ دائیں نالی خون کو پھیپھڑوں کی طرف دھکیلتی ہے۔ وہاں سے یہ دل کی بائیں نالی میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جسم میں پھیل جاتا ہے۔

دیکھا آپ نے کہ ماحول کے دباؤ سے دل نے کتنی شکلیں بدلیں۔ کسی وقت وہ ایک ٹیوب تھا۔ پھر وہ پورا غیر منقسم دل بنا اور اعلیٰ حیوانات میں اس کے دو حصے ہو گئے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اکٹھا ایک نہایت پیچیدہ، نازک اور ناقابل فہم تخلیق ہے۔ انسانی ذہن سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ زندگی کے کن مراحل سے کب اور کیسے گزریں؟ تخلیق و متاعی کے ان معجزات کو دیکھ کر انسان حیرت میں کھو جاتا ہے اور اس نتیجہ تک پہنچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات پلان اور مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں اتنے ہی پلان (دیکھ) ہیں جتنی اشیاء، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے پر ایک الگ آرٹسٹ مقرر ہے جو اس کی تشکیل و تزئین میں مصروف ہے، اور ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے ماحول میں

کان سے متعلق اس کا مشاہدہ ملاحظہ ہو:

کان

انسانی کان کا ایک حصہ قریب قریب چار ہزار ایسی باریک ترین لیکن پھپھیدہ محرابوں پر

مشتمل ہے جو قامت اور صورت کے لحاظ سے ایک کامل تدریجی سلسلہ بناتی ہیں۔ انہیں ہم ایک

اعلیٰ درجہ کے آلہ موسیقی کی محرابوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں اور یہ ایک دوسری سے اس انداز میں

مطابقت رکھتی ہیں کہ ان کی اہلیت آواز کے ہر اس مدوجزر کو جو بادلوں کی کرک سے لے کر ہولے

ہلنے والے درختوں کی سائیں سائیں یا کسی سازینے کے ہر زکن کی علیحدہ علیحدہ سڑوں سے پیدا ہوتا ہے

پوری صحت کے ساتھ وصول کرے اور فوراً دماغ تک پہنچا دے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر

انسانی کان کی تخلیق و ترتیب سے متعلق غلیات محض اس تحریک پر کام کر رہے تھے کہ وہ اپنی اعلیٰ

کارگزاری میں محض اس کی بقا کو پیش نظر رکھیں تو انہوں نے اپنے کام کو زیادہ وسعت کیوں نہ دی

اور اس کے لیے غیر معمولی قوتِ سامعہ کے حصول کا انصرام کیوں نہ کیا؟ کیا اس لیے کہ ان غلیات

کی نیشہ پر جو طاقت کار فرما تھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مستقبل کے انسان کو ذہنی لطف اندوزی

کی ضروریات بھی پیش آئیں گی۔ یا پھر محض ایک اتفاق تھا کہ انہوں نے جو تعمیر کی اس کی خوبیاں

ان کے تصور سے بالاتر تھیں۔“

فٹ ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے اور اگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا تو مٹ جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ قدیم بحری یا تبری جانور ہیں جن کے جسم بڑھتے بڑھتے کئی سو کیوبک فٹ تک پھیل گئے تھے لیکن آلات باضمہ ان کا ساتھ نہ دے سکے اور وہ ہلاک ہو گئے۔

حیوانات میں کتنی ہی ذہانت کیوں نہ ہو، انہیں تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ ان میں صلاحیت حیات ماحول میں فٹ ہونے سے پیدا ہوئی ہے۔ نباہ کا یہ عمل از خود نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی دانش پس حجاب مصروفِ کار ہے۔

انسان کائنات کا ایک جزو ہے۔ یہ صاحبِ خرد ہے، اس کے اقدامات با مقصد ہوتے ہیں۔ یہ عزت، وفا اور دیگر اوصافِ حسن و جمال سے متصف ہے اور یہ خیر و شر کی تمیز بھی کر سکتا ہے۔ کیا خود کائنات ان اوصاف سے خالی ہے؟ کیا یہ جزو کل سے زیادہ دانش مند ہے؟

انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور رُوح کا۔ رُوح جسم کی محرک، آمر اور کنٹرولر ہے۔ یہ حکم دیتی ہے اور جسم تعمیل کرتا ہے۔ خدا کائنات کی رُوح ہے اور اس لیے کائنات کا آمر و ناظم بھی۔

فطرت ظہور کے لیے بے تاب ہے، اس کا حُسن نہ صرف کوہساروں، تزاروں اور پہاڑوں میں نظر آتا ہے بلکہ انسان میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسان ہر وقت خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور ظہورِ فطرت کا بہترین انداز یہی ہے۔

برہان تکوینی

کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے فلسفیوں نے خود کائنات کی تخلیق کو خدا کے وجود کا ثبوت تسلیم کیا ہے۔ یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آگئی اس کی کوئی ابتدا بھی ہے یا نہیں اور ابتدا بھی ہے یا نہیں اور ابتدا ہوتی تو کس طرح سے کیا چیزیں خود بخود پیدا ہو جایا کرتی ہیں یا ہر چیز کے پیدا ہونے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پیدا ہوتے وقت اپنے آپ سے باہر کی چیزوں کا سہارا لیتی ہے۔ گندم کا ایک خوشہ پیدا ہونے سے پہلے زمین کی طاقت، ہوا، پانی اور دیگر بہت سی قوتوں کا سہارا لیتا ہے۔ ان سہاروں کو پیدا ہونے کے لیے اور سہاروں کی ضرورت ہے اور ان سہاروں کو پیدا ہونے کے لیے اور سہاروں کی ضرورت۔ الف کو ب نے پیدا کیا۔ ب کو ج نے، ج کو د نے، اور جوں جوں حقیقت آگے بڑھتی چلی جاتے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ انل سے چیزیں پیدا ہوتی چلی آتی ہیں اور کوئی آخری سہارا نہیں ہے اس لیے کہ ایک خالق کا دوسرا خالق اور اس کا تیسرا خالق اور پھر اس کو اگر یوں ہی بڑھاتے چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ ہر خالق کا کوئی نہ کوئی خالق چلا آ رہا ہے۔ نتیجہ کے طور پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو پہلی مرتبہ کسی ایسی ہستی نے پیدا کیا ہو جو بغیر کسی مدد کے خود بخود پیدا ہوتی ہو۔ اسے تسلیم کرتے ہی ہمیں فوراً تسلیم کرنا پڑے گا کہ تخلیق کا عمل خود بخود چلا آ رہا ہے اور کوئی خالق نمبراً موجود نہیں ہے۔

فلسفہ مادیت

اس میں شک نہیں کہ دورِ جدید کے انسان نے اپنی چند روزہ دنیوی زندگی کو سوارنے کے لیے اس قدر محنت کی کہ بہترین سے بہترین آسائشیں جہیا کر لیں۔ وہ فضا میں عقاب اور باز سے زیادہ تیز رفتاری سے اڑ رہا ہے۔ سمندر میں مچھلیوں اور دریاؤں میں مگر مچھ کی طرح سے تیرتا پھر رہا ہے مگر افسوس کہ اسے زمین پر انسان کی طرح سے چلنا پھرنا نہیں آ رہا وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے۔ اس کی زندگی معنویت سے محروم اور اس کی شخصیت بے رُوح ہو کر رہ گئی ہے۔

وہ مذہب اور اخلاق کی قیود سے آزاد ہو کر کچھ عرصے کے لیے تو بھولانا نہ سما یا لیکن اُسے پتہ چل گیا کہ اس کا انجام سوائے پریشانی اور غم کے اور کچھ نہیں۔ اس وقت فلسفہ مادیت کے زیر اثر زندگی گزارنے والا ہر انسان اس قدر پریشان ہے کہ وہ ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے مجبور ہے۔ وہ اپنے طریقہ زندگی سے تنگ آچکا ہے۔ اس کو اپنی ذات سے اور اپنے ماحول سے نفرت ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی تصنیف 'میری آخری کتاب' صفحہ ۶۹ میں بی بی سی کے نشریہ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۷۳ء (صفحہ ۶ بیج کر۔ امنٹ) کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔

”دنیا اس صورت حال سے اتنی تنگ ہے کہ ۲۶ مارچ ۱۹۷۳ء کو برطانیہ کے ایک شہر ٹونگم میں ۵۰ ہزار آدمیوں نے نا جانز بچوں اور اسقاطِ حمل کے خلاف زبردست مظاہر کیا۔ بی بی سی کے ایک مبصر نے بتایا کہ ۱۹۷۲ء میں صرف ٹونگم میں ایک لاکھ ۵۹ ہزار ۲۵ بچے

لیکن جب پہلے خالق کے وجود کا ہی انکار کر دیں تو تخلیق کے عمل کا انکار کرنا پڑے گا تو تمام مخلوقات کے وجود کی نفی کرنا پڑے گی حالانکہ مخلوقات ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھ رہی ہیں ان کے وجود کی نفی اپنے آپ کو دھوکا دینے کی بات ہے۔ اس دلیل کو اس انداز میں دہرایا جا سکتا ہے۔

فصل ۱

علتِ اولیٰ دنیا میں سب سے زیادہ واضح اور بدیہی امر یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے حرکت، تغیر، تخلیق، ارتقاء، علت و معلول، ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے فلسفہ میں ایک لفظ ”حرکت“ مستعمل ہے۔ اب ذیل کے کچھ قضیوں پر غور فرمائیے:-

قضیہ نمبر ۱۔ دنیا میں حرکت کا وجود ہے۔ (حرکت موجود ہے)

قضیہ نمبر ۲۔ ہر حرکت کے لیے محرک (حرکت دینے والا) ضروری ہے۔

دہر معلول کے لیے علت یا ہر مخلوق کے لیے خالق ضروری ہے)

قضیہ نمبر ۳۔ ہر محرک کے لیے ایک اور محرک کا ہونا ضروری ہے۔

دہر علت کے لیے پھر ایک اور علت کی ضرورت ہے)

قضیہ نمبر ۴۔ یہ سلسلہ غیر تنہا ہی ہے یعنی اس محرک کے لیے اور محرک اور اس محرک کے لیے

ایک اور محرک اور پھر اور، پھر اور، یعنی سلسلہ کی کوئی انتہا و انجام نہیں و علت

اور معلول کے اس سلسلہ کی کوئی آخری کڑی نہیں)

قضیہ نمبر ۵۔ (اس لیے) محرکِ اول کا وجود ہی نہیں۔

قضیہ نمبر ۶۔ (اس لیے) حرکت کا وجود نہیں ہے (اس لیے کہ جب محرکِ اول ہی موجود نہیں

تو حرکت کہاں سے آگئی)

غور کیجیے کہ ان قضیوں میں قضیہ ۱ سے قضیہ ۳ تک تمام قضیے بدیہیات ہیں۔ قضیہ ۴ پر

پہنچ کر دو باتیں فرض کی جاسکتی ہیں:-

پیدا ہوتے تھے، یعنی اندازاً ۴۵۰ پتے روزانہ۔

مغرب میں یہی ذلیل ترین گروہ ہے، غلیظ، بدکردار، تمام اخلاقی ضوابط کا منکر اور لوگوں کے سامنے کھٹے بندوں خواہش کا ارتکاب کرنے والا۔ یہ گروہ ۱۹۳۰ء کے بعد ظاہر ہوا۔ آنا دانا جنسی فعل میں اتنی کشش تھی کہ تیس بیٹنیں برس میں اس کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی۔ ان میں نصف کے قریب دوشیزا تیں تھیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دنیا کے ہر حصے میں پہنچ گئے۔ خوب بدکاری کی، چرس، چانڈو، افیون اور بھنگ کا بے تحاشا استعمال کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح سے سکون قلب پائے گا لیکن اسے رسوائی، ذلت، نفرت اور غلامت کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ چنانچہ ان میں احساسِ زیاں پیدا ہوا اور ۱۹۴۵ء کے اواخر میں۔ لاکھ سیٹیوں نے شکاگو میں اس صدی کا سب سے بڑا جلوس نکالا۔ ان کے ہاتھوں میں کئی لاکھ banners (کتبے) تھے جن پر مکتوب تھا:

“ مذہب کی طرف واپس چلو۔ ”

یہ آواز چالیس سال کے تلخ تجربات، مسلسل رسوائی اور عالمی نفرت کا نتیجہ تھی۔

(۶۹:۶)

مادیت کے دو روپ۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت

دویر جدید میں فلسفہ مادیت عملاً دو شکلوں میں نظر آتا ہے:

(۱) مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں۔

(۲) روس اور چین وغیرہ کے اشتراکی نظام کی شکل میں۔

سرمایہ دارانہ نظام۔

اس نظام میں عوام کو آزادی دی جاتی ہے اور اسی آزادی کے نعرے میں آزاد معیشت

۱- یہ سلسلہ غیر تناہی ہے۔

۲- یہ سلسلہ تناہی ہے۔

پہلا مفروضہ اختیار کرنے کی صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محرکِ اول کا وجود ممکن نہیں رہتا اور حرکت کے وجود کی نفی آجاتی ہے اور قضیہ ۱ ہمارے قضیہ ۱ سے ٹکرا جاتا ہے (حالانکہ قضیہ ۱ بدیہیات میں سے ہے)

اس کا مطلب یہ ہے کہ مفروضہ نمبر ۱ کی صورت میں ہم تناقض (Self-contradiction) کا شکار ہو جاتے ہیں چنانچہ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ قضیہ نمبر ۱ کی جگہ پر مفروضہ نمبر ۲ کو لازماً اختیار کریں اور وہ یہ ہے کہ:

”علت و معلول یا حرکت و محرک کا یہ سلسلہ غیر تناہی نہیں بلکہ لازماً اس کی انتہا موجود ہے۔ ایک علت ضرور ایسی ہے جس کی آگے کوئی علت نہیں ہے۔“

چنانچہ ہمیں ہی قضیہ اس انداز سے لکھنا پڑیں گے۔

قضیہ ۱: کائنات میں حرکت کا وجود موجود ہے۔ (بدیہی امر)

قضیہ ۲: ہر حرکت کے لیے محرک کا وجود لازمی ہے۔

قضیہ ۳: ہر محرک کے لیے ایک اور محرک کی ضرورت ہے۔

قضیہ ۴: حرکت و محرک (علت و معلول) کا یہ سلسلہ لازماً

تناہی ہونا چاہیے۔ (لازمی مفروضہ)

قضیہ ۵: محرکِ اول (خالقِ اول) کا وجود ثابت ہوا۔

محرکِ اول کے وجود سے ہی حرکت کا وجود ثابت رہ سکتا ہے ورنہ حرکت

کی نفی لازم آتے گی اور یہ بات ہمارے قضیہ ۱ سے ہی ٹکرا جاتے گی جس

میں مذکور ہے کہ ”کائنات میں حرکت کا وجود موجود ہے“

سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ سائنس نے قریب قریب یہ بات طے کر دی ہے کہ

اختیار کی جاتی ہے جس میں کارخانہ دار اور مزدور کو اپنی اپنی جگہ پوری پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں، دونوں میں جس طرح سے سودا ہو وہ اپنی اپنی مزدوری اور اجرت طے کر دیں اس آزاد معیشت کے خوبصورت نعرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کارخانہ دار اور جاگیر دار نے پورے ملک کی دولت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے افراطِ زر اور مہنگائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مزدور کو اس کی پوری اجرت دینے کی بجائے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کم اجرت پہ کام کرے۔ مہنگائی اور افراطِ زر کے زمانے میں ایک مزدور کے سامنے دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہے یا تو وہ بالکل ہی کام نہ کرے اور شام کو خود بھی بھوکا مرے اور اس کے بچے بھی اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی مزدوری کا حق مثلاً سو روپے لینے کی بجائے دس روپے لینے پر مجبور ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کارخانہ دار مزدور کو سو روپے دینے کی بجائے دس روپے پر رٹنا دیتا ہے اور اس کی مزدوری کے نوے روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اس طرح سے وہ لاکھوں مزدوروں کی مزدوری بٹریپ کر کے ملک کی دولت کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، یعنی وہ امیر ترین جاتا ہے اور غریب غریب تر۔ اس طرح سے سرمایہ دار ایک کارخانہ کی جگہ دس کارخانے دو چار سالوں میں ہی لگا لیتا ہے اور اس کے باوجود جو رقم اس کے پاس استعمال سے بچ رہتی ہے اسے وہ سود پہ لگا کر اپنی رقم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور اہل ضرورت، غریب، مساکین کے پیٹ کاٹنے لگ جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لامحدود ملکیت کا حق ہے یعنی جو شخص بھی چاہے وہ اربوں، کھریوں ڈالروں کی دولت کا مالک بن جائے اور اس پر کسی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ پچارے غریب مزدور جیتتے چلاتے رہ جاتے ہیں لیکن انہیں اپنا حق کبھی نہیں مل پاتا۔ یہی سرمایہ دار جمہوریت کے خوشناما سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اقتدار پر مستقل قبضہ رکھتے ہیں اور غریب عوام کو رشوت دے کر ان سے ووٹ خرید لیتے ہیں اور عام لوگوں کو کبھی اقتدار کے پاس نہیں پھینکنے دیتے۔

یہ دریافت دیم نہیں بلکہ حادث ہے۔ یہ انلی نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا بھی ہے اور جدید طبیعیات نے یہاں تک ترقی کی کہ اس کائنات کی عمر بھی متعین کر دی تو ان حالات میں یہ دلیل اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی کہ ایک وقت ایسا تھا جبکہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک ہستی تھی جس نے سب کو پیدا کر دیا۔ کائنات کی تخلیق کی اس سے بہتر توجیہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے خالق کے وجود کا انکار کیا ان کی اصل بنیاد یہ تھی کہ مادہ انلی ہے اور قدیم ہے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب یہ موجود نہ ہو۔ مادہ کبھی غیر موجود نہیں تھا، یہ ہمیشہ موجود تھا اس لیے اس کو عدم کے وجود میں لانے یا پیدا کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تخلیق کی بجائے ارتقاء (evolution) الاپتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ لوگ مادہ کو انلی سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ابدی ہونے کا بھی اقرار کرتے رہے اور قانون بقا سے مادہ پر زور انداز میں ہر تعلیم گاہ میں پڑھایا جاتا رہا۔ جدید تعلیم یافتہ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ قانون بقا سے مادہ ایک پرانی بات بلکہ ایک روشدہ نظریہ ہو کر رہ گیا ہے اور جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کو بقا حاصل نہیں۔ مادہ نہ ابدی ہے اور نہ انلی۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد مادیت کی اصل جڑ کٹ گئی ہے۔ اب یہ سوال ایک اہم صورت اختیار کر گیا ہے کہ مادہ جب موجود نہ تھا تو کیسے وجود میں لایا گیا۔ جب یہ کائنات عدم میں تھی، غیر موجود تھی تو کس طرح وجود میں آئی۔ کیا بغیر وجود میں لانے والے کے؟ کیا بغیر کسی خالق کے؟

مادیت کا پرچار کرنے والوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ کائنات کی تخلیق محض ایک اتفاق ہے، ایک حادثہ ہے، یہاں تک کہ کائنات کا باقی رہنا اور ارتقائی منزلیں طے کرتے چلے جانا سب کچھ اتفاق ہی اتفاق ہے۔ وہ اس کے لیے دلچسپ مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ اگر چند بندروں کو ٹائپ رائٹر دے دیتے جاتیں اور وہ مسلسل ٹائپ رائٹر پر دلچسپ ٹائپ رائٹنگ جانے، انگلیاں مارتے رہیں اور ایسا ہزاروں سال تک ہوتا رہے۔ بندروں کی عمر بھی طویل ہو اور کاغذ کی سیاہی بھی ختم نہ ہو، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ بندر شیک پیپر کے

اشتراکی نظام

سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم کے خلاف ایک ردِ عمل کی صورت میں انسانی فکر نے ایک اور نظام پیش کیا لیکن اس سے بھی زیادہ ظالمانہ۔ اشتراکی نظام کے علمبرداروں نے یہ سوچا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ظلم کی اصل وجہ حقیقی ملکیت ہے۔ چنانچہ انہوں نے انسان کو حقیقی ملکیت سے ہی محروم کر دیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اصل خرابی حقیقی ملکیت میں نہیں بلکہ لامحدود حقیقی ملکیت میں تھی۔ اصل خرابی ان لوگوں کے حقیقی ملکیت میں تھی جو کروڑ پتی تھے۔ ان لوگوں کے حقیقی ملکیت میں کوئی خرابی نہیں تھی جن کے پاس صرف اتنی جائداد یا زمین کا ٹکڑا تھا جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا زراعت کر کے پیٹ پالا کرتے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ حقیقی ملکیت ہر انسان کا فطری حق ہے اگرچہ اس حد تک نہیں کہ وہ دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالنے لگے۔ اس میں شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ملک کی دولت کا بڑا حصہ بین بائیس خاندانوں کے ہتھے میں آجاتا ہے اور وہ بھی ناجائز طریقے سے۔ یہ فی الواقع ضروری ہے کہ ان لوگوں کی ناجائز دولت کو چھین کر غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، لیکن ان لاکھوں غریب کاشتکاروں کا کیا قصور ہے جن کے پاس مشکل چند بیگھے زمین ہے اور وہ اسی پر گزارہ کرتے ہیں۔ اشتراکیت میں پوری کی پوری زمین خواہ کسی کے پاس زیادہ ملکیت میں ہو خواہ کم، سب کی سب چھین کر قومی ملکیت میں دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ جب اشتراکیت کی تعمیل کرتے ہوئے شروع میں اشتراکیوں نے روس کے کاشتکاروں سے ان کی زمینیں چھینیں تو انہوں نے سخت مقابلہ کیا اور لاکھوں افراد گولیوں کا نشانہ بن گئے۔

امریکہ کا ایک نامہ نگار لکھتا ہے کہ ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۲ء تک لینن نے ایک کروڑ بیس لاکھ روسی قتل کیے تھے۔ (ریڈر ڈائجسٹ اپریل ۱۹۵۴ء صفحہ ۱۳۴)

بعد میں سٹالن نے جو ۱۹۲۸ء میں لینن کے مرنے پر برسرِ اقتدار آیا تھا ۱۹۵۳ء تک برسرِ اقتدار رہا اس نے کروڑا کروڑ ڈیڑھ کروڑ کے درمیان انسان موت کے گھاٹ اتارے تھے (ایضاً صفحہ ۱۴۰)

سارے ڈرامے یہ الٹریچر کے دیگر فن پارے سبھی تخلیق کر جائیں گے۔

اس اعتراض کا جواب دینے میں اور اس مثال پر زیادہ بحث کرنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے لیکن اس پر ایک اہم سوال پیش خدمت ہے اور وہ یہ کہ آخر یہ بندر شیکسپیر کے ڈراموں تک ہی کیوں پہنچے، ایک اتفاق یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ بدکلامی کی انتہا کو پہنچتے، یا فن کلام کا ہی خاتمہ کر دیتے۔ مزید برآں یہ مثال اس بات کا جواب بھی نہیں دیتی کہ ٹائپ رائٹر کے حروف ابجد کہاں سے آگئے، ان کا آپس میں لفظی رشتہ کس نے پیدا کر دیا۔

اگر یہ کائنات مسلسل اتفاقات کا نتیجہ ہے اور حادثات کا نتیجہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ کائنات مسلسل نظم و ضبط کے ساتھ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور باقی ہے اگر اتفاقات ہی اتفاقات ہیں تو ان کروڑوں سالوں میں ایک اتفاق یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن ان اتفاقات میں اس بات کی تو ہمیشہ احتیاط کی گئی ہے کہ یہ کائنات ختم نہ ہونے پاتے اور باقی رہے۔ یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟

مادیت کے ماننے والوں سے ایک اہم سوال یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اگر مادہ ہی نے ہر چیز کو خود بخود پیدا کر دیا ہے تو کیا مادہ نے عقل کو بھی خود ہی پیدا کر دیا جو بعد میں اس کی حاکم بن گئی اور مادہ کو مسخر کر کے، غلام بنا کے ہر جگہ خدمت لینے لگی۔

مادیت کے ماننے والے اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ عقل کی تخلیق مادہ کے تسلسل اور واقعات کا نتیجہ ہے یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادہ ترقی کر کے خود بخود عقل بن گیا۔ یہاں پر اہم سوال یہ ہے اور یہی سوال عقل کے علاوہ تو انسانی، روح اور زندگی کے لیے بھی اٹھایا جاسکتا ہے، کہ وہ منزل کب آئی جب مادہ عقل میں تبدیل ہو گیا یا روح میں تبدیل ہو گیا یا زندگی میں تبدیل ہو گیا اور یہ منزل مادہ کے ایک حصہ پر ہی کیوں آئی۔ مادہ کے کل پر اور تمام مادہ پر یعنی پوری کائنات پر کیوں نہ آگئی۔ پھر زیادہ لطیف کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ مادہ کا وہ بد نصیب حصہ جو عقل اور روح زندگی، تو انسانی نہ بن سکا وہ عقل اور روح کے لیے تدبیر منزل بن گیا اس کا کام فقط یہ ہوا کہ

یہ نہتے لوگ ٹینکوں سے کہاں تک لڑتے، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بدول قیدیوں کی طرح کام کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی پیداوار ختم ہو گئی۔ ملک روس زراعت میں خود کفیل نہ رہا۔ اسے غلہ اور تمام اشیاء امریکی بلاک سے بھیک کے طور پر مانگنی پڑیں۔ آج سے کوئی چالیس برس پہلے حکومت نے ان مزدوروں کو زمین کے ۲۰ ہزار مالک بنا کر کہا کہ اس کی پیداوار تمہاری ہوگی تم جہاں چاہو اور جس طرح چاہو خرچ کرو۔ آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ اس ۲۰ ہزار سے ملک کی بہتر ضروریات پوری ہونے لگیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے شخصی ملکیت ۲۰ ہزار سے بڑھا کر ۵۰ ہزار کر دی گئی اور ملک خود کفیل ہو گیا۔ (۶ : ص ۷۷)

اسلام کا معتدلانہ نظام

صاف پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک انتہا پر وہ ہیں اور دوسری انتہا پر وہ۔ سرمایہ دارانہ نظام نے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں اشتراکیت نے حق ملکیت ختم کر کے پورے ملک کو ایک جیل خانہ بنا دیا حکومتی جماعت خود سب سے بڑی سرمایہ دار بن گئی جس کے پاس پورے ملک کی دولت، پولیس، عدالت سب کی سب قوتیں جمع ہو گئیں اور وہ سب سے بڑا ظالم بن کے بیٹھ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اشتراکی نظام میں کسی شخص کو چھیننے چلانے اور احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہ رہی اور پورے ملک کے باشندے قیدی بن کر رہ گئے۔

اس افراط و تفریط کے دوران آپ کو اسلام کا ایک نظام نظر آئے گا جس میں حق ملکیت ہے مگر لامحدود نہیں جس میں آزاد معیشت ہے لیکن کارخانہ دار کو مزدور پر ظلم کرنے کا اور اس کی مزدوری اپنی جیب میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے کہ اجرت مقرر کرنا کارخانہ دار اور مزدور کا باہمی کام نہیں ہے بلکہ اس میں حکومت بھی ایک نگران کی حیثیت سے دونوں کے حقوق کی پوری پوری حفاظت رکھتی ہے اور مزدور کو کارخانہ دار اور جاگیر دار کے ظلم سے ہر طرح بچا لیتی ہے۔ پھر یہ کہ اسلام کا نظام

وہ عقل اور رُوح کی چاکری کرتا رہے۔ یہ مادہ اس منزل میں بسنے والے جانداروں کی ضرورت کے مطابق غذا وغیرہ کے مہیا کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مادہ کی ظاہری شکل دیکھنے سے یا اس کے بعض اعمال تجربے کے ذریعے سے معلوم کر لینے سے مادہ کو خالقِ کل قرار دے دینا غیر سائنٹیفک بات ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ شخص جس کو حیاتیات (Biology) میں مہارت ہو اور اعضائے جسمانی کی حرکتوں کو سمجھتا ہو وہ زندگی کی حقیقت کو بھی سمجھ لے۔ اور زندگی کے خالق کے وجود کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ ایک بڑھتی شطرنج کے مُہرے بنانا بنانا یہ خیال بھی کرنے لگے کہ وہ شطرنج کا بہترین کھلاڑی بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ بھی ہے جو شطرنج کے مُہرے تو بڑھتی کی طرح نہیں بنا سکتا لیکن ان مُہروں کا مقصد اور شطرنج کے کھیل کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے۔

مادیت کا پرچار کرنے والے اسی غلطی کے مُترکب ہوتے ہیں۔ وہ مادہ کی حرکات سے متعلق ذرا سی واقفیت حاصل ہونے پر مادہ کی حقیقت، اس کا مقصد اس کی تخلیق یہاں تک کہ اس کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ طور پر رائے دینے لگے ہیں۔ یہ ان کا میدان نہ تھا اور نہ انہیں ضرورت تھی کہ وہ اس میدان میں قدم رکھیں جو ان کی تحقیقات کے دائرہ سے بالکل باہر اور الگ ہے۔ خالق کے وجود کا انکار ان حضرات نے کسی سائنسی تحقیق کی بنا پر نہیں کیا بلکہ محض اُکھل پتھر پر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کے وجود کی دلیل مانگتے ہیں اور دلیل سننے کے بعد بے اطمینانی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس بات کی پہلے کوئی دلیل دے دی ہو کہ خدا کا وجود غیر ممکن ہے۔

انسان کو ہوش میں آتے ہی جن بدیہی مقدمات کا علم ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو با ترتیب، منظم اور باقاعدہ دیکھتا ہے تو اسے فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ کسی دانشمند نے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے، اگر کسی جگہ ہم چند اشیاء بغیر ترتیب رکھے ہوتے دیکھیں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ سے آپ اکٹھی ہو گئی ہوں گی لیکن جب اس طریقہ ترتیب اور سلیقہ سے چُنی

دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے نہیں دیتا بلکہ مختلف طریقوں سے جن میں وراثت سب سے اہم طریقہ ہے کئی ہاتھوں میں بانٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ سود کی لعنت، جو کہ ازبکا زور کا اصل ذریعہ ہے ممنوع قرار دے دی گئی اور کوئی شخص بغیر محنت کے محض سرمایہ کے زور پر سرمایہ نہیں کما سکتا۔

ان تینوں نظاموں کا مطالعہ کرنے کے بعد صاف پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام انسان کے بنائے ہوئے ہیں اور اسلام کا بنایا ہوا نظام ایک ایسی مدبر مہستی کا بنایا ہوا ہے جو کسی افراط و تفریط کا شکار نہیں اور زمانے کی لمبان خواہ کتنی ہی آگے کو بڑھ جاتے یہ نظام اپنے اندر اتنی لچک، عالمگیری اور آفاقیت رکھتا ہے کہ ہر جگہ اور ہر دور میں اسی طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہوگا جس طرح سے اپنے اوائل میں ہوا۔

مادیت کی شکست

دہنس دریش۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ سائیس ڈی سی، اپنے مضمون ”مادیت کی شکست میں لکھتے ہیں:

”مادیت ایک نظریہ ہے جس کی تعلیم فلاطون و ارسطو کے یونان میں دی جاتی تھی۔ اس کے مطابق یہ کائنات صرف مادہ سے تیار ہوتی ہے۔ روح مادہ ہی کی ایک صورت ہے، انسانی دماغ اور عقل بھی مادی ہیں۔ انسانی تک و دو صرف مادی لذات کے لیے ہے زندگی کا انجام موت کی تاریکی ہے۔ اور آگے کچھ بھی نہیں جنت و جہنم اور خدا و ملائکہ کا تصور باطل ہے۔ اس نظریے کے مبلغ آج بھی موجود ہیں۔ اشتراکی ممالک تمام کے تمام مادہ پرست ہیں۔ اور اس قسم کے لوگ مذہب پسند ممالک میں بھی پاتے جاتے ہیں۔“

انیسویں صدی کے نصف آخر میں سائنس مادیت کی گرفت میں آچکی تھی۔ کچھ سائنسدان مذہب پرست بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ مادہ پرستوں کی راستے یہ تھی کہ اس کائنات میں نہ کوئی پلان ہے نہ مقصد اور نہ کسی نوع کی رہنمائی۔ اشیاء عناصر کی آمیزش سے ظہور میں آتی ہیں۔

گئی ہوں کہ ایک ہوشیار کاریگر بھی اس طرح سے نہیں چن سکتا ہے تو یہ خیال کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ترتیب آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہوگی۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ غالب یا اقبال کا کوئی شعر لے لیا جاتے، اس کے الفاظ الٹ پلٹ کر کے کسی عام آدمی کے سامنے رکھ دیتے جاتیں اور اس سے کہا جاتے کہ یہ الفاظ ایک عمدہ شعر کے ہیں انہیں ترتیب دے دو تا کہ عمدہ شعر پھر سے بن جاتے۔ وہ شخص ہزار طرح سے ان الفاظ کو الٹ پلٹ کرے گا لیکن اتفاقاً طور سے بھی کبھی یہ نہیں ہوگا کہ غالب اور اقبال کا وہ شعر نکل آئے حالانکہ الفاظ وہی ہیں، حروف وہی ہیں، صرف ذرا سی ترتیب کا الٹ پھیر ہے، پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ پورا نظام کائنات جب اس قدر مربوط، منظم، موزوں اور باقاعدہ ہے وہ خود بخود قائم ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں خدا کے وجود پر اس طرح استدلال کیا گیا ہے۔

مَا تَدْرِي فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ

تَفْوِيْتٍ - فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَدْرِي

مِنْ فُطُوْرٍ - وَالْمَلِكِ - (۳)

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرًا تَقْدِيْرًا -

مَعْيَارٍ مَعْيِنٍ كَيْفَا - (الفقان - ۲)

”خدا کی کاریگری میں تم کو کہیں جھول نظر نہیں

آتے گی نظر الٹ الٹ کے دیکھو کیا تمہیں

کہیں کوئی دراڑ یا خرابی دکھائی دیتی ہے“

”خدا نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک

معیار معین کیا“

فصل ب

مسئلہ حادث و قدیم علم الکلام کی روشنی میں

آئیے اب کائنات کے حادث یا قدیم ہونے کے مسئلہ کو علم الکلام کی روشنی میں حل کریں:-

(۱) کائنات میں دو قسم کی اشیاء پائی جاتی ہیں: (۱) عرض: یعنی وہ اشیاء جو بذات خود موجود

نہیں بلکہ کسی دوسری میں ہو کر پائی جاتی ہیں مثلاً رنگ، بو، ذائقہ، رنج، خوشی اور جوش وغیرہ۔

(ب) جوہر: یعنی وہ اشیاء جو بذات خود قائم اور موجود ہیں۔ مثلاً پانی، مٹی اور پتھر وغیرہ۔

اور صرف وہی باقی رہتی ہیں جن کی تعمیر محکم ہو۔ ان کے ہاں جانداروں بے جان میں کوئی خاص فرق نہیں۔ جان بھی مادہ ہی کی ایک شکل ہے اور عناصر کی کارستانی اس نظریہ پر بڑی لے دے ہوتی اور اس کے ہر پہلو پر اعتراض کیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ کہ شعور ایک غیر مادی چیز ہے یہ مادہ سے کیسے پیدا ہوا، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ شعور دماغ کی تخلیق ہے اور دماغ مادہ کی۔ اس جواب سے نہ وہ خود مطمئن ہوتے نہ کسی کو مطمئن کر سکے۔ یہ صورت بیسویں صدی کے آغاز تک قائم رہی۔

بیسویں صدی میں نظریات بدلنے لگے اور اس کی بڑی وجہ علوم میں اضافہ تھا۔ نیوٹن ۱۶۴۲ء کے دور میں فنکس ختم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ نئی فنکس نے لے لی تھی جس نے نقطہ نگاہ کو کلیتہً بدل دیا تھا۔ نقطہ نگاہ کے مبلغین میں امریکہ کا ممتاز فلسفی ولیم جیمز (۱۸۲۲ء-۱۹۱۰ء) اور فرانس کا مشہور مفکر ہنری برگساں (۱۸۵۹-۱۹۴۱ء) سرفہرست تھے۔

آپ نے بزرگوں سے اس قسم کے جملے بار بار سنے ہوں گے کہ:

یوں ہونا چاہیے۔

یہ جانتا اور وہ ناجانتا۔

یہ کہنے والے کی ذاتی راستے نہیں ہوتی بلکہ انسانی ضمیر اور تاریخ کی آواز ہوتی ہے جو کسی مرد تک دانش اعلیٰ کی ترجمانی کرتی ہے۔ انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے وہ بیتاب ہے۔ یہ راہ دانش اعلیٰ کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ دانش اعلیٰ کی رہنمائی ہی میں طے ہو سکتی ہے اسی رہنمائی کا نام پلان ہے اور منزل پر رسائی کا نام مقصد۔

کائنات اتنی وسیع، پُراسرار اور پیچیدہ ہے کہ نہ تو انسانی فہم اس کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ موجودہ آلات بنیاتی اس کا مشاہدہ۔ جتنا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات میں کوئی تخلیق بے مقصد نہیں۔ یہی وہ نتیجہ ہے جس نے مادیت کا زور توڑ دیا ہے۔ اور انسان کی تصویر مسمانی

(۲) کوئی جوہر کسی وقت بھی عرض کے بغیر یا عرض سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات میں جس قدر جوہر ہیں کسی نہ کسی صورت، شکل یا ہیئت میں پستے جلتے ہیں اور ہیئت عرض ہے تمام جوہروں میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت کا وجود پایا جاتا ہے اور حرکت عرض ہے۔ غرض جوہر خواہ کسی شکل میں بھی ہو اس میں کسی نہ کسی عرض کا پایا جانا ضروری ہے یعنی کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا۔

(۳) عرض حادث ہے۔ یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

(۴) جوہر بھی حادث ہے کیونکہ عرض حادث ہے، عرض اور جوہر جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر جوہر کو قدیم مانا جاتے تو لازم ہوگا کہ عرض بھی قدیم ہے کیونکہ دو چیزیں جو لازم ملزوم ہوں ان میں سے اگر ایک چیز قدیم ہوگی تو لازم ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی مانتا پڑے گا اور یہ محال ہے۔

(۵) کائنات قدیم نہیں بلکہ حادث ہے کیونکہ کائنات دو صورتوں سے خالی نہیں، جوہر ہوگا یا عرض، اور جوہر اور عرض دونوں حادث ہیں۔

(۶) اگر کائنات ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی علت ہو۔ اب اگر علت بھی حادث ہے تو اس کے لیے بھی کوئی علت درکار ہوگی۔ اب یہاں پر دو باتیں فرض کی جا سکتی ہیں (۱) یہ کہ علتوں کا یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ یہ سلسلہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے، اور ایک کڑی سے دوسری کڑی وابستہ ہو اور ان کڑیوں کا سلسلہ کہیں بھی ختم نہ ہو۔ علتوں کی اس زنجیر کا کوئی دوسرا سرا موجود نہ ہو۔ اس سلسلہ میں دور تسلسل لازم آتے گا اور زمانہ غیر متناہی کا وجود لازم آئے گا جو عقلاً محال ہے۔

مآخذ و مصادر کی طرف ہو گئی ہے۔ فنون لطیفہ کا مآخذ روحانی ہے یعنی انسانی روح یا دماغ۔ یہاں شاید یہ وضاحت بے جا نہ ہو کہ دماغ کی بے شمار اقسام ہیں۔ چیونٹی کا دماغ بیل سے جدا ہے اور بیل کا انسان سے کائنات کے عظیم ترین دماغ کو ہم دانش اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس میں اور انسانی دانش میں وہی فرق ہے جو عقیدہ ثریا اور انگور کے گچھے میں ہے۔ ہالینڈ کے فلسفی اسپینوزا (۱۶۷۷ء) کا قول ہے:

”خدا کے اوصاف کا ذکر کرتے وقت ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ درست کہ خدا سوچتا اور ارادہ کرتا ہے۔ لیکن اس کی سوچ اور اس کا ارادہ ہم سے مختلف ہے۔ ہاں اس سے انکار نہیں کہ انسان خدا ہی سے ملتی جلتی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ خدا ہی کی صورت پر پیدا ہوا ہے۔ یوں کہہ دیجیے کہ یہ آفتاب تو نہیں لیکن اس کا ٹوٹا ہوا اثر یقیناً ہے۔“

ماحصل یہ کہ سائنس بڑھتے بڑھتے روحانیت کی لطیف و حسین منزل تک جا پہنچی ہے اور ادیت کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں۔

[۵ : ص ۱۴۹]

برہانِ ثبوت

کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نظر نہیں آتی۔ مخلوقات میں ہر چیز ایک مقصد اور اپنی رفتار تدبیر میں ایک حکمت کی خبر دیتی ہے۔ انسانی جسم کے کسی عضو کو لے لیجیے، اپنی اپنی جگہ پر ایک مخصوص فرض کی انجام دہی کر رہا ہے۔ یہی حال کائنات کی ہر چیز کا ہے۔

اگر کائنات کی ہر چیز اپنے اندر کوئی مقصد اور حکمت رکھتی ہے تو ثابت ہو گیا کہ پوری کائنات ضرور کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، ایسا مقصد جو اسے کسی حادثہ یا اتفاق کے نتیجہ میں نہ ملے۔

کائنات کی مقصدیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے جن نے تدبیرِ حکمت کے ساتھ ایک مقصد پورا کرنے کے لیے اس کائنات کی تخلیق کی۔ اگر اس کائنات کا کوئی مدبّر خالق نہ ہوتا تو اس کائنات کی اکثر اشیاء بے مقصد اور بے فائدہ ہوتیں۔ لیکن ابھی تک ہمارے سامنے ان کسی ایسی چیز کی نشان دہی نہیں کر سکے جو مقصد اور فائدہ سے خالی ہو۔

اس دلیل پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے اور وہ یہ کہ اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور فائدہ ہے اور دنیا میں کوئی چیز بلا مقصد اور بلا فائدہ نہیں تو زندگی میں شر اور تکلیف کا وجود کیوں ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عالم میں ایک حکیم کا مقصد اور حکمت کا فرما ہے تو پھر یہ تکلیف، یہ نقص، یہ شر اور یہ ظلم کیوں ہے؟

اس سوال کا جواب ہم دو طرح سے دے سکتے ہیں:

حصہ ششم

دلائل عقلیہ متفرقہ

- جزر اپنے کل کو پیدا نہیں کر سکتا،
- مادہ رُوح و عقل کا خالق نہیں ہو سکتا،
- مادی کائنات انسان کے لیے مُختر کر دی گئی ہے،
- انسان صاحب ارادہ ہونے کے باوجود بے بس ہے،
- خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آفاقیت۔

چند اہم گفتگوئیں :-

- ☆ کیا خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے؟
- ☆ کیا خدا کے بارے میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟
- ☆ ”اگر خدا کہیں سے نکل آیا تو؟“
- ☆ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ — ایک بچگانہ سوال



پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کائنات ایک کل ہے اور اس کی موجودات اس کا جز ہیں۔ کائنات کی کوئی ایک چیز کل کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح دنیا کے تمام واقعات اپنی اپنی جگہ پر مستقل واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک طویل سلسلہ واقعات کی کڑیاں ہیں۔ یہ کوتاہ نظری ہوگی کہ ہم کسی شخص کی بیماری درد تکلیف یا موت کو ایک مستقل واقعہ کی حیثیت دے دیں اور اس کے پس منظر اس کے ماحول، اس کے ماضی اور اس کے مستقبل کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک باغبان ایک باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے پودوں میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے، درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر ان میں قلمیں لگا رہے اور کبھی تو قینچی کے ذریعہ استعمال کیا کٹا کرتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں پتیاں اور شاخیں کٹ کر الگ جاگتی ہیں۔ اب ان شاخوں اور پتیوں کو یوں کاٹ کر الگ پھینک دیتے جانے کو اگر معترضین کی نظر سے دیکھا جائے تو ان پر سراسر ظلم کیا جا رہا ہے لیکن اگر ایک باغبان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو باغ کی زندگی، باغ کا حسن یا باغ کی رونق اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور قینچی کا استعمال ہے، کہیں چاقو کا اور کہیں کڈال کا۔ بالکل یہی حالت اس کائنات کے انتظام کی بھی ہے۔ اس کائنات کا منظم خوب جانتا ہے کہ کس وقت اور کس جگہ کس کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ایک اور مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سمجھدار شخصیت جو کرسی وزارت پر ہو اور حاکم وقت ہو وہ ایک ملک کے حالات کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک آن پڑھ گنوار اگر چند سیاسی واقعات کو اس کے پس منظر سے ہٹا کر تنقید کا نشانہ بنا دے تو یہ اس کی اپنی کوتاہ نظری ہوگی۔

اس جواب پر معترضین یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ جو روف اور رحیم ہے ایک ایسا نظام بھی تو بنا سکتا تھا جس میں کائنات کا نظام چلتا رہتا اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ اعتراض پھر وہی کائنات کی حقیقت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ یہی بحث میں پڑے بغیر آئیے ہم اس کائنات کا اس کائنات سے مقابلہ کریں جو معترضین اپنے خیال میں صحیح سمجھتے ہیں۔

دلائل متفرقہ

۱۔ جز اپنے گل کو پیدا نہیں کر سکتا

ہم بیان کر چکے کہ مادہ مختلف برق پاروں سے بنا ہوا ہے جن میں کہ الیکٹران پروٹان اور نیوٹران شامل ہیں۔ ان کی باہمی ترتیب کے اختلاف سے مختلف عناصر عالم وجود میں آتے ہیں۔ ان برق پاروں کی ترتیب کے اختلاف سے ایک مجموعہ سونا بن جاتا ہے اور دوسرا چاندی تیسرا لوہا۔ ہائیڈروجن کے جوہر میں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے۔ آکسیجن کے جوہر میں آٹھ اور کیشیم میں بیس۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کا وجود کہاں سے آگیا؟ انہیں کس نے بنایا اور پھر ان میں اس خاص درجے کی ترتیب اور ترکیب کس نے پیدا کی کہ وہ مختلف عناصر کو منہتہ وجود میں لے کر آگئے۔ اور ہر عنصر کی پھر علیحدہ علیحدہ خصوصیات اور صفات پیدا ہو گئیں۔ کیا مادہ نے خود ان کو پیدا کیا ہے؟ کیا مادہ کے اندر انہیں الیکٹرانز، پروٹانز اور نیوٹرانز میں سے کسی نے انہیں پیدا کیا ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان برق پاروں میں سے ہی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے برق پاروں کو پیدا کر لیا ہے اور اپنے آپ کو بھی؟ اور پھر ان میں مختلف ترکیب پیدا کر کے مختلف تشکیلات وجود میں لے آتے؟

یہ سارے برق پارے تو ایٹم یعنی ذرہ کا جزو ہیں۔ اور جزو گل کو پیدا نہیں کیا کرتا۔

۲۔ مادہ روح و عقل کا خالق نہیں ہو سکتا

جب ہم اپنی ذات کا مادہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ انسان

اگر معترضین کی خیالی کائنات ہمارے دل کو زیادہ بھجائے تو بیشک یہ معترضین ٹھیک کہتے ہیں۔ اور اگر یہی کائنات جس میں ہم سانس لے رہے ہیں تصور سے زیادہ قریب ہے تو اعتراض خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے۔

غالباً معترضین کی خیالی دنیا ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی چیز میں کوئی خرابی اور کوئی کمی پوری ہونے کا انتظار موجود نہ ہو۔ نہ کوئی نقص ہو نہ زیادتی، نہ باپ نہ بیٹا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی ذہین نہ کوئی کند ذہن، نہ کوئی بد صورت نہ کوئی خوب صورت اس لیے کہ خوب صورتی کا تصور بھی بد صورتی کے وجود ہی سے ممکن ہے۔ کسی کی صلاحیت استعداد میں کوئی فرق نہ ہو۔ نہ کوئی مذکر ہو نہ کوئی مؤنث۔ اس کے باشندے ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہنے والے اور ایک گروہ ہوں، نہ کوئی مرے نہ کسی کو بھوک لگے نہ پیاس نہ کوئی غذا طلب کرے نہ دوا۔

چونکہ اس خیالی کائنات میں کوئی نقص نہ ہوگا اس لیے کوئی حدود و قیود بھی ممکن نہیں چنانچہ ایک شخص اور پھر دوسرے شخص کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ کروڑوں اور لاکھوں انسان آپس کے فرق کے بغیر ایک نسخہ کتاب کی طرح ہوں۔ اختلاف اور تفاوت کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اختلاف کی علت یہ ہے کہ یہاں ایک صفت ناقص ہے، اور وہ وہاں پائی جاتی ہے اس صورت میں تو ایک عدد ایسا انسان پیدا ہونا چاہیے جو ایک انسانیت کا اجتماع ہو نہ اس میں کوئی کمی ہو نہ تعدد، نہ ابتدا ہو نہ انتہا۔

یہ خیالی کائنات چونکہ انتظار کی تکلیف سے خالی ہوگی اس لیے اس میں آج کے بعد کوئی کل نہ ہوگا۔ لمحے وقت کی قید سے بھی آزادی ہوتی۔ ہاں جذباتِ محبت و اشتیاق، یہ سب تکلیف کی باتیں ہیں، یہ جہان اس سے بھی خالی ہوگا۔ معترضین اپنی اس خیالی کائنات پر ازراہِ کم و بارہ غور فرمائیں۔

ابن رشد نے اس اعتراض کا خوب جواب دیا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں بدی کا وجود بذاتِ خود نہیں یعنی دنیا میں جو بُرائی بھی پائی جاتی ہے وہ کسی اچھائی کی تابع اور لازم ہے۔ غصہ

صاحب عقل ہے جبکہ مادہ میں عقل و شعور نہیں ہے۔ انسان صاحب علم ہے اور مادہ میں علم نہیں ہے۔ انسان صاحب ارادہ ہے اور مادہ ارادے سے محروم ہے۔ انسان میں سننے اور دیکھنے کی قوتیں ہیں جبکہ مادہ ان قوتوں سے خالی ہے۔ انسان میں جذبات و احساسات ہیں جبکہ مادہ تمام جذبات و احساسات سے کبیر خالی ہے۔ انسان صاحب اخلاق ہے جبکہ مادہ میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب کیا یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ مادہ ایک ایسی چیز کو پیدا کرے جو اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہو۔ انسان مادہ اور روح دونوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کل اپنے جزو کو پیدا کرے اور روح اور مادہ مل کے مادہ کو پیدا کر لیں۔ لیکن یہ کسی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ مادہ بیک وقت انسان کا یا روح اور مادہ کے امتزاج کا خالق ہو۔

کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان میں عقل اس چیز سے پیدا ہو جاتے جس میں عقل موجود نہ ہو، یا انسان میں علم اس چیز سے آجاتے جو خود علم سے خالی ہو، انسان میں ارادہ اس چیز کے ذریعے پیدا ہو جو خود ارادے سے محروم ہو، یا انسان میں دیکھنے، سننے اور سونگھنے کی قوتیں اس چیز سے حاصل ہوں جو ان تمام خواص سے محروم ہے؟ انسان میں جذبات احساسات اس شے سے پیدا ہو جائیں جو جذبات و احساسات سے کبیر خالی ہے؟

اگر مادہ خود کسی چیز سے کبیر خالی ہے تو وہ چیز دوسروں کو کس طرح عطا کر سکتا ہے، جو خود محروم ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ اس سے ظاہر ہوا کہ مادہ نہ تو خود اپنا خالق ہو سکتا ہے اور نہ کسی دوسری چیز کا۔ اس لیے کہ وہ تو جذبات، خود عقل، علم، ارادہ، سمع، جذبات، اخلاق ہر چیز سے محروم ہے۔

۳۔ مادی کائنات انسان کے لیے مستحکم رہی گئی ہے۔

انسان نے کائنات کو اپنا مستحکم اور محکم بنا لیا ہے۔ اور کائنات کی اکثر قوتیں اس کے سامنے ذلیل خادم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسان نے ہواؤں، سمندروں پہ قابو پالیا۔ سورج، چاند، مٹی ہوائیں

بُری چیز ہے لیکن اس حادثہ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انسان حفاظت خود اختیار کرتا ہے۔ یہ حادثہ نہ ہو تو انسان ایک حملہ آور کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ فسق و فجور بُری باتیں ہیں لیکن یہ اسی قوت کی تابع ہیں جس پر نسل انسانی کی بقا مضمّن ہے۔ آگ شہروں کے شہر جلا دیتی ہے لیکن اگر آگ نہ ہو تو انسان کے لیے زندگی بسر کرنا ناممکن ہو جاتے۔

یہاں ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیز پیدا کی جاتی اُس میں اچھائی ہی اچھائی ہوتی، بُرائی مطلق نہ ہوتی۔ ابن رشد کہتا ہے کہ کائنات کے اس نظام میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی ایسی آگ پیدا نہیں کی جاسکتی کہ اس سے کھانا تو پکالیں لیکن اگر مسجد کو جلا نا چاہیں تو نہ جلا سکے۔

اس مرحلے پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں اکثر اچھے آدمی تکلیف اٹھاتے ہیں اور بُرے آدمی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس غلط مفروضہ پر قائم ہے کہ انسان کی زندگی بس موت پر ختم ہو جاتی ہے، اصل میں انسان کی دنیوی زندگی اس کی حقیقی زندگی کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے اس لیے یہ کیونکر فرض کیا جا سکتا ہے کہ ہم جن کو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے دیکھتے رہے ہیں بیان کی پوری زندگی کی تصویر ہے، اس کی بنا پر ہم پورے سلسلہ کی نسبت کیونکر راستے دے سکتے ہیں۔

مزید برآں غور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جزا و سزا افعال انسانی کے لازمی نتائج ہیں جو کسی طرح اُن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے کہ زہر کھانے کا نتیجہ موت اور عمدہ خوراک کا نتیجہ اچھی صحت ہے اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ بہت سے لوگ اچھے یا بُرے کام کرتے ہیں اور اُن کا نتیجہ ان کو پیش نہیں آتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو تکلیفیں اور بُرائیاں دنیا میں نظر آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ واقعی نقائص ہوں۔ ہمیں یہ باتیں اس لیے نقائص محسوس ہوتی ہیں کہ ہم نے نظام عالم کا پورا سلسلہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس بات کو ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے۔

اس کی چاکری کر رہی ہیں حتیٰ کہ انسان مادے، نباتات، حیوانات سب کے خدمت لے رہا ہے۔ اور یہ پوری کی پوری کائنات اس کے لیے منفعت کا باعث بن رہی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ انسان حاکم ہے اور کائنات اس کی محکوم، مادہ اس کا خادمِ ذلیل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک محکوم اپنے حاکم کو پیدا کرے۔ ایک تسخیر شدہ غلام اپنے تسخیر کرنے والے کو وجود میں لے آئے، اور اسے پیدا کرے۔ ارشادِ ربّانی ہے:

«الْمُرْتَدُونَ إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَ
لَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ. (نہمان: ۲۰)»

» کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتابِ روشن «

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے کائنات کو مسخر کیا اور اس کا آقا بن گیا ہے اور جس طرح سے چاہتا ہے مادی اشیاء کو اپنی مرضی کے مطابق تصرف میں لاتا ہے اور مادی کائنات کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسان کی تسخیر اور اس کے غلبے کے مقابلے میں دم مار سکے یا اس کے سامنے تڑپے پیش آتے۔ یا کسی طرح سے بھی اپنے نفع و ضرر کی مالک ہو۔ کائنات انسان کے سامنے ایک بے بس غلام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کیا کوئی غلام اپنے آقا کا خالق و مالک ہو سکتا ہے؟

انسان صاحبِ ارادہ ہونے کے باوجود بے بس ہے۔

برخیزد کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے و خواہش سے کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر گزرے، اس کے بہت سی خواہشیں اور ارادے ایسے ہیں

ایک جراح کسی بچے کے پھوڑے کا علاج کر رہا ہے اور آپریشن کے ذریعہ سے فاسد مادہ نکال رہا ہے۔ جراح کا نشتر اور آپریشن کا عمل بچے کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بُرائی ہے۔ اے کاش اس بچے کو پھوڑے، جراح اور آپریشن کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ آپریشن کے عمل کو بُرائی قرار نہ دیتا بلکہ ایک نعمت سمجھتا۔

بچہ نادانی کے سبب انگاروں میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ ماں اس کے اصرار کے باوجود اس کا ہاتھ انگاروں میں نہیں جانے دیتی۔ وہ چاقو سے کھیلنا چاہتا ہے، ماں اس سے چاقو چھین لیتی ہے وہ روتا ہے، چختا ہے، چلا آتا ہے، بچے کی نظر میں ماں کا ہر عمل تکلیف دہ ہے اور اس کی نظر میں ماں ایک بد لحاظ اور بے مروت اور دشمن قسم کی شخصیت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بچے کی نظر انگارے کی ظاہری چمک دہک سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ وہ ان دونوں افعال کے نتائج اور بعد کی تکلیف کو نہیں سمجھا۔ اگر اُس کی محدود نظر میں ذرا سی وسعت پیدا ہو جائے تو اُسے ماں سے زیادہ کوئی بھی مشفق ہستی نظر نہ آئے۔

جو پورے نہیں ہو پاتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے لیکن صحت مند ہونے کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ غریب ہوتا ہے، امیر نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اولاد ہوتا ہے صاحبِ اولاد نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرور انسان پر بھی کوئی با اختیار حاکم موجود ہے۔ جو یہ تصرفات کرتا ہے اور جس کی مرضی اور ارادے کے سب انسان تابع ہیں۔ بس یہی حاکم با اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

خدا کے بنائے ہوئے قانون میں آفاقیت

اسلام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ ہر دور اور ہر جگہ میں قابلِ عمل ہے۔ اسلامی قانون میں آفاقیت اور عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اسلامی قانون کو بین الاقوامی قانون کے مصادر میں سے ایک مصدر تسلیم کیا گیا ہے جبکہ خود امریکی اور روسی قوانین کو بین الاقوامی شمار نہیں کیا گیا۔ دُعا غیر مسلم بین الاقوامی ماہرین قانون نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسلامی شریعت تمام زمانوں میں صحیح طور پر قابلِ عمل ہے۔ (۱۲۵: ۱۳)

۱۹۳۲ء میں لاہاتے میں بین الاقوامی قانون کانفرنس ہوئی جس میں اس زمانے کی لیگ آف نیشنز سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسلامی شریعت کو بین الاقوامی قانون کے مصادر میں شمار کیا جائے اس دور میں بھی بین الاقوامی قانون کے ماہرین نے اس باب کا اظہار کیا کہ اسلامی شریعت اپنے اندر عظمت، آفاقیت اور عالمگیری رکھتی ہے اور ہر زمانے میں قابلِ عمل ہے۔

(۱۲۶: ۱۳)

اسی طرح کی ایک بین الاقوامی قانون کی کانفرنس ۱۹۵۲ء میں پیرس میں منعقد ہوئی جس میں مختلف قوانین کے باہمی موازنہ کا بندوبست کیا گیا۔ اس میں ماہرین قانون نے مطالبہ کیا کہ فقہ اسلامی کے تفصیلی مطالعہ کے لیے ہر سال ایک کانفرنس منعقد کی جانی چاہیے حالانکہ ایسی کانفرنس پہلے دسویں سال منعقد کی جاتی تھی۔ ان حضرات کی رائے تھی کہ شریعت اسلامی کا گہری نظر سے مطالعہ و تحقیق کی جلتے اور ہر سال تحقیق کے نتائج بین الاقوامی کانفرنس کی صورت میں پیش کیے جائیں۔

برہان اخلاق

جرمن فلسفی کانٹ نے یہ دلیل بہت زوردار انداز میں بیان کی ہے، اور اس نے انسان کی توجہ اس ضمیر کی آواز کی طرف مبذول کرائی ہے جو ہر انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ حقیقت کہاں سے آئی کہ وہ اپنے لیے پر مشقت فرائض کی بجا آوری کو نفسانی خواہشات کے مقابلہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے؛ حالانکہ یہ اس کے دل میں چھپی ہوئی بات ہے جس کا کسی غیہ کو علم نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص وفاداری کے جوش میں دوسرے شخص پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے؛ ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنے ملک پر، اپنی قوم پر اور اپنے دین پر اپنی جان نچپا کر دیتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ کہاں سے آگیا؛ انسان جب بُرائی کرنے لگتا ہے تو اس کو ٹوکنے والے ضمیر کی آواز کہاں سے آنے لگتی ہے؛ آخر ایک مجرم جرم کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کیوں کرتا ہے۔ یہ کون منصف مزاج میجسٹریٹ ہے جو ہر شخص کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اعمال کو غلط یا صحیح ہونے کے فتوے صادر کرتا رہتا ہے۔

کانٹ کہتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جو انسانی نفس میں ایک ایسی نشانی اور دلیل قائم کرتا ہے جو بغیر معبود کے وجود کے ممکن نہیں۔ یہ وجود معبود حقیقی ہے جو احساسِ فرض اور ضمیر کی آواز میں ظاہر ہوتا ہے۔

اس دلیل پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ ضمیر کی آواز درحقیقت ایک اجتماعی عادت ہے جو شروع شروع میں انسانی نفس میں پیدا ہوتی، پھر راسخ ہوتی اور پھر ورثہ کے طور پر ہم تک منتقل ہوگئی، اور اب یہ ہماری فطرت کہلاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام کا نظام قانون انتہائی عادلانہ اور اعتدال پسندانہ ہے جبکہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک طرف دیکھیے کہ یورپ میں سزائے موت کو بے رحمی اور سنگدلی قرار دیا جاتا ہے حتیٰ کہ قاتل کو بھی سزائے موت دینے کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جرائم کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ہر طرف قتل اور ڈاکہ زنی کی واردات بڑھ گئیں دوسری انتہا یہ ہے کہ روس چین جیسے اشتراکی ممالک میں معمولی سی غلطی پر بھی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہا پسندیوں کے برعکس اسلام میں سزائے موت صرف اس موقع پر دی جاتی ہے جہاں پر کہ وہ از بس ضروری ہے۔

اسی طرح سے اسلام کا وراثت کا نظام بھی دیکھ لیجیے کہ روس جیسے ملک نے اسلام کے نظام وراثت سے بہت کچھ اپنا لیا ہے۔ خود برطانیہ اور امریکہ میں بھی وراثت کے نظام میں سے کافی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ خود بھارت میں ودواہل پاس کیا گیا اور اب وہاں بھی بیواؤں کو شادی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بات صرف طلاق اور نکاح کے قوانین سے متعلق ہی نہیں بلکہ اسلام کے تقریباً تمام قوانین کو دنیا کے عظیم حصے میں نافذ کیا گیا ہے۔

معتبرین یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کسی سبب کے دریافت ہونے سے اس عمل کے اصل مقصود کا باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتے کہ ضمیر کی یہ آواز ایک اجتماعی عادت ہے اور آہستہ آہستہ انسانی نفس میں راسخ ہوئی تو اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوگی کہ ضمیر کی آواز بے معنی عمل ہے یا حکمت سے بالکل خالی ہے یا اس کا کوئی منبع موجود نہیں ہے۔

باب ۲۹

چند اہم گفتگوئیں

(۱) کیا خدا کا وجود منطقی طور پر ثابت کیا جاسکتا ہے؟

وجود باری تعالیٰ پر دلائل تو دیتے جا سکتے ہیں۔ آیاتِ بینات اور براہین تو کثرت سے دیے جا سکتے ہیں لیکن منطقی ثبوت کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں دیا جاسکتا یعنی اس طرح سے جیسا کہ $۴ = ۲ + ۲$ طالب علمی کے زمانے ایک صاحب بہت شوخی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود پر شوخی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مجھے شرارت سُوجھی ان سے عرض کیا کہ اگر منطقی ثبوت کی ہی بات چل نکلی ہے تو سب سے پہلے ذرا اپنے ذاتی وجود کو ثابت کر دیجیے تو آج شام چلتے ہو جاتے۔

کہنے لگے اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے دیکھ لو سامنے کھڑا ہوں مجھے تم حواسِ خمسہ سے محسوس کر سکتے ہو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کیا میرے وجود میں کوئی شک ہے؟

میں نے کہا جی ہاں شک ہے، پہلے تو یہ ثابت کیجیے کہ اس وقت آپ جاگ رہے ہیں اور خواب کے عالم میں نہیں۔ اور نہ میں خواب کے عالم میں ہوں۔ اس لیے کہ بہت دفعہ خواب کے عالم میں بھی ایسا ہوا کہ ہم نے بہت یقین کے ساتھ کسی چیز کو بطورِ ثبوت کے پیش کیا حالانکہ وہ سب کچھ خواب ہی تھا، اور کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اپنی ذات کا وجود بھی اُس جگہ پر نہیں تھا یہاں تک کہ یہ بھی ہوا کہ ہم نے خواب میں اپنے خواب تک کو بیان کیا ہے۔

اس پر وہ صاحب چکرا گئے، کہنے لگے میں تمہیں ایک گھونٹہ رسید کرتا ہوں تمہیں خود ہی

پتہ چل جاتے گا کہ میں موجود ہوں یا نہیں۔

دو لوگ فیصلہ

وجود باری تعالیٰ سے متعلق بے شمار دلائل دیتے جاسکتے ہیں مگر آیتے ایک نیا اسلوب اختیار کریں۔ وہ لوگ جو وجود باری تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے منکر ہیں، ان دونوں کی پوزیشن کا الگ الگ جائزہ لے لیا جاتے، بات خود بخود کھل جاتے گی۔

۱۔ وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کو دراصل وجود باری تعالیٰ کی طرف دعوت دی، نبوت کا دعویٰ لے کر آتے، یہ دعویٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، انتہائی قرب، نامہ و پیام اور مناجات حقیقی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بات وہ کسی انداز سے اور ظن و تخمین کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے بلکہ انتہائی واضح ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں جو غیر متزلزل یقین و ایمان لیے ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس وہ لوگ جو وجود الہی کے منکر ہیں، ان کے پاس اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ان کے پاس عقل کے علاوہ کوئی اور یقینی ذریعہ علم بھی نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات سمجھ میں آجاتی ہے مان لیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے افکار انہیں زیادہ سے زیادہ ظن و تخمین تک لے جاتے ہیں، انہیں خود بھی اپنے افکار پر غیر متزلزل یقین حاصل نہیں ہے۔

۲۔ وجود باری تعالیٰ کے حامی لوگ راہبیا علیہم السلام، مختلف زمانوں اور مختلف جگہوں پر آتے ہیں۔ کوئی عرب میں، کوئی مصر میں، کوئی ہزار سال پہلے، کوئی ہزار سال بعد، لیکن سب لوگ اپنے دعوے میں یک زبان ہیں، ان کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر ایک جیسی ہیں گویا کہ وہ سب

میں نے کہا کہ خواب میں بھی کتنی مرتبہ گھونٹے بازی ہوئی ہے۔ لیکن وہ خواب ہی ہوتا ہے، نہ گھونٹے کا وجود ہوتا ہے اور نہ گھونٹے مارنے کا۔

کہنے لگے کہ میاں یہ دیکھو کہ آیا زیادہ قابل ترجیح بات کیا ہے کہ میں موجود ہوں یا نہیں، یعنی (Most probable) کیا ہے۔ میں نے کہا اب تم راہ پر آتے پہلے تم ثبوت مانگ رہے تھے، اب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ دلیل دو۔ اب تم دلیل کی طرف آگے ہو اور مختلف باتوں میں ترجیح ڈھونڈ رہے ہو۔ یہی کام ہم وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ توفیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مختلف باتوں میں سے کون سی بات قابل ترجیح ہے لیکن کسی بات کا قطعی منطقی ثبوت دینا ناممکن ہے یہی بات علامہ اقبالؒ نے فرمائی کہ

تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود

میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود ترا

واضح رہے کہ فلسفہ کی تاریخ میں فلسفیوں کو یہ بات ثابت کرنے میں بہت مشکل پیش آئی کہ ان

کا وجود ہے یا نہیں۔ فلسفی اور ریاضی دان رینے ڈیکارٹ (Descartes) نے اپنے وجود کے

حق میں یہ دلیل دی کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں۔ Cogito Ergo sum

حقیقت یہ ہے کہ ثابت تو اپنے وجود کو نہیں کیا جاسکتا، کجا یہ کہ کسی اور چیز کا منطقی ثبوت

لائیں۔

۲۔ کیا خدا کے بائیں ہتھ پائی جاسکتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔

ایک صاحب نے کچھ اس طرح کا سوال مجھ سے کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نانا

میں کس جگہ پر ہے۔ مجھ سے گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی ان کا جملہ یہ تھا:

"Can you locate God in the universe"?

میں نے ان کے سوال کو احمقانہ سمجھتے ہوئے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر انگریزی

ایک ہی ذریعہ تعلیم سے مستفید ہو کر آتے ہیں۔

اس کے برعکس منکرین وجودِ باری تعالیٰ ہمیشہ مختلف الخیال رہے ہیں۔ خواہ قریب قریب رہتے ہوں یا دور دور، ایک ہی زمانہ میں ہوں یا پہلے اور بعد، سب کے نظریات باہم دگر مختلف ہیں۔ آپس میں کوئی اتفاق نہیں۔

۳۔ اول الذکر حضرت انسیاء نے ایک مرتبہ جو بات کہہ دی، زندگی بھر کے لیے وہی تعلیم ٹھہری، اس میں کبھی تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، ان کی ہر بات ایمان و یقین کا بل لیے ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس منکرین وجودِ باری تعالیٰ مختلف مسائل میں اپنی راستے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان میں تبدیلی راستے کی مثالیں بے حد کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان کے اکثر مفکرین کا حال یہ ہے کہ کل تک جس نظریہ کو پورے زور کے ساتھ پیش کر رہا تھا، آج اس نے اپنے پہلے نظریہ کی تردید کر دی اور ایک نیا نظریہ پیش کر دیا۔

۴۔ داعیان وجودِ باری تعالیٰ اپنے کردار یعنی راستبازی، امانت، صداقت، حسن خلق ہر چیز میں اپنے معاشرے کے ممتاز ترین انسان ہیں، جس بات کی تعلیم دیتے ہیں، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔

اس کے برعکس منکرین وجودِ باری تعالیٰ کردار کے معاملے میں اول الذکر حضرات کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ جن نظریات کا پرچار انہوں نے کیا وہ خود اس پر عمل نہیں کر سکے۔

داعیان وجودِ باری تعالیٰ اس دنیا میں اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے درمیان بھی انتہائی کامیاب زندگی گزارتے رہے ہیں۔ بظاہر تکالیف کے باوجود انتہائی مطمئن، انتہائی ایشیا پریشہ اور آخر کار لوگوں میں انتہائی معزز اور دانشمند ترین انسان کہلاتے۔

اس کے برعکس منکرین وجودِ باری تعالیٰ تمام دنیوی آسائشوں کو حاصل کرنے کے باوجود

To my mind it does not appeal.

میں کہا :

ترجمہ :- کہ ”یہ بات میرے ذہن کو قابل قبول نہیں ہے“

مجھے موقع مل گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ mind کا لفظ اکثر استعمال کیا کرتے ہیں ذرا مجھے آپ بتاسکیں گے کہ آپ کا mind آپ کے جسم میں کس جگہ موجود ہے۔

Can you locate your mind in your body?

کہنے لگے کہ یہ تو بہت آسان ہے، میں اپنے جسم کے کسی حصے پر بھی ہاتھ رکھ دوں وہ میرا mind ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ بات درست نہیں کہی، آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ ہاتھ ہوگا Mind نہیں ہوگا۔ پاؤں کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پاؤں ہوگا mind نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سر جتنی کہ آپ کی بھی آپ کا mind آپ کی شخصیت اور آپ کا ذہن نہیں کہا جاسکتا۔ کہنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے۔

میں نے کہا کہ جب آپ اپنے جسم کے آثار mind کو اپنے جسم کے اندر نہیں بتا سکتے کہ یہاں ہے تو پوری کائنات کے آثار کی جگہ کا کس طرح تعین کر سکتے ہیں؟

When you can not locate your own mind in your own

body, how can you locate the mind of universe in

the universe?

ترجمہ : جب تم اپنے ذہن کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ تمہارے جسم میں کس جگہ موجود ہے تو تم پوری کائنات کے خدا کے بارے میں کس طرح یہ طے کر سکتے ہو کہ وہ نلال

جگہ پر موجود ہے۔ ”وہی اصل مکان و لامکان ہے

مکان کیلئے ہے اندازیاں ہے

خضر کیونکر بتاتے کیا بتاتے

اگر ماہی کہے دنیا کہاں ہے (اقبال)

بھی انتہائی پریشان حال اور ناکام انسان نظر آتے ہیں۔ ان میں بہت سے مفکرین ایسے ہیں جنہوں نے دنیا سے تنگ آکر خودکشی کر ڈالی۔

۷۔ اول الذکر کے بارے میں تاریخِ انسانیت یہ متفقہ فیصلہ سناتی ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے ہی انسانیت کو متاثر کیا، سب سے اہم اصلاحی انقلاب انہی کی بدولت آئے اور اسی وجہ سے جریدہ عالم پر ان کا دوام ثابت ہے۔

اس کے برعکس مُنکرینِ وجودِ باری تعالیٰ کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔ انسانیت نے ان کی تعلیمات سے کوئی گہرا اثر نہیں لیا اور نہ وہ کسی اہم اصلاحی انقلاب کا باعث ہوتے ہیں۔

اب اگر ان تمام نکات کو سامنے رکھا جائے تو عقلِ سلیم بلا جھجک اول الذکر فریقِ دو اعیانِ وجودِ باری تعالیٰ کے حق میں فیصلہ دے دیگی۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اتنے عاقل، پاک سیرت اور صادق القول آدمیوں نے متفق ہو کر آج تک کسی دوسرے نظریے کی تائید اتنی قوت اور یقین و ایمان کے ساتھ نہیں کی ہے۔

مزید برآں یہ کہ ایسے پاکیزہ سیرت اور اتنے کثیر التعداد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دعوے پر متفق ہو جانا کہ ان سب کے پاس ایک غیر معمولی ذریعہ علم ہے اور وہ ہے وحی یعنی اللہ تعالیٰ سے براہِ راست نامہ و پیام۔ اور پھر ان سب حضرات کا ایک ہی دعوت دینا، ایک ہی تعلیم کا پرچار کرنا، اور اس کے لیے انتہائی شدید ذہنی برداشت کرنا، حتیٰ کہ اس راہ میں جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ کوئی ہزار میل مشرق میں ہے، کوئی ہزار میل مغرب میں۔ کوئی ہزار سال پہلے، کوئی ہزار سال بعد، لیکن ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت، ایک ہی تعلیم، وہی توحید، وہی آخرت کا عقیدہ، وہی حسن اخلاق کا پرچار!

کیا یہ محض اتفاق ہی اتفاق ہے، یہ بات تو صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو!

۳۔ اگر خدا کہیں سے نکل آیا تو؟

سول سرو سز اکیڈمی لاہور میں ایک مرتبہ کھانے کی میز پر وجود باری تعالیٰ پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک صاحب نے خوبصورت بات کہی کہ بھتی میں تو خدا کو اس لیے مان لیتا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے اور کفار کے انجام میں خاص فرق نہیں ہے اور اگر وہ کہیں سے نکل آیا تو پھر کیا کر گے اس لیے خیر اسی میں ہے کہ اس کا وجود مان لو اور جس قدر ہو سکے اس کی اطاعت کیے جاؤ۔

یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک مُنکرِ خدا سے کہی۔ آپ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے تو مرنے کے بعد جو تمہارا انجام ہو گا وہی ہمارا بھی ہو گا۔ لیکن اگر ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق خدائی الواقع موجود ہوا تو ہم انشاء اللہ جنت میں جائیں گے اور ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور تم ہمیشہ ہمیش کی نامرادی و ناکامی کا شکار ہو گے اور دوزخ کا ایندھن بنو گے۔

خدا کو کس نے پیدا کیا؟ ایک چمکانہ سوال!

اس سوال کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اب ایک اور زاویہ نظر سے ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال بذاتِ خود اپنے اندر استحالہ عقلی لیے ہوتے ہے اور اپنی تردید آپ **Self contradiction** کا ایک مظہر ہے۔ وہ یوں کہ اس طرح کا سوال تو خدا کے بارے میں کیا جا رہا ہے لیکن خدا کی اصل صفت کہ وہ خالقِ اول ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اس میں سے بڑا ہی گتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا کے بارے میں نہیں، خالقِ اول اور علتِ اولیٰ کے بارے میں نہیں بلکہ غیر خدا، غیر خالقِ اول یا مخلوق کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔


یہ بات اپنی جگہ پر استحالہ عقل ہے کہ خدا بھی ہو اور مخلوق بھی خالق بھی ہو اور اسے کسی نے

استدلال قرآنی

قلب و نظر کی زندگی
 روشن جمال یا سے ہے انجمن تمام !
 قرآن مجید کا طرز استدلال (وجود باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل قرآنیہ)

قرآن کا تصورِ خدا دیہود، ہنود، نصاریٰ اور مجوسیوں کا تصورِ خدا اور اس کا ابطال،
 دہندہ اور خدا کے درمیان رشتہ محبت، بعض اسماء و صفاتِ الہیہ
 کی شرح،

اعجازِ قرآنی - قرآن مجید کے حیران کن سائنسی انکشافات -
 چند اہم پیشین گوئیاں جو پوری ہوئیں - (اعجازِ نبوی کا زندہ ثبوت)



پیدا بھی کیا ہو۔ یہ جملہ کہ ”خدا کو کس نے پیدا کیا“ اپنے اندر خود اپنی تردید لیے ہوتے ہیں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ میں کسی سفید براق کپڑے کی طرف اشارہ کر کے یہ کہوں: ”یہ سیاہ رنگ کا کپڑا کتنا خوبصورت ہے۔ یہ سیاہ رنگ کہاں سے کروایا؟“
 سننے والا یہی کہے گا کہ میں اپنی نظر ٹھیک کر واؤ، یہ کپڑا سیاہ نہیں بلکہ سفید ہے۔ سیاہی کی صفت اس سفید و براق کپڑے میں تم نے خواہ مخواہ شامل کر دی ہے اور اس کی اصل صفت کہ وہ سفید ہے تم نے مٹا دی ہے۔ غالباً تم اس کپڑے کی نہیں، کسی اور کپڑے کی بات کر رہے ہو۔
 یا اس کی مثال یوں ہے کہ میں کتابوں کی دکان پر جا کر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے یہ پوچھوں کہ ”یہ کون سے کیا بھاؤ ہیں؟“

اب ظاہر ہے میں نے کتاب پن کی صفت ہٹا کر ”کوئلہ پن“ کی صفت شامل کر دی ہے اور میرا سوال اپنی جگہ پر بے عمل ہے کیونکہ ایک ہی چیز بیک وقت کتاب اور کوئلہ نہیں ہو سکتی۔ بالکل اس طرح سے ایک ہی ہستی بیک وقت خدا اور مخلوق نہیں ہو سکتی۔ خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے پیدا کیا، خدا میں سے خالق اول کی صفت ہٹا کر، اسے مخلوق قرار دے دینے کے مترادف ہے۔ اب یہ سوال کہ ”خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا کے بارے میں نہیں بلکہ فی الحقیقت مخلوق کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔“

اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی میز پر ایک کتاب رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کمرے میں لوٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتاب میز پر موجود نہیں ہے بلکہ میز کی دراز میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو لازماً یہ یقین آ جائے گا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی شخص آیا ہے جس نے کتاب کو میز سے اٹھا کر دراز میں رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی جگہ سے خود حرکت نہیں کر سکتی۔
 اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے کمرے میں ایک صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے

قلب و نظر کی زندگی

قرآن مجید انسان سے قلب و نظر کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ اسے اس کے اپنے نفس، اپنے دل و جان کے بھروسوں میں نظر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

”وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“

ترجمہ: ”تم اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھ لو۔ کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟“
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
اور سہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں
وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں

حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر کچھ دیر کے لیے اپنے فکر کو ہر مصنوعی بندھن سے آزاد کر دے اور اس سوچ میں پڑ جائے کہ اس کی فطرت سلیم اس سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے دل میں کیا کیا آرزوئیں اُمنگیں اور ارمان چل رہے ہیں کیا یہ سب اسی قابل ہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا گلا گھونٹ دیا جائے اور اپنے آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ فطری آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہو سکتیں؟

انسان خود بھی حسین ہے اور حسن پرست بھی ہے۔ وہ جمال یار کے اظہار کے لیے فن کی دنیا میں نام پیدا کرنا چلا آیا ہے۔ یہ حُسن ہے کیا؟ پھر حسن سے اس قدر والہانہ محبت کا جذبہ! یہ سب کیا ہے؟ اس قدر حسین کائنات کہاں سے آگئی؟ اگر یہ بھی کسی فن کار کی تخلیق ہے تو وہ فن کار کس قدر حسین ہوگا؟ آئیے کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کے اس تقاضے پر عمل کر لیں۔ اپنے من میں ڈوب جائیں۔ انسانی فطرت کے تقاضوں پر غور کریں۔ حُسن و جمال کی باتیں کریں۔ شاید اسی دوران اس پردہ نشیں کا سراغ

تھے کچھ دیر کے بعد آپ کمرے میں دوبارہ آتے تو وہ بستر پر بیٹھے ہوتے نظر آتے ہیں۔ ان کی اس نقل مکانی پر آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوگی اور نہ یہ خیال آتے گا کہ ضرور کوئی اور شخص اس کمرے میں آیا ہے جس نے پہلے شخص کو کرسی سے اٹھا کر بستر پر بٹھا دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس شخص کی اس صفت کو جانتے ہیں کہ وہ از خود کرسی سے بستر پر منتقل ہو سکتا ہے۔ اور اس عمل کے لیے اسے کسی اور شخص کی حاجت نہیں ہے۔

اب اس دوسرے نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے اور ہمارے ساتھ ذرا اور آگے بڑھیے۔ ہم جانتے ہیں کہ مادی کائنات کی حقیقت اس کتاب سے ملتی جلتی ہے جو نہ خود حرکت کر سکتی ہے اور نہ اپنے کو پیدا یا فنا کر سکتی ہے۔ اس کی تخلیق، تنظیم، ترتیب اور بقا کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک کتاب یا کسی مادی شے یا پوری مادی کائنات کی یہ صفت ہے کہ وہ از خود نہ حرکت کر سکتی ہے نہ عمل تخلیق۔ تو طے ہوا کہ اس کائنات کا وجود خالق و باری تعالیٰ کے بغیر تصور میں نہیں لایا جاسکتا۔

خدا کا وجود مان لینے کے بعد فوراً خدا کی صفات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفت کمال یہ ہے کہ وہ سب کا خالق ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ از خود موجود ہے اور اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب یہ اس کے بنیادی صفت ٹھہری کہ کوئی اس کا خالق نہیں ہو سکتا تو یہ سوال اپنی جگہ پر انتہائی لغو ہے کہ "اسے کس نے پیدا کیا؟"

ہم نے دیکھا کہ ایک انسان میں کرسی سے منتقل ہو کر بستر پر جا بیٹھنے کی صفت موجود ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ اس شخص کو کرسی سے بستر پر کس نے منتقل کیا پھر جب خدا کی صفت اصلی یہ ہے کہ وہ کسی کا پیدا کردہ نہیں ہے، تو یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ "خدا کو کس نے پیدا کیا؟"

اس سلسلہ میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیں کہ خدا کو کسی اور نے بھی پیدا کیا ہے تو ایک ایسی مشکل میں پڑ جاتیں گے کہ ہمیں واپس آ کر پھر سے یہ فرض کرنا

مل جاتے جو ہماری اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔

سر جے آر تھر تھا من، ایم اے ایل ایل ڈی اپنے مضمون ”عجائبات حیات“ میں لکھتے ہیں :
 ”کائنات میں چار سو سو کھرا پڑا ہے۔ یہ ناچتے ہوئے پھول، یہ مسکراتے ہوئے تارے،
 گنگناتی ہوائیں، مست گھنٹائیں، لہراتی ہوتی بجلیاں، گاتی ہوتی ندیاں، روپہلی چاندنی،
 سنہری دھوپ، خمار آلود شاہیں، سرمئی راتیں، جلوے ہی جلوے، نغمے ہی نغمے، طور کا
 عالم، ایمن کا منظر! یوں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات نے قوس قزح سے رنگینی اور کھکشاں سے
 روشنی مستعار لے لی ہے۔“

(۵۵: ۵)

آن سٹائن لکھتا ہے :

”میری راستے میں حسین ترین چیز وہ ہے جو پراسرار ہو۔ سائنس اور سچے آرٹ کا ناخذ
 یہی ہے کہ جو شخص ذوق تماشا سے محروم ہو، جو بار بار رُک کر اظہار حیرت نہ کرے اور فطرت
 کی لائتہایت سے مرعوب نہ ہو وہ مردہ ہے اور اس کی آنکھیں بند ہیں۔“

(۲۸: ۵)

حقیقت یہ ہے کہ ہر حسین چیز ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کسی تخلیقی ذہن کی
 کار فرمائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان ایک حسین مخلوق ہے۔ شاعروں نے قامتِ محبوب پر نہایت
 خوبصورت شعر کہے۔

جب تک کہ نہ دیکھا تھا تیرا کار کا عالم

میں معتقد تیرے فتنے محشر نہ ہوا تھا (غالب)

مگر قامتِ یار ہرگز قیامت برپا نہ کرتی اگر انسان کی دونوں ٹانگیں برابر نہ ہوتیں۔ اس خلاق
 اعظم کی تخلیقی عظمت کے قربان جاتے کہ دو ٹانگوں میں تو بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہاتھ پاؤں
 کی انگلیاں برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں مقصود کچھ اور ہے۔ اگر ٹانگیں برابر نہ ہوتیں تو انسان

پڑے گا کہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ شکل منطق میں تسلسل دوری کہلاتی ہے۔ ملاحظہ ہو، چند قضیہ
میں بات واضح ہو جاتے گی:-

قضیہ اول: دنیا میں تخلیق کا عمل موجود ہے (ہر گھڑی ہر شخص تخلیق عمل کر رہا ہے)

قضیہ دوم: ہر تخلیقی عمل کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔

قضیہ سوم: ہر خالق کے لیے ایک اور خالق کا ہونا ضروری ہے۔

قضیہ چہارم: یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ یعنی ہر خالق کے لیے دوسرا خالق، اور اس سلسلہ کی کوئی

آخری کڑی نہیں،

قضیہ پنجم: خالق اول کا وجود نہیں ہے۔

قضیہ ششم: تخلیقی عمل کی ابتدا اور اس کا وجود غیر ممکن ہے۔

مگر قضیہ ششم قضیہ اول سے ٹکڑا رہا ہے۔

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قضیہ چہارم میں غلطی سے یہ فرض کر لیا تھا کہ ایک خالق کے لیے

دوسرے خالق اور پھر تیسرے خالق اور اسی طرح اور خالق کا ہونا ضروری ہے اور یہ سلسلہ پلتا جاتا ہے اور

اس کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے۔

یہ مفروضہ غلط تھا۔ یہاں پر صرف یہی فرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک خالق کے بعد دوسرا خالق اور پھر تیسرا

اور پھر چوتھا مگر یہ سلسلہ ضرور بالضرور کہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ تنہا ہی اور محدود ہے اور اس کا ایک

سرا لازماً موجود ہے اور وہی آخری سر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ آخری سرا ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی

ہستی ہو جو خود خالق ہو مگر اسے کسی نے بھی پیدا نہ کیا ہو۔

اگر تخلیقی عمل کی اس زنجیر کا کوئی آخری سرا تسلیم نہ کیا جائے تو تخلیق، حرکت بلکہ خود عالم کے وجود کا

انکار کرنا پڑے گا۔

بے ڈھب ہو جاتا، اور پلنے کے لائق نہ رہتا اور اگر باتھ کی انگلیاں برابر ہو جاتیں تو انسان ان ہاتھوں سے کام نہ کر سکتا۔ انگوٹھا ایک خاص کام انجام دے رہا ہے، چھوٹی انگلیاں کچھ اور کام اور بڑی انگلیاں کچھ اور کام اور مل کے پیچہ ایک اور کام!


قَبَّارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

ایک سائنسدان میرٹھ سٹیٹلے آن ڈان پی ایچ ڈی کہتا ہے:

”کئی سال ہوتے نپلوانیا کے ایک غیر آباد اور سنسان راستے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک جگہ سڑک کے کنارے خوب صورت پھولوں سے لدا ہوا گلاب کا ایک پودا دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی شخص نے بڑے اہتمام سے اسے یہاں لگایا ہے اور بڑی محنت سے اس کی کانٹ چھانٹ کی ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر وہاں جانا ہوا تو پودے کے پاس جھاڑ جھنکار کھڑے تھے۔ قریب ہی ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا اور غیر آباد تھا۔ اب اس بات کا تو کوئی امکان نہیں کہ ٹول کہا جاتے کہ اس گلاب کا بیج یا بیجی ہوا کے ذریعے ارکریا پانی میں بہ کر خود بخود آگئی ہوگی جس نے یہاں آکر جڑ پکڑ لی تھی یا کسی پرندے کی بیٹ یا چوہے کی منگنیوں کے ذریعے اس کی تخم ریزی ہوگئی ہوگی۔ میرے وجدان نے کہا کہ یقیناً کبھی یہاں کوئی خوش ذوق آدمی آکر رہا ہوگا، اس نے اپنا مکان بنایا، گلاب کا پودا لگایا، اس نے اس کی دیکھ بھال اور کانٹ چھانٹ کی، حالانکہ نہ تو یہ جھاڑیاں میرے سامنے لگیں نہ گلاب کا پودا میرے سامنے لگایا گیا، مگر ذوق شہادت دیتا ہے کہ کسی نے اس کو لگایا ضرور تھا۔ یہ کسی انسان کے ذہن کی کار فرمائی تھی۔ میں یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا کہ گلاب کا پودا خود بخود لگ گیا ہو اور خود بخود صفائی ہوگئی اور پھر خود بخود سب کچھ آج کر اس کی جگہ جھاڑی آگئی۔ جو شخص ایسا کہے میں اسے عقل سے خارج قرار دوں گا، میں اسے بے عقل قرار دوں گا۔“ (۶: ۸۷)

جرمن فلسفی کانٹ کہتا ہے:

”دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے خدا کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک تو میرے



اندر ضمیر کی الہامی آواز اور دوسری رات کے وقت تاروں بھرے آسمان کا منظر“
 سرفرانسینینگ، سبید ڈاکٹر آف سائنس اپنے مضمون ”اسرارِ فطرت“ میں لکھتے ہیں:
 ”جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ زمین کھولتے ہوئے سورج سے نکلی تھی تو ان بے پناہ
 تبدیلیوں پر حیرت ہوتی ہے جن کی آخری کڑی دامن کوہ کا ننھا سا رنگین پھول تھا۔ یوں معلوم
 ہوتا ہے کہ کسی غیر مرئی طاقت نے ناپتے ہوئے شعلوں کو رام کر کے سُکراتے ہوئے پھولوں
 میں بدل دیا۔۔۔۔۔“

ہم سائنس سے پوچھتے ہیں کہ کیا سائنس میں دانش اعلیٰ کا تصور ایک غیر سائنسی فریب ہے۔
 قطعاً نہیں۔ جب سائنس ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وادیِ تبت کا ننھا سا پھول کسی وقت بھڑکتے
 ہوئے سورج کا شعلہ تھا تو اسے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سورج کے شعلے سے پھول تک کا طویل
 سفر کسی راہ نما کی نگرانی ہی میں طے ہوا ہوگا ورنہ ایک شعلے میں اتنی دانش کہاں کہ وہ
 ہزاروں انقلابات سے گزر کر از خود پھول کی ہیئت اختیار کرے۔ سائنس جوں جوں
 آگے بڑھتی ہے یہ سوال بھی اہمیت اختیار کرتا جاتا ہے کہ پس حجاب کون ہے اور کیا
 کر رہا ہے۔۔۔۔۔

پھول کا پودا بیج سے نکلتا ہے۔ بیج میں پودے کا پلان اور نقشہ اسی طرح موجود ہوتا
 ہے جیسے معمار کے پاس کسی عمارت کا نقشہ ہو۔ جیسے معمار ہیر اینٹ اس نقشے کے مطابق
 رکھتا ہے اسی طرح کوئی غیر مرئی ہاتھ کائنات کی اینٹوں یعنی خلیوں کو پلان کے مطابق ترتیب
 دیتا ہے۔ خود خلیے اتنے دانشمند نہیں ہیں کہ کہیں سے ترتیب اور نزاکت رنگ اور خوشبو
 مانگ کر از خود گلاب کا پھول بن جائیں۔ بیج میں پھول کا پلان اسی طرح وارد ہوتا ہے،

جیسے کون و مکان میں خالق کائنات کا ارادہ“ (۵: ۳۴)

امریکہ کے ایک شاعر وائٹ مین والٹ (Whitman Walt ۱۸۱۹-۱۸۹۲ء) نے ایک

م میں کہا تھا:

حصہ ہفتم

التوحید

— توحید کی تین قسمیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت

یا توحید عبادت

— حقیقتِ شرک - شرک کی قسمیں، عبادتِ طاغوت

— اسبابِ شرک -

— مشرکین مکہ اور موجودہ دور کے مشرکین کا تعاقب

— لا الہ الا اللہ کا مطلب

لا معبود الا اللہ

لا محبوب الا اللہ

لا منتصرف فی العالم الا اللہ

لا مرجوح الا اللہ

لا مخوف الا اللہ

— وسیلہ اور توسل، امام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ اور امام قدوری کی آراء،

— فضیلتہ الشہادتین، (کلمہ شہادت پر ایمان لانے کی اہمیت)

— نواقض الشہادتین (وہ امور جو ایمان کے ختم ہو جانے کا باعث ہیں)

— کتابیات

”کائنات میں گھاس کی پتی کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کسی ستارے کی شعلہ کو۔ میرے
ہاتھ کا ایک جوڑا انسان کی بنائی ہوئی ہر مشین سے بہتر ہے۔ یہ سر جھکا کر چلنے والی گائے ہر
مجھے سے حسین تر ہے۔ ایک چھوٹی یا چوہے کی تخلیق اتنا بڑا اعجاز ہے کہ اگر دنیا کے
ملاحظہ اس پر غور کریں تو کروڑوں ایمان لے آئیں۔“

(۵۲: ۵)

التوحید

الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ
واصحابہ اجمعین۔

انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے۔ جتنے انبیاء اور
رسول انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سب نے توحید کی دعوت دی ہے لیکن اس کے باوجود وہ
مسئلہ جس میں انسانیت نے سب سے زیادہ کوتاہی کی ہے، وہ توحید ہے۔

توحید کی تین قسمیں

انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا چلا آیا ہے اسے خالق، رازق اور مالک سمجھتا رہا ہے لیکن اس
کے ساتھ ساتھ وہ اس کی الوہیت میں کسی نہ کسی درجہ شریک ضرور کرتا رہا ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم توحید
کے موضوع پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔

توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت (عبادت)

۱۔ توحید ربوبیت

توحید کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے وجود پر ایمان اور اس کے تنہا رب ہونے کے اقرار
پر مشتمل ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات، افعال، قضا و قدر اور حکمت کا اقرار کرنا اور اسی کو توحید

روشن جمال یا سے ہے احسن تمام

یہ سوال تو ہم بار بار اٹھا چکے ہیں کہ کائنات میں ہر سو کبھرا ہوا حسن کسی عظیم فن کار کے تخلیقی فن کی نمود ہی ہو سکتا ہے۔ آئندہ سطور میں بھی ہم اس بے پایاں حسن کی نیرنگیاں اس انداز میں بیان کریں گے جسے قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے۔ یہی وہ آیات بینات ہیں جنہیں دیکھنے والی آنکھ جب دیکھتی ہے تو اس کے حسن میں ڈوب کر خالی حسن کی تلاش میں لگن ہو جاتی ہے۔ صاحب بصیرت آنکھ ہر فن پارہ حسن میں احسن الخالقین کے تخلیقی ہاتھ کا مشاہدہ کرتی ہے اور اس کی محبت میں ڈوب کر پُریم ہو جاتی ہے۔

ہر صاحب بصیرت شخص جب اس کائنات کے حسن، نیرنگی اور نعمتوں سے لبریز خوانِ کرم کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہی دل کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے احساسات، جذبات اسے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔

حُسنِ انزل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود
دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں

یہاں بطورِ تجملہ معترضہ ہم ایک سوال اور بھی کریں گے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جذبات کے اس سمندر کا منبع و مصدر کیا ہے؟ انسان میں محبت، نفرت، عشق، ہجر و فراق، قرب و وصال، امید، ہراس، یاس، خوف اور یہ سب ترپنے پھرنے کی کیفیات کہاں آگئیں۔ کیا ان کا منبع الیکٹران اور پروٹان ہیں اور بس! کیا اس سے بہتر کوئی اور مصدر تصور میں نہیں آتا؟

قرآن مجید میں تو اس سوال کا سیدھا سا وہ جواب موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب مشاعر، احساسات و جذبات اور نیکی و بدی کے تصورات اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں الہام فرمادیتے ہیں۔ روح کیا ہے وہ بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔

”کہدو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے“

قُلِ النَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

”میرے رب کا امر ہے، میرے رب کی شان سے“

(الاسراء: ۸۵)

۲۶۶
علمی و خبری بھی کہتے ہیں۔

یعنی یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، خالق اور رازق ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، معرفت وہی بے قرار کی دُعا سنتا اور قبول کرتا ہے، کائنات کا ہر کام وہی چلاتا ہے، سب بھلاتی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

”قَالَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“

”پھر اس نے انسانی نفس کو، بُرائی اور نیکی کی

(الشمس: ۸)

دونوں راہیں سمجھادیں“

”وَهَدَيْنَاهَا النَّجْدَيْنِ“ (البلد: ۱۰)

”اور ہم نے اسے دونوں رستے بتا دیئے“

”وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“

”ہم نے تم میں محبت و دوستی، اور رحمت

(الزوم: ۲۱)

ڈال دی“

اب اگر کسی کے ذہن میں اس جواب سے بہتر کوئی جواب ہے تو بیان کرے، اہل علم اور اہل دل خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔

اس سلسلہ میں ایک مثال پیش خدمت ہے:

فرض کیجئے کسی صحرا کے وسط میں ایک شاندار محل تعمیر کیا گیا ہے۔ محل میں رہنے والے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک دیہاتی جس نے کبھی نچتہ تعمیر شدہ مکان نہیں دیکھا، کسی غار سے نکل کر اس محل میں جا پہنچتا ہے۔ وہ اس محل کی تعمیر اور اس کے نقش و نگار پر حیران رہ جاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ یہ محل کس طرح تعمیر ہوا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک دیوار پر پڑتی ہے جس پر محل کی تعمیر کا پورا پلان موجود ہے۔ نقشہ، فارمولا اور ہر وہ چیز جو محل کی تعمیر میں استعمال ہوئی، اس کی تفصیل اور ترکیب دیوار پر درج ہے۔

یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ دیہاتی اپنی جگہ مطمئن ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نقشہ اور اس سالہ نے محل کو جنم دیا، فلاں فلاں قوانین طبعی اور فلاں فلاں فارمولے استعمال ہوئے اور محل وجود میں آ گیا۔

محل کی ساخت، ترکیب، تنظیم، قوانین تعمیر، قوانین طبعی اس دیہاتی کو اس قدر حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اتنی ساری معلومات اچھی طرح مضمّن نہیں کر سکتا۔ اس علمی بد مضمّنی کے سبب اس کا خیال انہی معلومات تک محدود رہتا ہے اور انہی قوانین طبعی اور محل میں استعمال شدہ اینٹوں اور سائے کو ہی محل کا اصل معمار سمجھ لیتا ہے۔ یہ بد مضمّنی اس کے ذہن کو محل کے نقشہ نویس (Designer) اس کے انجینئر، معمار اور مالک کی طرف جانے ہی نہیں دیتی اور اس کی فکر کی بساط صرف وہیں تک رہ جاتی ہے جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا پڑھا۔

توحید الاسماء والصفات

یعنی یہ اقرار کہ تمام صفات علیا اور اسمائے حسنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يَكْفُرُونَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ :-

”سو اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔“

والاعراف : ۱۸۰

”کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔“

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ - (الشوری : ۱۱)

”آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔“

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ
كُفُوًا أَحَدٌ -

اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں۔ اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔“

(سورہ اخلاص)

یہی حال ان مادہ پرست فلسفیوں یا ایک چشم سائنس دانوں کا ہے جو کائنات سے متعلق ناپختہ اور ادھوری معلومات حاصل کرنے کے بعد علمی بدبہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کائنات کے وجود کو مادہ اور قوانین طبیعی کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں اور خالق و مالک کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔

یہ بات ایک اور مثال کے ذریعہ بیان کی جاسکتی ہے۔

فرض کیجئے ہمارے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے۔ جوں ہی ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم پر کتاب کے مصنف کی شخصیت واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کی عبارت میں ادبی رنگ نمایاں ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مصنف ادیب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں حدیث و ندرت نمایاں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مصنف فکر بدیع Original Thinking کا حامل ہے۔ اگر کتاب میں نحو و صرف پر بحث کی گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مصنف نحوی ہے۔ اگر سائنس کے موضوعات زیر بحث ہیں تو ہم اسے سائنس دان شمار کرتے ہیں۔ اگر کتاب میں افکار بے ربط اور غیر معقول ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ مصنف ایک مفکر نہیں ہے۔ اگر کتاب میں افکار سلیمہ موجود ہوں اور بار بار ربط و مدلل بھی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ مصنف ایک مفکر عظیم ہے۔

غرض یہ کہ ہم جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ہر خوبی، ہر حسن اور ہر بات کو کتاب کے صفحات قرطاس کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ کتاب کے مصنف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب آئیے کائنات کی ایک بہت بڑی کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا ہر ورق اپنے مصنف کی کسی نہ کسی صفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کتاب کائنات کے تمام آثار اس کی رحمتوں اور مہربانیوں کی قسم کھاتے ہیں۔ کتاب کائنات کا مصنف ان آثار و آیات کا مطالعہ کرنے کی تمہیں دعوت دیتا ہے:-

”دراے دیکھنے والے، تو خدا کی رحمت کی

فَانظُرْ اِلَىٰ اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ-

نشانوں کی طرف دیکھئے

(الروم : ۵۰)

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کائنات قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، انہی وابدی نہیں ہے بلکہ کسی

نام تو آتا ہے مگر اس کی صفات کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔

عیسائیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کے تجسیم صفات

ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ناقص اور گمراہ کن تصور عیسائیوں کے ہاں ضرور ملتا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے پردے میں تثلیث کو حتم دیا یعنی تثلیث کے اقامت ثلاثہ باپ (خدا) بیٹا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اور روح القدس۔ اللہ تعالیٰ کی تین صفات حیات، خلق اور علم سے عبارت ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں بھی اصل گمراہی کا سبب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجسیم ہے ان کے ہاں ہر صفت نے ایک مستقل وجود حاصل کر لیا۔ ان کے یہاں بھی ایک قسم کی تثلیث پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تین صفات، خالق، مُمیت (یعنی مارنے والا) اور قیوم کی تجسیم، برہما، ہمیش اور وشنو کے مجسموں کی صورت میں کر دی گئی ہے۔

چین مذہب میں اور خود ہندوؤں کے فرقوں میں خالقیت کی صفت کے تجسیم نے اعضاء متناہل کی پرستش کی گرامی پیدا کی۔ یہ درحقیقت اسماء و صفات کی تجسیم ہی ہے جس کی وجہ سے بت پرستی کی نیت نئی صورتیں پیدا ہوئیں۔

مجوسیوں میں یزدان اور ابرمن کی دوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں ہادی اور مُضَل کو دو الگ الگ مستقل ہستیوں میں منقسم کر دینے کا نتیجہ ہے۔

شُرک فی الصفات اور علم غیب کا مسئلہ

یہ تو تھا اسماء و صفات کی تجسیم اور غلط تعبیر کا مسئلہ جس کا نتیجہ انتہا درجے کی بت پرستی اور بدترین شرک کی صورت میں ظاہر ہوا۔ توحید اسماء و صفات پر ایمان نہ ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات ہیں جن میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کو شریک کر دیا جائے

وقت اس کی ابتدا ہوتی اور اس کی انتہا بھی ضروری ہوگی۔ اس سے پہلے چلتا ہے کہ ضرور کوئی خالق اول ہے جس نے اسے وجود بخشا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں زندہ ہستیاں موجود ہیں۔ ضرور اس زندگی کو پیدا کرنے والا اور اسے برقرار رکھنے والا موجود ہے جسے انجی کہا جاتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ ہستیاں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو موت طاری کرنے والی ہے (المیت)۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ذی ارادہ ہستیاں ہیں جنہیں نیکی و بدی کا شعور عطا ہوا ہے۔ اپنے بھلے و برے کی تمیز، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اسے فوراً یہ بات سمجھادی جاتی ہے کہ ماں کے پستانوں سے پیٹ کر انہیں چوستا شروع کر دو۔ چوسنے کا فن کس نے سکھا دیا؟ ضرور کوئی ہدایت دینے والی ہستی موجود ہے (الہادی)۔

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گھٹیا جذبات کی وجہ سے ضد میں آجاتے ہیں اور ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کوئی ایسی باغیرت ہستی ضرور موجود ہے جو اس ضدی انسان کو ٹھکرا کر ہدایت سے بعید تر کر دی ہے (المضل)۔

کائنات میں ایجاد، جدت، ابتکار یعنی روز نئی نئی اشیاء ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کتاب کائنات کا مصنف فن تخلیق کے ساتھ ساتھ ابداع کا بھی مصدر کامل ہے (بدیع السموات والارض)۔ لوگوں کو مشکل آن پڑتی ہے، ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، وہ اس کائنات کے خالق سے سوال و طلب کرتے ہیں۔ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ضرورتیں پوری کرنے والا ضرور موجود ہے (المجیب)۔ کتاب کائنات کیا ہے۔ رحمتوں، کرم نوازیوں، بخششوں، عطاؤں کا خوان کرم ہے۔ نعمتیں ہی نعمتیں۔ کوئی تو ہے جس نے ان نعمتوں کی ہم پر بارش کر دی (المنعم، المعطی)۔

کائنات کی کوئی چیز حکمت و مصلحت سے خالی نظر نہیں آتی۔ گھاس کا تنکا ہو یا نظام شمسی، ہر چیز مصلحت و حکمت سے بھر پور۔ پتہ چلا کہ کائنات اور ان اشیاء کا پیدا کرنے والا دانش اعلیٰ کا پیکر

مثلاً یہ کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر انبیاء اور اولیاء یا ملائکہ کو علم غیب کی صفت سے متصف سمجھ لیا جائے تو یہ شرک فی الصفات ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد شرک کی اس خطرناک قسم میں گرفتار ہے، یہ لوگ اپنی جہالت کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو علم غیب حاصل ہے۔ ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو برسرِ پیر کا علم بتو ہے بلکہ یہ علم ان کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے لیے انہیں کسی ذریعہ و وسلہ کی محتاجی نہیں۔ یہ لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں "عالم ما کان وما یكون" (جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا) کا علم رکھنے والا، یعنی کلیتہً غلام الغیوب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو حضور کے پاس جبریل کے ذریعہ وحی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے قرآن مجید اس معاملے میں کس قدر وضاحت سے اپنا موقف بیان کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

«وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ» (الانعام: ۵۹)

اور خدا کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا :-
«قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ» (انعام: ۵۰)
«اے پیغمبر کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں :-

«قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» (نمل: ۶۵)

اے پیغمبر! کہہ دے کہ خدا کے سوا آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا :-
وہ لوگ جو انبیاء و اولیاء یا اہل قبور کے صاحبِ تعارف، مختارِ کل اور عالم الغیب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ان کو مندرجہ ذیل آیات پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے ایمان کی صحت کا جائزہ لینا چاہیے :-

قُلْ إِنْ أَمِلْتُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ

ہے (الحکیم، العلیم)۔

پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پوری کائنات ایک نظام وحدت میں پروتی ہوتی ہے۔ اُوپر سے نیچے تک چھوٹی سے چھوٹی چیز ایٹم یا بڑے سے بڑا نظام شمسی سب ایک ہی طرز پر، ایک ہی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کتاب کائنات کو بہت سے مصنفوں نے نہیں وجود بخشا، ایک ہی مصنف ہی ایک (الواحد، الاحد)

آئیے اس کتاب کی مزید ورق گردانی کریں۔ قرآن مجید میں کتاب کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہی آثار ہیں، یہی آیات انفس و آفاق ہیں۔ اُردو کے دائرۃ المعارف میں انہیں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائیے:

لَا تَكْتُمُونَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّرْكَانَ أَنَا الْأَنْذِيرُ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(الاحقاف: ۱۸۸)

”آئے نبی تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھنے کا اور بڑے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو سب کچھ بھلا تیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو۔“

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكْفُرَانِ أَنِّي إِلَّا مَا يُدْعَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا أَنْذِيرٌ مُّبِينٌ (الاحقاف: ۱۹)

”ان کے کہو نہیں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔“

یہی حال اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا بھی ہے کہ لوگ اس میں بھی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اور شرک فی الصفات والا ساس کے مرتکب ہوتے ہیں۔

علم غیب کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ ہاں اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہے جب بھی جتنا چاہے اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام گھر کے قریب کنوئیں میں پڑے رہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو اور اگر وہ چاہے تو اسی بیٹے کی قمیض کی خوشبو مصر کے کنعان پہنچا دے۔ وہ چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیڑھ ہزار سال بعد پیش آنے والے واقعات کا علم عطا کر دے اور چاہے تو انہیں ان کی اپنی محبوب بیوی عائشہ کے بارے میں پورے ایک ماہ تک صحیح صورت حال معلوم نہ ہو سکے یہاں تک کہ سورہ نور کی آیات نازل ہوتیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت پر مہر قرآن ثبت ہوئی۔ بالفاظ دیگر علم غیب کسی بھی شخص کی ذاتی صفت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو جتنا چاہے علم عطا فرما دے۔

اور یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور شانِ خَلْقِی کے مظاہر، جو اس کی معرفت میں ہماری رہنمائی کریں گے، اس لیے کہ ان سب کی تہ میں اسی کی مشیت کام کر رہی ہے، لہذا ضروری ٹھہرا کہ ہم ان کے مطالعے میں اس بہت بڑے انعام، یعنی استعدادِ علم سے کام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا اور جس کا تقاضا ہے فکر و نظر، تجربہ اور مشاہدہ، تحقیق و طلب، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن سے علم میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ لحظہ بلحظہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم زمین اور آسمانوں کی پیدائش پر غور کریں گے (۳ [آل عمران]: ۱۹۱)، زمین کے پھیلاؤ اور پہاڑوں کی اونچائی پر، سطحِ ارض پر کہ اس میں کس طرح پہلو بہ پہلو قطعاً بنتے چلے گئے ہیں۔ ان میں انگوروں کے باغ ہیں، غلے کی کھیتیاں، کھجوروں کے جھنڈ۔ کسی کی جڑ کسی سے مل گئی ہے، کسی کی باکل الگ تھلگ، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ بعینہ بار آوری میں بھی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے (الرعد: ۴)۔ ان میں نرو مادہ بھی ہیں اور نرو مادہ کی تفریق سے وہ جوڑا جوڑا بن گئے ہیں۔ پھر کسی کسی چیزیں ہیں جو زمین سے اُگتی ہیں۔ ہری بھری کھیتیاں، دانوں پر دانے، کھجوروں کے گچھے۔ انگور، زیتون اور انار کے باغ، کچھ ملتے جلتے کچھ مختلف۔ پھلوں کا پکنا بھی ایک آیت ہے (الانعام: ۹۸، ۹۹)، اسی طرح پانی کا برسنا، نہروں کا جاری ہونا (الرعد: ۱۷)، کھیتوں کا رنگ لانا، رنگ کا زرد پڑ جانا تا آنکہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتی ہیں۔ (الزمر: ۲۱)۔ پرندے کس خوبی سے فضا میں مُسخر ہیں (العنکبوت: ۱۷)۔ بجلی کونہتی ہے تو انسان اسے خوف و طمع کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے مردہ زمین کو از سر نو زندگی مل جاتی ہے (الروم: ۲۴)۔ پھر چاند، سورج (حُم السجدہ: ۳۷)، اور ستارے، دن اور رات (حُم السجدہ: ۳۷) سایے پھیل جاتے ہیں حالانکہ ساکن بھی رہ سکتے تھے (الفرقان: ۴۵)۔ زمین و آسمان اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہیں (الروم: ۲۴)۔ اور انسان ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا (الدھر: ۱)۔ اسے مٹی اور علقے سے پیدا کیا گیا۔ اس کا سلسلہ نسب چلا (حُم السجدہ: ۸)، اور روتے زمین میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے جوڑا جوڑا پیدا کی (النبا: ۸)، انسان، حیوان، نباتات (طہ: ۵۳)، بلکہ ہر وہ چیز جو زمین سے اُگتی ہے اور ہر وہ چیز بھی جس کا ہمیں علم نہیں (یس: ۳۶)، لہذا مرد و زن پیدا ہوتے اور ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے

توحید الوہیت یا توحید عبادت

اس موضوع پر سب کے اہم بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے ہوتے ہوتے بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے توحید الوہیت پر ایمان نہ نصیب ہو جاتے ہم آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے کہ توحید ربوبیت پہ تو کفار مکہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ ہاں جو بات جھگڑے کا باعث بنی وہ توحید الوہیت تھی۔ اور زمانہ ماضی میں بھی تمام انبیاء اور ان کے مخاطبین کے درمیان جو بات اصل محل نزاع رہی وہ توحید الوہیت ہی تھی اس لیے کہ اس توحید کا تعلق بندوں کے ان افعال سے ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً دعا، نذر، قربانی، امید، خوف، توکل، رغبت، رجوع اور محبت۔ یہ سب کے سب اعمال عبادت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہونے چاہئیں اور ان میں پیروی بھی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے یہی توحید الوہیت ہے۔

توحید الوہیت کی شرح میں شیخ سلیمان بکھتے ہیں :-

”توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور تامل کی تمام اصناف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لی جائیں اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ محبت ہو تو صرف اللہ سے، خوف ہو تو صرف اسی سے، توکل ہو تو صرف اسی پر، امید و بیم ہو تو صرف اسی سے۔ اس میں کسی غیر کو شریک نہ ہونے دیا جائے یعنی عبادت کی ساری قسمیں خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، بلا شرکت غیر سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مختص کر لی جائیں۔ ان میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے خواہ وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل۔ رہ گئے اولیاء صلحاء اور اہل قبور تو ان کا تو ذکر ہی کیا یہی وہ توحید ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی مندرجہ ذیل

وجہ تسکین ٹھیرا۔ ان کے دلوں میں رحمت اور مودت پیدا کر دی گئی (الروم: ۲۱)۔ ہم نفس واحد سے پیدا ہوتے (النساء: ۱)۔ یہ سب اس کی آیات ہیں۔ ہمارے رنگ اور زبان کا اختلاف اس کی آیت ہے (الروم: ۲۲)۔ ہمارے دلوں میں اس کی آیات ہیں۔ اہل یقین کے لیے کرۂ ارض میں ہر کہیں اس کی آیات ہیں (الذاریات: ۲۱)۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان میں زندہ ہستیاں پھیلا دیں (الشوریٰ: ۲۹)۔ اسے یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ ان سب کو باہم جمع کر دے (الشوریٰ: ۲۹)۔ اس نے جسم حیوانی کی کثافت اور خون ہی کے درمیان سے دودھ ایسا دل پسند مشروب پیدا کیا (النحل: ۶۶)، کھجوروں اور انگوروں سے نشہ اور کھلنے پینے کی عمدہ عمدہ چیزیں پھر شہد کی مکھی سے کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھرباتی اور طرح طرح کے پھول کارس چوستی ہے۔ رنگا رنگ کا شہد ملتا ہے۔ شہد میں ہمارے لیے شفا ہے (النحل: ۶۷-۶۹)۔ ہم اپنی غذا ہی کو دیکھیں۔ پانی برستا ہے، زمین شق ہو جاتی ہے۔ اس میں سے بیج پھوٹتا ہے۔ غلہ پیدا ہوتا ہے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوروں اور میوہ اور گھاس، یہ سب ہماری متاع ہیں (عبس: ۲۳-۲۴)۔ سمندر سے تازہ ترین گوشت ملتا ہے، زینت کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کشتیاں اسے چیرتی ہوتی نکل جاتی ہیں تاکہ ہمیں سامانِ رزق میسر آتے اور پھر زمین ہے کہ اس میں رنگ رنگ کی چیزیں بکھری پڑی ہیں (النحل: ۱۳۱)۔ یہ سب اس کی آیات ہیں، مگر کتنی آیات ہیں جن سے ہم اعراض کرتے اور بے خبر گزر جاتے ہیں (یوسف: ۱۰۵)۔ بایں ہمہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات ظاہر کرتا رہے گا، آفاق یعنی عالمِ طبعی میں جو ہماری ذات سے باہر خارج میں واقع ہے۔ اس کے گونا گوں حوادث، موجودات اور تغیرات ملتے ہیں، بعینہ نفس یعنی ہماری ذات اور شعور کے اندر، ہمارے احوال و واردات، افراد و اقوام کی زندگی اور تاریخ کے انقلابات میں (دعۃ السجدہ: ۵۳)۔ دن گزرتے ہیں۔ دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر زندگی ہے اور اس کے نشیب و فراز۔ ان تغیرات کا دوسرا نام ہے تداولِ ایام، جس کا سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کا ہاتھ کہ جسے چاہے اقتدار و اختیار دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت (آل عمران: ۲۶، ۲۷)۔ یوں بھی حیاتِ ارضی کیا ہے، زینت اور لہو و لعب، تفاخر ذات اور نکاثر مال (الحمدید: ۲۰) شہوات، مال و زراورتن و فرزند کی محبت (آل عمران: ۱۴)۔ کیا اس کی یہ مثال نہیں کہ آسمان سے پانی برسا۔ زمین کی پیداوار کہ انسان کی غذا

آیات میں کیا گیا ہے :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - (الفتح: ۴)

”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں“

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ - (سجود: ۱۱۲۳)

”تو آپ اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے اور آپ کا رب ان باتوں سے

بے خبر نہیں جو تم لوگ کر رہے ہو“

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ - (التوبة: ۱۱۲۹)

”پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجیے میرا کیا نقصان ہے میرے لیے تو اللہ کافی ہے

اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری

عرش کا مالک ہے“

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ

لَهُ سَمِيًّا - (مریم: ۶۵)

”وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں

ہیں سو تو اس کی عبادت کیا کر اور اس کی عبادت پر قائم رہ۔ بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت

جاننا ہے؟“

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (ہود: ۸۸)

”اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں“

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

خَبِيرًا - (الفرقان: ۵۸)

”اور اس حئی لایموت پر توکل رکھیے اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے اور وہ اپنے بندوں کے

اور حیوانوں کا چارہ ہے، شاداب ہو کر پھلی پھولی، پودے باہم دگر مل گئے تاکہ ان پر زنگ روپ آیا۔ مالک نے ان کی خوش نمائی کو دیکھا تو سمجھا یہ سب کچھ اس کے ہاتھوں ہوا، مگر پھر دن کا وقت تھا یا رات کا کہ یکایک اللہ کا حکم آگیا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا (یونس: ۲۴)۔ رزق کو دیکھے تو کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم (الروم: ۳۷)۔ زیادہ ہو تو لوگ فساد پر اتر آتے ہیں (الشوریٰ: ۲۷) پھر کتنی بستیاں تھیں جنہیں اپنی معیشت پر ناز تھا، لیکن تباہ ہو گئیں (العنکبوت: ۵۸)۔ کتنے قرون یا ادوار تہذیب و تمدن تھے کہ ان کو عروج ہوا، پھر زوال آیا اور پھر تباہی کی نذر ہو گئے (مریم: ۹۸ و الانعام: ۶)۔ کتنے دیار و اہصار تھے کہ مٹ گئے اور آج وہاں کسی کی آہٹ سنا تی دیتی ہے نہ کوئی بھنگ کان میں پڑتی ہے (مریم: ۹۸)۔ کتنی قومیں ہیں جن کو اپنی قوت پر ناز تھا، مگر آخر الامر برباد ہو گئیں (التوبہ: ۶۹)۔ کتنے ظالم تھے کہ انہیں ایک پیچ نے الیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (مہود: ۶۷)۔ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کا دورہ حیات بالآخر ختم ہو جاتا ہے (الاعراف: ۳۴) اور اس لیے کتنے شہر اور ملک اور قومیں ہیں، جن کے آثار روئے زمین پر بکھرے پڑے ہیں، جنہیں کبھی بڑی قوت حاصل تھی، لیکن تباہی سے بچ نہ سکیں کیسی عبرت ہے ان میں ہمارے لیے (المومن: ۸۲)۔ اللہ جس قریے کو ہلاک کر دے اسے پھر زندگی نہیں دیتا (الانبیاء: ۹۵)۔ کیسی کیسی سرسبز کھیتیاں، کیسے کیسے چشے، کیسے کیسے گل و گلزار، نعمت کے گھر اور سامان آسائش ان کے پاس تھا، جس کا انہیں غرور تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ دوسرے ان کے وارث بن گئے۔ ان پر آسمان رویا نہ زمین، نہ انہیں مہلت ملی کہ سنبھل جائے (الدخان: ۲۵)۔ کیسے کیسے جبار اور قبہار، اہل ثروت اور اہل ثروت تھے جنہیں اپنی طاقت اور مال و متاع کا بھروسہ تھا، لیکن ان کی بربادی کو نہ دولت روک سکی، نہ طاقت (المومنون: ۶۵)۔ بایں ہمہ فساد فی الارض جاری ہے، ”ذبح ابنائے ہے اور استھیائے نسا بھی (البقرہ: ۴۹)۔ حکمراں ہیں کہ جہاں داری و جہاں بانی کے دعوے کے باوجود حرث و نسل کو ہلاک کر رہے ہیں (البقرہ: ۲۰۵)۔ کوئی قریہ نہیں جس میں اکابر مجرمین مکر و فریب میں نہ لگے ہوں (الانعام: ۱۲۳)۔ بعینہ تعین ایمان کا الجھاؤ ہے، گر وہ بندیاں ہیں، ایک دوسرے پر جوڑ و تعدی ہے (الانعام: ۶۵)۔ پادشاہ اور کشورکشا ہیں اور ان کے ہاتھوں شہروں کی بربادی، شریفوں کی رسوائی (النمل: ۳۴)۔ ان کے آثار و تعمیرات کو دیکھے

گناہوں سے کافی خبردار ہے“

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ - (الحج: ۹۹)

”اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آجاتے“

یہی توحید دین کی ابتدا بھی ہے اور انتہی بھی۔ دین کا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز بھی تھا اور نقطہ انجام بھی اور یہی مطلب ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا۔ اس لیے کہ اللہ اسی معبود کو کہتے ہیں جس سے محبت بھی کی جاتے اور ڈرا بھی جاتے۔ جس کا اجلال بھی ہو اور تعظیم بھی ہو اور تمام انواع عبادت جس کے خاص کر لی جاتیں۔ اسی توحید کے لیے تمام مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ انبیاء بھیجے گئے، کتابیں نازل کی گئیں اور اسی توحید کی وجہ سے لوگ آپس میں بٹ گئے کچھ مومن ہو گئے کچھ کافر، کچھ اہل جنت اور کچھ بد بخت اہل جہنم“

تفسیر العزیز المحمید، صفحہ ۲۰

توحید عبادت (الوہبیت) ہی وہ مسئلہ ہے جو اہل مکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باعث نزاع بنا۔ اس لیے کہ اہل مکہ یعنی کفار مکہ توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصل انکار توحید الوہبیت سے تھا اور اسی توحید پر وہ تعجب کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے:

أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ - (ص: ۵)

”کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بننے دیا، واقعی یہ بہت ہی عجیب بات

ہے“

اس لیے کہ ان کا انکار اس توحید سے تھا جس کا افعال عبادت سے تعلق ہے وہ افعال عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے۔ افعال عبادت کیا ہیں۔ دُعا، نذر و نیاز، قربانی، خوف، امید، توکل، رغبت، انابت۔

مشرکین مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اصل سبب توحید عبادت تھا۔ اس لیے کہ توحید ربوبیت سے وہ لوگ انکار نہیں کرتے تھے، ان کا اصل انکار توحید عبادت سے تھا۔

جیسے دنیا انہیں کی تھی (الشعرار: ۱۲۹)۔ یہ کیا بات ہے کہ دولت و حشمت کو فروغ ہے، نہ طاقت اور سطوت کو (الفاطر: ۴۴)۔ اس کے برعکس کمزور اور ناتواں بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی طاقت دیتا ہے (الاعراف: ۱۳۷)۔

یہ سب اس کی آیات ہیں اور ان کے اندر کوئی حقیقت کا فرمایہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی بشرطیکہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور ہمارا سلسلہ تلاش و طلب جاری رہے۔ تلاش و طلب کے لیے اور بھی آیات ہیں (الحجر: ۵۵)۔ یہ آیات بھی ہم پر ظاہر ہوتی رہیں گی اور ہم ان کا اعتراف کریں گے (النمل: ۹۳)۔ اس کی آیات کہاں نہیں؟ کائنات کے گوشے گوشے میں اس کی آیات، اس کے گونا گوں مظاہر، حوادث اور تغیرات میں آیات، تمام تاریخ اس کی آیت، عالم انسانی، فرد اور جماعت کی زندگی، قوموں کا عروج و زوال اور تہذیب و تمدن کی تبدیلیاں اس کی آیات، غرض یہ کہ زمین کے ذرے ذرے سے لے کر فلک الافلاک کی رفعتوں تک اس کی آیات ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ سارا عالم امر و خلق اس کی ایک آیت ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فعل خلق اور اس کی سنت کہ ایک چیز خلق ہو اور پھر اس طرح خلق ہوتی رہے، یہ اس کی قدرت کہ جو چاہے پیدا کرے اور جس کا چاہے اپنی مخلوق میں اصناف کرے، یہ کائنات کی ایک نشاۃ کے بعد دوسری نشاۃ۔ بالفاظ دیگر یہ تخلیق و تکوین کا مسلسل عمل، جو کائنات کو ایک نئی آفرینش کے لیے تیار کر رہا ہے اور جس کا نتیجہ ہے حرکت، اقدام، آمادگی۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خلق اور تصویر، تقدیر اور ہدایت کائنات کا تار و پود ہیں۔ کائنات کی ہر شے مخلوق ہے، لیکن اپنی جگہ پر استوار (الاعلیٰ: ۲)۔ مضبوط (الصفّات: ۸۸) و موزون (الحجر: ۱۰۹)، چچی تلی (الطلاق: ۳) اور اس ہدایت کی بدولت جو اس کے اندر موجود ہے (طہ: ۵۰) اپنی غایت و وجود کی طرف گام زن، لہذا کائنات میں کوئی نقص ہے، نہ عیب، نہ فطور، نہ تفاوت (الملک: ۳)، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو پختگی عطا کی (النمل: ۸۸)، جس کے فعل خلق میں کہیں بے قاعدگی نہیں ہے۔ خواہ ہم اس کا مشاہدہ اپنے اندر کی دنیا میں کریں خواہ عالم خارج میں، ایک بار نہیں بار بار اس پر نظر ڈالیں (الملک: ۴)، ہمیں بہر حال اقرار کرنا پڑے گا کہ کائنات میں نظم و ربط ہے، ترتیب و تنسيق، توافق و تطابق، باقاعدگی اور باضابطگی، مناسبت اور مشاکلت اور ان سب کی تہ میں ایک حکمت اور غایت، ایک مقصد اور منصوبہ، جو اس کی ادنیٰ سے ادنیٰ سے لے کر

مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے۔ زمین و آسمان سب کا مالک اسی کو جانتے تھے۔ اسی کے ہاتھ میں سب اختیار و تصرف کا عقیدہ رکھتے تھے۔ مشکل کے وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے تھے، اسی کو خالق و رازق سمجھتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا پالنے والا قرار دیتے تھے۔ گمراہی میں کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف زندگی بھر جنگ جاری رکھی۔ آخر کیوں؟

بات بالکل سیدھی ہے اور وہ یہ کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور رب ماننے کے باوجود درمیانی واسطوں کے بھی قائل تھے۔ وہ لوگ ان درمیانی واسطوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ و وسیلہ سمجھتے تھے۔ ان کی رضا اور شفاعت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب سمجھتے۔ چنانچہ ان درمیانی واسطوں کی رضا جوئی کے لیے ان کے نام کی قربانی، نذر و نیاز کرتے، ان سے خیر و شفاعت کی امید رکھتے اور ان کی رضا پر مکمل بھروسہ رکھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ لوگ دعا، نذر و نیاز، قربانی، محبت، خوف، امید، رغبت، انابت غرض یہ کہ وہ اعمال جو در حقیقت اعمال عبادت ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونے چاہئیں، ان اعمال میں وہ ان درمیانی واسطوں کو شریک کر لیا کرتے۔ چنانچہ اس شرک سے انہیں روکا گیا۔ ارشاد ہوا:

”تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اس رحمن اور

رحیم کے سوا کوئی اور الٰہ نہیں ہے۔“

”اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے

جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو

اس کا حساب بھی اس کے رب کے پاس ہے۔

ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔“

”تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب

سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا سے رحمن کے سوا

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (البقرہ: ۱۶۳)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا

بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔

(المؤمنون: ۱۱۷)

وَسَأَلْنَا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

اعلیٰ منظر میں کام کر رہا ہے۔ یہ نوعیت ہے عالم امر و خلق کی، جو آیاتِ الہیہ کے مطالعہ سے ہمارے سامنے آتی ہے، لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تصورات ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں یا ان کی حیثیت داخلی ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا پر جو ہماری ذات سے باہر واقع اور آزانہ سرگرم کار ہے کوئی ایسی چیز نہیں ٹھونس سکتے جو اصلاً اس میں موجود نہیں، مگر پھر اس سے بڑھ کر ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جہاں ہمارے او ہماری ذات سے باہر عالم خارج کے درمیان عمل درآمد شروع ہوا ہے اس باقاعدگی اور باضابطگی اس متابعت اور مطابقت کا احساس ہونے لگا جو بالقوہ اس کے ہر فعل میں موجود ہے۔ دراصل عالم فطرت کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر علم کی عمارت قائم ہے اور ہم باعتماد اس کے عمل اور کردار کے ہمارے اس سے اور زیادہ قریب ہوتے، اسے اور زیادہ سمجھتے اور اس کے ممکنات سے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کائنات کی کوئی مستقل سمت اور روش نہ ہوتی، اگر اس کا وجود نظم و ربط سے خالی ہوتا، اس کا کوئی ایک بیج ہوتا نہ انداز تو علم بھی ممکن نہ ہوتا اور زندگی کو بھی اپنا آپ قائم اور برقرار رکھنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں عالم امر و خلق کی اس مخصوص نوعیت کو جس سے ربط و نظم، باقاعدگی و باضابطگی، مطابقت اور متابعت کے تصورات پیدا ہوتے ہیں اور جو اپنی جگہ سرچشمہ ہیں ہمارے تصوراتِ علت و معلول، قوانینِ طبیعی اور فطرت کی یکساں روی کا، اس جبریت تک وسعت نہیں دینا چاہیے جسے یورپ کی مادیت پسندی نے آج سے ایک صدی پہلے انتہا کو پہنچا دیا تھا۔ اس پر طبیعیات کو تو اب وہ اصرار نہیں رہا جو کبھی تھا، لیکن مغرب کے ذہن پر وہ اب تک مسلط ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ افعالِ کمائیڈ ہے اور اس لیے اپنی مشیت میں آزاد۔ بے شک وہ علیم و حکیم بھی ہے اور اس کے امر و خلق میں ہر کہیں اس کی ہکمت کار فرما، بایں ہمہ اس جبریت سے بالاتر جس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فہم و ادراک اس غایت اور حکمت کا تمام و کمان احصا نہیں کر سکتا جو مشیتِ الہیہ میں کام کر رہی ہے۔ پھر چونکہ عمل تخلیق جاری ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اپنی مخلوق میں اضافہ کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں عالم امر و خلق ایک دوسری نشاۃ کا منتظر ہے۔ گویا عمل تکوین جاری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جہاں فاطر السموات والارض ہے کہ اس نے ہر شے کو ایک فطرت پر پیدا کیا، وہاں بدیع السموات

الْهَمَّةُ يُعْبَدُونَ - (الزخرف: ۴۵) کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی

بندگی کی جاسے؟

مندرجہ بالا آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کو توحید الوہیت کی دعوت دی جا رہی ہے انہیں اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں یا کسی اور سے دُعا مانگیں۔ اسی طرح سے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا جا رہا ہے۔ عبادت درحقیقت اعمالِ عبادت ہی کا نام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمام اعمالِ عبادت اور ان کی ظاہری و باطنی شکلیں (مثلاً رکوع، سجود، دُعا، طواف، قربانی، نذر و نیاز، محبت، خوف، اُمید، انابت، خشوع و خضوع وغیرہ) سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہئیں اور ان میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا نام توحید الوہیت یا توحیدِ عبادت ہے۔

اب ذیل میں ہم قرآن مجید کی زبان میں مشرکین عرب کا عقیدہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مالک، ساتوں آسمان و زمین کا رب، پناہ دہندہ، صاحبِ اقتدار و حاکم مانتے تھے مگر اعمالِ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔

”ان سے کہو تباؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین

اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور

کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟

”ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرشِ عظیم

کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو

پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟“

”ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار

کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے

اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ -

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ -

قُلْ مَنْ بِيَدِ الْمَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ

وَهُوَ يُجِيبُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى

والارض بھی اور اس لیے کائنات میں آزادی بھی ہے اور ابداع بھی۔ بایں ہمہ وہ اپنی نوعیت میں ستر ستر غائی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقصد اور غایت جو اس میں کام کر رہا ہے اس نے اسے ایک وحدت کی شکل دے دی ہے۔ جزو و کل وحدت میں ربط و نظم بھی ہے، اعتدال اور توازن بھی، جمال و جلال، منفعت اور مصلحت بھی۔ کائنات کس قدر حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رفعت بخش اور میزان وضع کیا (الرحمن: ۷)۔ اسے کس خوبی سے سجایا (ق: ۶)۔ سورج کو ضیا اور چاند کو نور عطا کیا (نور: ۵)۔ آسمانوں میں چراغ روشن کر دیے (الملک: ۵) اسے ستاروں سے زینت دی (الشمس: ۶)۔ ان کی درخشانی رات کی تارکیوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں تاروں کے جھرمٹ ہیں۔ اس حسن منظر کو دیکھیے (الحجر: ۱۶)۔ عالم نباتات پر نظر ڈالیے۔ ہر شے کس حسن و خوبی اور زور و قوت سے پیدا ہوتی (الحجر: ۱۹) کیسی کیسی رنگارنگ کی پیداوار زمین پر بھری پڑی ہے (انعام: ۱۳۱)۔ کیسے کیسے خوبصورت پودے اس میں اُگے ہیں (ق: ۴)۔ کیسے کیسے پہاڑ ہیں اور ان کی کیسی کیسی رنگتیں۔ سفید، سرخ، بانگل سیاہ (الفاطر: ۱۱) اس میں باغات ہیں، انہار و اشجار (النمل: ۱۱، ۱۵) پھل اور پھول (الرحمن: ۱۲)۔ سمندر و دریاں موتی اور مرجان (الرحمن: ۲۲) ان میں کشتیاں ہیں پہاڑوں کی مانند (الرحمن: ۲۳)۔ اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت پیدا کی (الانعام: ۱) خشکی کے لیے سایہ اور اس کے مقابلے میں گرمی (الفاطر: ۲۱)۔ دن کے مقابلے میں رات (الانبیاء: ۳۳)۔ وہ کس طرح گھٹائیں اٹھاتا ہے (الرعد: ۱۲)۔ گھٹائیں دوش ہو اور سوار چلی آتی ہیں (الاعراف: ۵۷)۔ مینہ برستا ہے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرف خوشنما پودے سر نکالتے ہیں (الحج: ۵)۔ بادل اترتے چلے آتے، باہم گڈ گڈ ہوتے اور آسمان پر چھا جاتے ہیں، بوند بوند ہو کر برستے ہیں، ڈالہ باری ہوتی ہے، بجلی کی چمک سے آنکھیں چندیا جاتی ہے (النور: ۳۳)۔ کیسی دل کش ہے کائنات اور کیسا حسین منظر ہے عالم جمادات، نباتات و حیوانات کا۔ دریا، پہاڑ، سمندر، نہریں اور وادیاں، پھل پھول، ہرے بھرے کھیت، پرند و پرند، ہمارا لباس، ہمارے مسکن، ہماری گزرگاہیں، ہمارے پالتو جانور ان کا صبح چراگا ہوں میں جانا، شام کو واپس آنا، اس میں بھی ایک حسن ہے (النمل: ۶)۔ ان میں ہمارے لیے کیسی کیسی منفعتیں ہیں، سفر میں، حضر میں، ان کے بالوں میں، رگوں میں، ریشوں میں (النمل: ۸۰)۔ یہ ہے ہماری کائنات، ہر لحظہ متغیر، ہر لحظہ دگرگوں، با مقصد اور با قاعدہ، مربوط و موزوں، حسین و جمیل، جس میں تکرار ہے نہ ضیاع، جس میں نہ حرکت محض فریب ہے نہ شاید محض خیال۔ بے شک یہ

تُحَرِّوْنَ - (المؤمنون: ۸۲-۸۹)

سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے

لیے ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟

اب بظاہر توحید کا اس قدر خالص عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ مشرک کیوں قرار دیتے گئے۔ اس کی وجہ قرآن مجید کے الفاظ میں انہی کی زبانی سنئے۔ ارشاد ربانی ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ - أَلَا
لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ - وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى - (الزمر: ۲-۳)

ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف
نازل کیا ہے سو آپ دین کو اعمالِ عبادت کو
اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت
کرتے رہیے۔ یاد رکھو کہ عبادت کے سارے اعمال
صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں۔ وہ لوگ جو
خدا کے سوا اور مل کو بھی (اعمالِ عبادت) میں
شریک کرتے ہیں (وہ کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی یہ
عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا
کا مقرب بنا دیں۔

تو معلوم ہوا کہ خرابی کی جڑ یہ ہے کہ قرب کا وسیلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خود اسی وسیلے سے نجات
طلب کرنے کے بہانے، اسی کو اعمالِ عبادت میں شریک کر لیتے ہیں اور اسے بھی معبود ٹھہرا لیتے ہیں

إِمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا إِلَّا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْمَلُونَ - (الزمر: ۳۳)

”کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو
شفیع بنا رکھا ہے۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت
کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور
وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟“

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

”کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار
میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا

ایک عظیم انسان منصوبہ ہے، جس کی انتہائے غایت اور حکمت ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے۔

بارش اور روئیدگی، زندگی اور موت سب ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں، سب مشیتِ الہیہ کے رشتے میں

منسک، سب اس کی سنت کے پابند سنتِ الہیہ غیر تبدیل ہے، سنتِ الہیہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔

والفاطر: (۴۳)۔ اس میں سرسوا نحراف نہیں ہوتا (بنی اسرائیل: ۷۷)۔ ہر شے اپنی فطرت پر قائم، (پنا و طیفہ ادا

کر رہی اور اپنی غایت کو پہنچ رہی ہے۔ لہذا ساری کائنات رواں دواں، ساری کثرت ایک وحدت میں گم اور

انجام کار یہ سارا عمل مشیتِ الہیہ کے ایک نقطے پر مرکوز، اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا مظہر، اس کے حرفت کن

کی تفسیر: وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے (مریم: ۳۵)۔

اور ہمارا امر کیا ہے، بس جیسے آنکھ کا جھپکنا (القمر: ۵۰)۔

دعالمِ انسانی میں قدم رکھیے تو یہاں بھی مشیتِ الہیہ ویسے ہی کارفرما نظر آتی ہے۔ یہاں بھی وہی باضابطگی

اور باقاعدگی، وہی نظم و ربط اور وہی اصول و قانون ہے جس کا سارا عمل اس نقطہ شعور پر مرکوز ہے جسے ہم

”انا“ سے تعبیر کرتے ہیں اور جس سے ذاتِ انسانی کی وحدت قائم رہتی ہے۔ بیشک انسان کچھ بھی نہیں تھا۔

والدھر: (۱)۔ وہ مخلوق ہے (العلق: ۲)۔ ضعیف پیدا ہوا (النساء: ۲۷)۔ عجول ہے (الانبیاء: ۳۷)۔ ظلم و

بہول (الاحزاب: ۷۲)۔ مایوس، ناشکرا (ہود: ۹)۔ جی کا کچا (المعارج: ۱۹)۔ ذرا سی تکلیف پر گھبرا اٹھنے

والاد (المعارج: ۲)۔ ناز و نعمت میں اپنے پرنازاں (بنی اسرائیل: ۸۴)۔ اس کی زندگی مشقت اور برداشت کی

زندگی ہے (البلد: ۴)۔ اس کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر مشکلات، قدم قدم پر تذبذب، بات بات

میں گوگو، امید کے ساتھ یاس اور بیم کے ساتھ رجا۔ بظاہر اس کا جادہ حیات تاریک ہے اور وہ خود حقیر اور بے بس

جیسے زمانے کی زوا سے وجود میں لے آئے اور زمانہ ہی اسے فنا کر دے گا (الجماعہ: ۲۳)۔ وہ جب اپنے گرد و

پیش پر نظر ڈالتا، موجوداتِ عالم اور کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کرتا اور زمان و مکان کی پہنائیوں کو دیکھتا ہے

تو اسے خیال ہوتا ہے جیسے ہر شے اس کی حریف ہے، اس کے راستے میں حائل، اس کی کوششوں میں مزاحم باں

ہمہ وہ ایک شاعر بالذات، با مقصد اور ذمے دار ہستی ہے، لہذا اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور ایک حکمت۔

اللہ تعالیٰ نے اسے براہِ راست خطاب کیا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں (الاعراف: ۱۷۲)۔ کیا تم اس کا

وہی مالک ہے پھر اسی کی طرف تم پٹاتے

جانے والے ہو۔“

یہی وجہ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ

هُم مُّشْرِكُونَ۔ (یوسف: ۱۰۶) اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک

ٹھہراتے ہیں۔“

مشرکین عرب، اعمالِ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے مگر کہتے تھے کہ یہ شرک نہیں ہے۔

یہ شرک اس صورت میں سمجھا جاتے گا جب ہم غیر اللہ (مبتوں اور درمیانی واسطوں) کو خالق، مالک اور

مدبرِ امر خیال کریں۔ اگر ہم انہیں صرف ذریعہ اور وسیلہ سمجھیں تو یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ مندرجہ بالا آیت

میں اس بات کی پُر زور ترمیم کی گئی ہے اور اس کو عین شرک قرار دیا گیا ہے۔

اقرار نہیں کر چکے؟ (الاعراف: ۱۷۲)، پھر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اپنے رب سے بہکا دیتی ہے (الانفطار: ۶)۔
 اسے احسن تقویم پر پیدا کیا گیا (التین: ۴)، بہترین صورت گئی (المومن: ۶۴)، صنعت کے بعد قوت ملی (الروم: ۵۴)۔
 ایک ایسے سازگار ماحول میں پیدا ہوا جس میں وہ سب کچھ ہے جس کی اسے طلب ہے اور جس کی بظاہر بیگانگی،
 مخالفت اور مزاحمت سے اس کے قوائے ذہنی کو تحریک ہوتی ہے، جس سے اس کا قدم علم و عمل کی دنیا میں
 آگے بڑھتا ہے۔ اسے عالم طبیعی پر دسترس حاصل ہوتی ہے، بلکہ اگر چاہے تو وہ اس کی وسعتیں بھی پار کر سکتا
 ہے (الرحمن: ۳۳)۔ چاند اور سورج اس کے لیے سُخڑ ہیں (ابراہیم: ۳۳)، ہوائیں اور بادل اس کے لیے سرگرم کار
 کرة ارضی میں ہر کہیں اس کے لیے نعمتیں بکھری پڑی ہیں (التین: ۲۰)۔ وہ اس کا دار القرا (المومن: ۶۱)، اس
 میں ممکن ہے (الاعراف: ۹)۔ اور اس کی تکریم کا یہ عالم کہ خشکی اور تری پر چھا گیا (بنی اسرائیل: ۷۰)۔ اسے معاش
 (الاعراف: ۱۰) اور مساکب بہیم پہنچاتے گئے (ظلہ: ۵۲)۔ رات کی تاریکیوں میں ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں
 (النمل: ۱۶)۔ شمس و قمر منزل در منزل گزرتے ہیں، تاکہ ماہ و سال کا حساب و شمار ہو سکے (یونس: ۵)۔ آسمان سے
 پانی اُتار گیا، ثمرات سے رزق پیدا ہوا (البقرہ: ۲۲)۔ اقوات مقرر کر دی گئیں (حکم السجدہ: ۱۰)۔ جگہ جگہ
 باغ اور کھیتیاں بھی ہیں (النمل: ۱۱)، لہذا یہ عالم آب و خاک اس کا میدان عمل ہے، اس کی جولاں گاہ، جس
 میں اس کی قوتیں بروئے کار آتی ہیں، جو اس کی آرزوں اور تمناؤں کا کفیل ہے اور جس میں وہ ارتقائے ذات
 کے مراحل طے کرتا ہے۔ وہ استخلاف (النمل: ۶۲) اور وراثت ارض کا اہل ہے (الانبیاء: ۱۰۵)۔ اس کے لیے
 درجات ہیں (حکم السجدہ: ۸)، مسلسل اجر (التین: ۶)۔ ایک مرتبے کے بعد دوسرا (الانشاق: ۱۹)۔ بیشک
 اسے ٹھیکے کی طرح کھنکھناتی ہوتی مٹی سے پیدا کیا گیا (الرحمن: ۱۴) لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی
 (الحجر: ۲۹)، خلافت ارضی عطا کی گئی (البقرہ: ۳۰)۔ ملائکہ اس کے سامنے سر بسجود ہوتے (البقرہ: ۳۴)۔ بیشک
 وہ شیطان کے کہنے میں آگیا (البقرہ: ۳۶)۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا (البقرہ: ۳۴)۔ آدم سے لغزش ہوتی، لیکن
 نافرمانی نہیں (ظلہ: ۱۱۵)، لہذا اللہ نے اسے برگزیدہ کیا (ظلہ: ۱۲۲) اور اپنی مخلوق میں ایک خاص درجے کا مستحق
 ٹھیرایا۔ اسے ارادہ و اختیار کی قدرت دی گئی، سمع و بصر، قلب و فراد کیے علم کی قوت بخشی، جملہ اسما رکھتے
 (البقرہ: ۳۱)۔ قوت بیان دی گئی (الرحمن: ۴)، ارادہ و اختیار کی قدرت عطا ہوئی۔ اس کی ذات میں

حقیقتِ شرک

اشیاء اپنے اضداد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں۔ معرفتِ توحید حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں شرک کی حقیقت بھی معلوم ہو۔

شرک کی تین قسمیں

جس طرح سے توحید کی تین قسمیں ہیں اسی طرح سے شرک کی بھی تین قسمیں ہیں :

۱۔ ربوبیت میں شرک :- اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں :

۱۔ شرک تعطیل

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو معطل ٹھہرا دینا۔ اس سے مراد بعض گمراہ فلسفیوں کے نظریات ہیں جو اس کائنات کی ابدیت کے قائل ہیں اور ان میں بعض لوگ وحدت وجود کی آڑ میں خالق و مخلوق اور رب و عبد کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔

ب۔

یہ شرک کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت کو تو معطل نہیں ٹھہرایا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور خدا کا وجود مان لیا جاتا ہے۔ مثلاً نصاریٰ جو کہ تثلیث کے قائل ہیں یا مجوس جو کہ دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک الہِ خیر اور ایک الہِ شر، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کی ارواح کو اللہ کی ربوبیت کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی روہیں ان کی حاجات کو پورا کرتی ہیں۔

فجور اور تقویٰ دونوں حسیع ہیں (الاعلیٰ: ۸)۔ اسے بصیرتِ نفس حاصل ہے اور اس لیے وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا (العینہ: ۱۴، ۱۵)، لہذا اس کی فلاح و کامرانی کا دار مدار اس کے تزکیہ ذات پر ہے (الاعلیٰ: ۱۴)۔ وہ جو کچھ کرے گا وہی پائے گا۔ ہر کوئی اپنے کیے کا پابند ہے (الطور: ۲۱)۔ وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا (الزمر: ۷)۔ اس پر اپنی ہی ذمے داری ہے۔ اس سے نہیں پوچھا جاتے گا کہ دوسروں نے کیا کیا (البقرہ: ۱۴۱)۔ نفسِ متناہیہ کی یہی ذمے داری ہے جو اس نے تنہا قبول کی، جو اس کی غایت وجود اور آزاد شخصیت کا راز ہے، جسے قرآن مجید نے امانت سے تعبیر کیا، امانت جسے زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن جسے انسان نے اٹھایا (الاحزاب: ۷۲)۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تنہا اس کے نتائج برداشت کرنا پڑیں گے۔ وہ تنہا اپنے رب کا سامنے کرے گا۔

مریم: ۸۰، تنہا، جیسے اول اول پیدا کیا گیا (الانعام: ۹۴)، تنہا اس کا محاسبہ ہوگا (البقرہ: ۲۸۴) مگر پھر نفسِ متناہیہ کی یہ تنہائی اور اس کا یہ احساس کہ انسانوں کی عظیم الشان کثرت اور زہیم قدرت کی گہا گہی رونق اور ہنگاموں کے باوجود وہ اکیلا ہے اسے مجبور کرتا ہے کہ مثبت یا منفی کوئی راستہ اختیار کرے۔ راستے صرف دو ہیں۔ دونوں اس کے سامنے اور فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں: کیا ہم نے اسے دوا نکھیں، زبان اور دوہونٹ نہیں دیتے اور اس سے دو راستے نہیں دکھا دیتے.... (البلدہ: ۸)۔

ان دونوں راستوں کو گھاٹیوں سے تعبیر کیا گیا۔ ایک استحکامِ ذات کا راستہ ہے، خیر و سعادت، کامیابی اور کامگاری کا۔ اور دوسرا ناکامی اور نامرادی کا۔

۲۔ توحیدِ اسماء و صفات میں شرک :-

اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جاتے اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی کسی طرح سے تاویل کی جاتے مثلاً یہ کہا جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا میرے دیکھنے کی طرح ہے یا اس کا عرش پر براجمان ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ میں تخت پر بیٹھتا ہوں۔

اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو جھوٹے خداؤں پر منطبق کیا جاتے جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ لات و عزریٰ کو اللہ عزیز قرار دیا کرتے تھے۔

۳۔ توحیدِ الوہیت یا توحیدِ عبادت میں شرک :-

یہ شرک اکبر ہے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ان افعال میں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہونے چاہیں غیر اللہ کو شریک کیا جاتے خواہ اس غیر اللہ کو خدا نہ مانا جاتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں :-

ایک قسم یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے ویسے ہی کسی نبی یا ولی یا غیر اللہ سے دعا مانگی جاتے یا ایسے ہی دوسرے اعمال مثلاً شفاعت، محبت، خوف ورجاء میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتے۔ دوسری قسم جسے شرک اصغر کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ ہی کی کی جاتے لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، بلکہ ریاکاری ہو یا تصنع ہو یا طلب جاہ و مال کا بہانہ بناتے یا غیر اللہ کی قسم کھائی جاتے۔

شرک کی تین اور قسمیں

امام محمد نے شرک کی تین مزید قسمیں قرار دی ہیں۔ شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی۔ شرک اکبر پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

قرآن مجید کا طرز استدلال

قرآن مجید میں وجود باری تعالیٰ اور توحید پہ الگ الگ دلائل ملتے ہیں :-

وجود باری تعالیٰ پر دلائل

انسان اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے ہی ایک دل بھینک پجاری واقع ہوا ہے اپنی ابتدائی تاریخ سے وہ معبودِ حقیقی کی تلاش میں مگن نظر آتا ہے۔ معبودِ حقیقی سے آشنا ہو گیا تو فہما ور نہ کوئی نہ کوئی معبود تراش لیتا ہے۔ کبھی وریا کو خدا بنا لیا، کبھی سورج کو، کبھی تھپر کو اور کبھی سانپ کو۔ اور کچھ نہیں تو جاہ مال یا اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ قدیم سے قدیم تاریخ دیکھیں تو انسان کسی نہ کسی معبود کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ ہزار ہا سال قدیم کھنڈرات میں جاؤ تو سب سے پہلے جو چیز ان کھنڈروں میں نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی معبود کی چار دیواری ہوتی ہے۔ قرآن کا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت کے اصل تعلق کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایمان باللہ کو اور اسلام کو عین فطرت قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہے :-

”فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا - فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - لَا تَبْدِيلَ

يَخْلُقُ اللَّهُ - ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (الروم: ۳۰)

ترجمہ: ”اپنا رخ سب طرف سے پھیر کر دین کی طرف کرو یہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے

لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ سیدھا اور ٹھیک دین ہے

لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

وجود باری تعالیٰ پہ ایمان کو عین فطرت قرار دیتے ہوئے قرآن انسانوں

خدا پہ ایمان فطری امر ہے

سے یوں مخاطب ہوتا ہے :-

يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا لَاعْبِيدًا. (النساء: ۱۱۶)

”بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاتے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں، جس کے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیئے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ۔

(المائدة: ۷۲)

”مالانکہ مسیح نے کہا تھا ”اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“

شرک اکبر کی چار قسمیں ہیں:

پہلی قسم شرک الدعوة ہے یعنی جس طرح سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اسی طرح سے غیروں سے بھی حاجات طلب کی جاتیں۔ اور شرک دعوت پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ، دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ (عنکبوت: ۲۵)

”جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔“

دوسری قسم شرک النیہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ، قصد اور نیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے اس میں کسی غیر کو شریک ٹھہرایا جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِرُونَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا

”اِنَّ اللّٰهَ شَكُّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - (ابراہیم : ۱۰)

ترجمہ: ”کیا آسمان اور زمین پیدا کرنے والے خدا پر ہی شک ہے؟“

اور فرمایا:

”اَمْ خُلِقْتُمْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ غَيْرِ شَيْءٍ غَيْرِ شَيْءٍ غَيْرِ شَيْءٍ - اَمْ خُلِقْتُمْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

بَلْ لَا يُوقِنُوْنَ - (الطور: ۳۵-۳۶)

ترجمہ: ”کیا وہ آپ ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں یا وہ ہی اپنے آپ کے خالق ہیں؟ کیا ان ہی نے

آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یقین حاصل نہیں ہے،

یہاں پر قرآن مجید ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہے وہ یہ کہ عدم سے وجود میں کوئی چیز از خود نہیں آ

سکتی یعنی کوئی چیز کسی کے بن بناتے آپ سے آپ نہیں بن سکتی اور نہ ہی کوئی مفعول اپنا فاعل آپ ہو سکتا ہے۔

یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید خشک منطق اور گھسے پٹے قدیم فلسفیانہ طرز استدلال کا

سہارا نہیں لیتا ہے بلکہ قرآن مجید انسان کی فطرت سلیمہ کو مخاطب کرتا ہے اور انتہائی حسین ادبی

انداز میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق آیاتِ بینات اور کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتا ہے۔ ایسی نشانیاں

جن پر غور کرنے سے فطرت سلیمہ صرف ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ کا اثبات

ایسی نشانیاں جو خود انسان کے اندر اور اس کے ارد گرد پائی جاتی ہیں انہیں وہ آیاتِ نفس و آفاق قرار

دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَنْبَغِيَنَّ لَهُمْ اِنَّهُ الْحَقُّ - اَوَّلَمْ

يَكُنْ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰهِدٌ - اَلَا اَنْتُمْ فِيْ مَدِيْنَةٍ مِّنْ تَقَارِيْرِهِمْ -

اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ رَّحْمٰنٌ رَّحِيْمٌ - (سجده: ۵۳-۵۴)

ترجمہ: ”ہم عنقریب ان کو (اطراف) عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے

یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جلتے گا کہ وہ حق ہے کیا یہ تم کو کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے

وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (مُجُود: ۱۵-۱۶)۔

”جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم نہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں معلوم ہو جاتے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب میا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔“

تیسری قسم شرک اطاعت:

یعنی اطاعت میں جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے دوسروں کو شریک کیا جاتے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

أَمْ يَدْعُونَ إِلَيْهِ عِبَادًا وَإِلَّا إِلَهُ وَاحِدًا إِلَّا هُوَ يُشْرِكُونَ۔ (التوبہ: ۳۱)

”انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جریہ لوگ کرتے ہیں“

اور اس کی واضح تفسیر یہ ہے کہ علماء اور اولیاء اللہ کی اس طرح اطاعت کی جلتے کہ انہی کو مطاع خفیعہ کافی الواقعہ درجہ دے دیا جاتے۔

حدیث شریف میں ہے کہ عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اپنے احبار اور رہبان کو رب تو نہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور نہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ معصیت میں بھی تم لوگ ان کی اطاعت کیا کرتے تھے اور جسے وہ جائز ٹھہراتے اسے تم جائز تسلیم کرتے اور جسے وہ حرام کہتے تم آگے بند کیے اس کو حرام مان لیتے۔

چوتھی قسم شرک محبت ہے یعنی محبت میں جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے غیر کو شریک کیا جائے

بانجری ہے۔ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں۔ سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر اعاطہ کیے ہوتے ہیں۔“

اور فرمایا:

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ - وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“ (الذاریات: ۲۰-۲۱)

ترجمہ: ”اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں کے اندر بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟“

سینکڑوں آیات کے اندر وجود باری تعالیٰ کے متعلق دل بلا دینے والا کلام ہے۔ اور اگر انسان آنکھیں کھول کر پڑھے تو اس کا رُواں رُواں وجود باری تعالیٰ کی گواہی دے۔ ایسے دلائل و براہین ایسی نشانیاں اور ایسی آیات و عینات کہ فطرتِ سلیمہ رکھنے والا کوئی شخص چشمِ پرہیزگاری سے نہیں گزر سکتا ہر مرحلے اور ہر موقع پر دل سے یہی صدا نکلتی ہے:

”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ (المؤمنون: ۱۴)

ترجمہ: ”سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے۔“

ان آیات میں زیادہ تر تین قسم کے دلائل ہیں:-

تین قسم کے دلائل

۱- کائنات کے عجائبات اور نیزنگیاں، اور ان سب کا ایک قانون کے ماتحت ہونا۔

۲- کائنات کے تمام امور میں اسباب و علل کا تسلسل، تغیر و انقلاب کا نظام اور سب کا ایک

مرتب سلسلہ۔

۳- سلسلہ عالم اسباب کے ہر واقعہ اور ہر مرحلہ میں بے انتہا مصلحتوں، حکمتوں اور فائدوں

کا موجود رہنا۔

ان مقدمات کو ذہن میں رکھ کر اگر ذیل کی آیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو دل از خود گواہی

دیتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کا منظم سلسلہ اسباب و علل از خود وجود میں نہیں آگئے بلکہ کسی حکیم و

دانا اور قادر مطلق صانع اور خالق نے اپنے ارادہ اور قدرت سے ان کو بنایا ہے۔

اور اس پر دلیل یہ ارشادِ ربّانی ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ - (البقرہ: ۱۶۵)

”لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس طرح سے کہ وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے۔“

نوع ثانی

شُرکِ اصغر :- اور اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جلتے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

آخِذًا - (الکہف : ۱۱۰)

”جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ

تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے۔“

نوع ثالث

شُرکِ خفی : اور اس پر دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :

الشِّرْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ الثَّيْلَةِ السَّوْدِ أَوْ عَلَى صَفَاةِ

السَّوْدِ آدِرٍ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ -

”اس امت میں شرک اس بات سے بھی زیادہ پوشیدہ صورت میں آتا ہے جس طرح

سے کہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چوینٹی کے چلنے کی رفتار ہو۔“

اس شرک کا کفارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے اس قول سے ارشاد فرمایا ہے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنْبِ

”جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے سہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوتے دریاؤں اور مندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔“

”اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بہ تہ چڑھے ہوتے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگاتے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھران کے پکنے

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الْيَلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاحِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَقَرِّ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ۔ (البقرة: ۱۶۴)

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ بِمَا خَرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَ
مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَ
الرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍ
أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ
يَنْعِهِ دَاتٍ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ۔

(الانعام: ۹۹)

الَّذِي لَا أَعْلَمُ-

”اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراؤ اور مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ میں شریک ٹھہرا رہا ہوں۔ میں اے اللہ اس گناہ سے تیری بخشش چاہتا ہوں جس کو بے جانے کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔“

عبادة الطاعة

شُرک کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مشرک کسی نہ کسی شکل میں طاعت کی عبادت کرتا ہے۔ خواہ وہ ایمان کا دعویٰ رکھیں نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و محبت کا دم کیوں نہ بھرتا ہو۔ ہوتا یوں ہے کہ اس کا دعویٰ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا ہوتا ہے لیکن فی الواقع عملی زندگی میں اس کا رخ طاعت کی طرف ہوتا ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ طاعت کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ اس کی محبت اور اس کی ساری امیدیں طاعت کی طرف مرکوز ہوتی ہیں۔ وہ طاعت سے ہی خیر کا امیدوار ہوتا ہے اور اسی لیے اس کا بے حد و حساب اکرام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ایک گھناؤنی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

الْحَرَّتْ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاعُونَ وَقَدْ أَسْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا -

(النساء: ۶۰-۶۱)

”اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے طاعت کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں

کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں
میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان
لاتے ہیں۔

”اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے
تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکایک تم بشر ہو کہ
زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی
نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے
تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان
کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان
محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں
بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو
غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں
سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری
زیبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے
یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند
لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے
تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے
فضل کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت
سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور
سے، سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے
یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے،

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ - وَ
مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللِّسَانِ
وَأَلْوَانِكُمْ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَأَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ
يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ بِأَمْرٍ

رُوم: ۲۵-۳۰

طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہِ راست سے بہت دُورے جانے چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں“
ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

(النحل: ۳۶)

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو“
طاغوت کے معنی :-

طاغوت طغیان سے مشتق ہے، اس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں: ”الطاغوت الشيطان“ (ابن کثیر)
”طاغوت شیطان ہی ہوتا ہے“
امام مالکؒ فرماتے ہیں ”طاغوت ہر اس شے کا نام ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہو“ (فتح المجید، صفحہ ۱۶)
علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

”طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حد سے تجاوز کر جائے۔ خواہ وہ عبادت میں ہو یا تابعداری میں یا اطاعت میں۔ ہر قوم کا طاغوت وہی ہے جس کی طرف وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے فیصلے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں یا بلا دلیل اس کی اتباع کرتے ہیں، یا اس کی اطاعت بغیر اس علم کے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے“ (۱۶-۱۷ ص ۱۳۲)

قی الحقیقت طاغوت کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن اصل طاغوت پانچ طرح کے ہیں:

خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی اور آسمان کے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کھمک سے قائم ہیں "اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آتیں اس نے زمین میں پہاڑ جگادیتے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جاتے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اُگادیں۔"

"جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے نت سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے پھر اس تک سب سے دست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیتے، آنکھیں دیں اور دل دیتے اور تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔"

"اور تمہارے لیے موشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ
الَّتِي فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تُمِيدًا بِكُمْ
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ نَوْعٍ كَرِيمٍ - (لقمان: ۱۰)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَ
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ -

السجده: ۷-۹

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ

- ۱۔ شیطان جو غیر اللہ کی عبادت پہ اکساتا ہے۔
 ۲۔ ظالم حاکم جو اللہ کے احکام کو بدل دے۔
 ۳۔ ہر وہ قوت جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم کے مطابق فیصلے کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - (المائدہ: ۴۴)

- ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں“
 ۴۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہستی جو اپنے اندر علم غیب رکھنے کا دعویٰ رکھے، طاغوت ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ“ (الانعام: ۵۹)

”اور اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں اور سوائے اس کے اور کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا“

- ۵۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہستی جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اس پر راضی ہو وہ بھی طاغوت ہے۔ اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے:

وَمَنْ يَقُلْ مِثْمَرَاتِي اللَّهُ فَمِنْ دُونِهِ فَذَلِكُمْ تَجْبِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ

تَجْبِيهِ الظَّالِمِينَ - (الانبیاء: ۲۹)

”اور ان میں سے جو بھی کہے کہ میں بھی اللہ کے سوا ایک خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم یہ سزا دیا کرتے ہیں“

قُدْرَتِ وَدَمِ لَبْنَا خَالِصًا نِعَالِ الشَّارِبِينَ

درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں یعنی خاص

دورہ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔

(النمل: ۶۶)

» بڑا منبرک ہے وہ جس نے آسمان میں بُرج بنائے

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔

چاند روشن کیا۔

(فرقان: ۶۱)

» یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔

(النمل: ۸۸)

» تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ

پاؤ گے، پھر ٹیٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن قُطُوعٍ

نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دو اور تمہاری نگاہ

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ

تھک کر نامراد واپس آتے گی۔

الْبَصَرَ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ۔ (الملك: ۴۳)

وجود باری تعالیٰ پر ایک خاص دلیل جسے اہل فلسفہ اور متکلمین

اسی پر ہے سب کی انتہا

پیش کرتے چلے آتے ہیں، قرآن مجید میں ایک مختلف انداز

سے بیان ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات

میں ہر چیز کے لیے اسباب و علل کا سلسلہ آگے کو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ یا تو کہیں جا کر ختم

ہوگا یا بغیر کسی انتہا کے مسلسل چلتا جاتے گا۔ اگر علل و اسباب کے اس سلسلے کی انتہا نہیں ہے اور یہ

یونہی چلا جائے گا تو لازم آتا ہے کہ اسباب کے اس سلسلے کا کوئی بھی آخری سرا نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کہیں

بھی نقطہ آغاز نظر نہیں آسکتا اس لیے کہ جب آخری سرا ہی کسی چیز کا معلوم نہیں تو نقطہ آغاز کہاں سے

آئے گا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔

تسلسل عقلا بھی محال ہے بلکہ انسان اس کے تخیل سے بھی عاجز ہے۔ اس بنا پر لامحالہ سلسلہ عدل و

اسباب کا کہیں نہ کہیں خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ یہی ہر چیز کا نقطہ آغاز ہوگا یعنی وہ علت العلیٰ یا علت کل

شُرک کے اسباب

شُرک کے عام طور پر مندرجہ ذیل چھ اسباب ہوا کرتے ہیں:

پہلا سبب: بزرگوں کی تعظیم میں غلو

تاریخ انسانی بتلاتی ہے کہ جاوہ توحید سے ہٹنے اور شرک میں گرفتار ہونے کا سب سے بڑا سبب انبیاء، اولیاء اور صالحین کی تعظیم میں انتہا پسندی ہے۔ بزرگوں سے اس قدر محبت کہ وہ دیوانگی کی حد تک پہنچ جاتے شرک کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہی محبت شخصیت پرستی اور یادگار پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی محبت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رام چندر اور کرشن کو بندے سے خدا کا رتبہ دے دیا۔

شرک میں سب سے زیادہ وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو انبیاء اور صلحاء کی اندھی محبت میں گرفتار تو ہوتے ہیں لیکن آداب محبت سے واقف نہیں ہوتے۔ دشرعیّت آداب محبت کا ہی دوسرا نام ہے، اسی اندھی محبت کو قرآن مجید میں غلو فی الدین کا لقب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ - (النساء: ۱۷۱)

”اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو (انتہا پسندی) سے کام نہ لو“

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا:

لَا تَطْرُقُونِي كَمَا طَرَقَتِ النَّصَارَى ابْنُ مَرْيَمَ (بخاری، الانبیاء، باب: ۴۸)

جس پر تمام علتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی خلق و پیدائش اور کائنات کے وجود کی اصل علت ٹھہرے گی۔
قرآن مجید میں یہی منطقی دلیل ایک دو آیتوں میں اس انداز میں مذکور ہے:-

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَالْيَدِیْهِ یُوجِبُ الْاَمْرَ کُلَّهُ - فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

عَلَيْهِ (مہود: ۱۲۳)

”اور خدا ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی بات اور اس کی طرف ہر بات لوٹاتی جاتی ہے۔ اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر“
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اِنَّ اِلٰی رَبِّکَ الْمُنْتَهٰی (النجم: ۴۲)

”اور یہی کہ تیرے رب کی طرف ہے سب کی انتہا“

صحیح مسلم کتاب الایمان میں متعدد روایتوں سے مندرجہ ذیل حدیث مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا:
”لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ انسانوں کو خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو خدا نے بنایا، زمینوں کو اس نے بنایا، دنیا کی ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا کہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب کسی کو پیش آئے تو کہہ دے کہ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ”میں اللہ پر ایمان لایا، غور کرنے پر صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرمؐ نے غور کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ آخر تمام علتوں کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوگی۔ اور ایک علت کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری اور پھر چوتھی، یوں بڑھتے بڑھتے کہیں نہ کہیں کسی نقطے پر پہنچنا پڑے گا جہاں پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہی سب سے پہلی علت ہے اور یہی ہر چیز کا سبب اول ہے اور یہی کہنا پڑے گا آمَنْتُ بِاللّٰهِ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ علت اولیٰ ہے جس کے بعد کوئی علت نہیں۔ یہی تمام اسباب کا سبب اور تمام علتوں کی علتِ اصلیہ ہے۔“

”یہ نئی طرح میں اس طرح سے مبالغہ نہ کر جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ سے کام لیا“

دیکھیے کہ یہ اندھی محبت کیا کیا کرشمے دکھلاتی ہے اور کس طرح سے شرک کی طرف لے جاتی ہے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَّ إِلَيْنَا إِلَّا رِجَالٌ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا النَّصَابَا وَسَمُّوا بِأَسْمَائِهَا حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَوْلِيَاكَ وَنَسَخَ الْعِلْمَ بَطَرَتْ تَفْسِيرًا بِنِ كَثِيرٍ - سُوْرَةُ النُّوْرِ

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے ”انہوں نے کہا ہرگز مت چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو دود اور سواع“ کو اور نہ ”یعوق“ اور نہ ”یغوث“ اور نہ ”یسوق“ اور نہ ”سور“۔ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ صالح لوگ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کرو اور اس پتھر کو ان کے نام سے پکارو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا جب یہ لوگ بھی مر گئے اور ان سے علم اٹھ گیا تو ان کی اولاد نے ان پتھروں اور یادگاروں کی پرستش شروع کر دی“

ایسے ہی روایت ابن جریر محمد بن قیس سے بھی ہے۔

”بہت سے لوگ ان صالحین دود، سواع، یغوث، یعوق، نسر کے متبعین تھے اور ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ جب یہ صالحین وفات پا گئے تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا کر رکھ لیں تو ان کی تصویروں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ولولہ اور شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان صالحین کی تصاویر بنا کر رکھ لیں۔ جب یہ لوگ بھی مر گئے اور ان کے بعد کی نسل آئی تو شیطان نے انہیں یہ بُجھایا کہ تمہارے

توحید پر دلائل قانعہ

شُرک کے ابطال اور توحید کے اثبات پر سب سے زیادہ جس دلیل کو پیش کیا گیا ہے وہ نظام کائنات کی کیسانی و وحدت اور دنیا میں علت و اسباب کا باہمی توافق، تعاون، اشتراک اور اتحاد ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اُس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمام کی تمام قوتیں اور اسباب باہمی اشتراکِ عمل اور تعاون اور توافق سے اس کام پر نہ لگ جائیں۔ یہ باتیں گذشتہ صفحات میں ہم کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں قرآن پاک نے اس حقیقت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْنَا - فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

(انبیاء: ۲۲)

”اگر زمین و آسمان میں اس خدا سے واحد کے سوا چند اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے تو پاک ہے عرش والا خدا ان باتوں سے جو یہ مشرک کہتے ہیں۔“

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا - سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا - تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - (بنی اسرائیل: ۲۲-۲۴)

”کہہ دیجیے اگر خدا سے واحد کے ساتھ کچھ اور خدا ہوتے جیسا کہ مشرک کہتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ ضرور خدا سے مالکِ عرش کی طرف (لڑنے بھڑنے کے لیے) راستہ نکالتے تو پاک اور بلند ہے وہ خدا اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، خدا سے واحد کی پاکی اور بلندی سا توں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ

آباد اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان ہی کے وسیلے سے بارش ہوا کرتی تھی،
چنانچہ وہ ان کی عبادت میں لگے گئے۔“ (فتح المجید، ص ۲۲۲)

علامہ قرطبی کہتے ہیں:

”پہلے پہل جن لوگوں نے ان کی تصاویر بنائیں، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان تصاویر سے
ان کی یاد آئے گی اور ان کے اعمال صالحہ یاد آئیں گے۔ یہ تصاویر ان جیسے اعمال صالحہ اور امور
خیر پر اکسائیں گی اور زیادہ سے زیادہ نیکی کا سبب بنیں گی، ان کی قبروں کے پاس جا کر اللہ
تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کریں گے۔ پھر ہوا یوں کہ جب اگلی نسل آئی تو وہ اصل بات بھول
گئی اور ان تصاویر کا اصل مقصد ان کے ذہنوں سے فراموش ہو گیا۔ پھر شیطان نے ان کے
دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے آباؤ اجداد ان تصاویر کی تعظیم و عبادت کیا کرتے تھے۔
(چنانچہ وہ بھی کرنے لگے)۔“ (فتح المجید، ص ۲۲۳)

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”شیطان قبر کے پجاریوں کے دل میں ہمیشہ یہی بات اتقا کرتا رہتا ہے کہ قبروں پر عمارت
اور قبے بنانا اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا (اعتکاف)، انبیاء اور صالحین کی
محبت کا مظہر ہے۔ ان کے ہاں جا کر اگر دعا مانگی جاتے تو وہ قبول و مستجاب ہوتی ہے۔
جب وہ یہاں تک آگئے تو اب یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ اگر ان کو وسیلہ ٹھہرا کر دعا
کرو گے اور ان کے نام کی قسم دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔“

جب یہ بات ان کے ذہن نشین ہو گئی تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تم براہ راست
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی سے دعا مانگو اور ان کو اپنا شفاعت کنندہ سمجھو۔ ان کی قبروں پر چادریں
چڑھاؤ، چراغاں کرو، ان کا طواف کرو اور ان کو بوسے دو اور دُور دُور سے ان کی زیارت
کو آؤ جیسا کہ حج کو سفر کیا جاتا ہے اور یہیں پہ آکے جانور بھی ذبح کرو۔“

جب یہ بات سچ ہو گئی تو شیطان نے ان کو گمراہی کے اس درجے سے دوسرے درجے پر

تسبیح نہ کرتی ہو“

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّاهَبَ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ

وَلَعَلَّابَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْتَحِنُّ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ر المؤمنون : (۹۱)

”خدا نے نہ تو اپنا کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر

معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا

کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے“

گویا بالفاظ دیگر توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کی اصل دلیل کائنات میں وحدت و یکسانیت

کا وجود ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام امور ایک مقررہ نظام اور لگے بندھے اصول کے تحت

چل رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کسی ایک ہستی کے اشارے پر ہو رہا ہے۔

مندرجہ بالا آیات قرآنیہ میں توحید پر جو دلیل دی گئی ہے اسے متکلمین کی اصطلاح میں یوں ادا کیا

جا سکتا ہے کہ عالم کون و مکان معلول ہے اور اس کی علتِ اولیٰ کا وجود ایک منطقی تقاضا ہے۔ علتِ اولیٰ

یا علتِ تامہ اس کو کہتے ہیں جس میں معلول کے وجود کے بعد کسی اور چیز کا انتظار نہ رہے۔

اب ظاہر ہے کہ معلول کی دو علتِ تامہ نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے کہ کائنات کی اگر علتِ تامہ ایک

نہ ہو بلکہ دو ہوں تو دو صورتوں میں سے ایک صورت لازماً ہوگی۔ ایک تو یہ کہ علتِ تامہ کے وجود کے

بعد کائناتی وجود میں دوسری علتِ تامہ کا انتظار رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ انتظار نہیں رہے گا

اگر پہلی صورت درست ہے تو پہلی شے علتِ تامہ یا علتِ اولیٰ نہیں رہے گی اور اگر دوسری صورت

درست ہے یعنی دوسری علتِ تامہ کا انتظار نہیں رہے گا تو اس سے ثابت ہوگا کہ دوسری شے علتِ تامہ

نہ ہوگی۔ اور نہ وہ علتِ اولیٰ کہلا سکے گی بلکہ وہ سرے سے علت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس کی ضرورت

نہیں ہے اور اس کا انتظار نہیں ہے۔

تو ثابت ہوا کہ کائنات کی علتِ تامہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتیں اور

وہی علتِ تامہ وجود باری تعالیٰ ہے۔

منتقل کر دیا اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کو بھی ان کی عبادت کی طرف بلائیں اور ان قبروں پر
 آکے عبادت کے اعمال بجالاتیں (تہوار اور عرس منائیں) چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اعمال
 ان کی دنیا کے لیے بھی بہت مفید ہیں (مالا مال ہو گئے) اور آخرت میں بھی۔

جب بات یہاں تک پہنچ گئے تو شیطان انہیں یہاں تک لے آیا کہ وہ کہنے لگے کہ جو
 شخص ان اعمال سے روکے وہ بزرگوں کے مراتب عالیہ کا منکر ہے، گستاخ ہے، ان کی
 شان میں کمی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چنانچہ
 وہ اہل توحید پر غضبناک ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں۔“

۲۔ شرک کا دوسرا سبب تجسیم صفات الہیہ

جیسا کہ گزر چکا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تجسیم کی اور ان کو مستقل وجود میں
 ڈھال دیا اور ان کے لیے محسوس تراش لیے۔ یہ بت پرستی کا اصل سبب ہے۔

۳۔ تیسرا سبب درمیانی واسطے

شرک کا بہت بڑا سبب مشرکین کی یہ ذہنی افتاد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک براہ
 راست پہنچنا تو ممکن نہیں ہے۔ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے وسیلے اور واسطے
 اختیار کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ وہ انبیاء، صلحاء اور اہل قبور کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واسطہ یا وسیلہ
 قرار دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال مشرکین کے کا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ

ذَلْفَىٰ - (زمر: ۳)

”اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور کارساز بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس
 لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں۔“

باقی رہ گیا ایک خدا! (برہانِ تمنع)

مذکورہ بالا آیت کی تشریح ایک مفروضے کے ذریعے کی جاسکتی ہے:

فرض کریں کہ اس دنیا میں ایک سے زیادہ یا دو خدا ہیں۔ اب ان دو خداؤں کا باہم دگر اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے ان میں سے ایک خدا دوسرے پر اپنے علم و قدرت میں غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں:-

اول یہ کہ یہ خدا دوسرے خدا پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ اس صورت میں یہ تو عاجز و مقہور ہو گیا، خدا ہی نہ رہا۔ باقی رہ گیا ایک خدا، جس پر غلبہ نہ پایا جاسکا۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خدا نمبر ۱، خدا نمبر ۲ پر علم و قدرت میں غلبہ پالے۔ ایسی صورت میں اس کی خدائی تو تسلیم لیکن خدا نمبر ۲ عاجز و مقہور ہو گیا۔ وہ خدا نہ رہا۔ تو باقی رہ گیا ایک خدا! اس دلیل کو فلسفہ کی زبان میں ”برہانِ تمنع“ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ فرض کیجئے دو خدا ہیں۔ ان میں سے ایک خدا زید کو کسی مقام پر متمکن کرنا چاہتا ہے، دوسرا خدا اس کے برعکس زید کو معطل کرنا چاہتا ہے۔ اب دونوں باتیں بیک وقت تو ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ دو خداؤں میں سے ایک خدا کا ارادہ ہی پورا ہو سکے گا۔ اب جس خدا کا ارادہ پورا نہ ہو سکا، وہ مقہور، عاجز اور مغلوب ہو کر رہ گیا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو باقی رہ گیا ایک خدا!

تو اس اعتبار سے دیکھا جلتے تو منطقی طور پر ایک خدا سے زیادہ کا وجود عملاً ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہی دلیل پیش کی گئی ہے:-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

لَفَسَدَتَا. (الانبیاء: ۲۲)

”اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا

دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان

دونوں کا نظام بگڑ جاتا“

”اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور

مَا تَتَّخِذُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ. وَمَا كَانَ

پہر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ درمیانی واسطے بذات خود خدا بن جلتے ہیں۔ پاک و ہند کے مشرکین کی ذہانت درج ذیل کے شعر سے ملاحظہ فرمائیے:

اللہ کے پتلے میں وحدت کے سوا کیا ہے
جو کچھ ہیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے

اس سلسلے میں ایک اور گمراہی یہ ہے کہ درمیانی واسطوں کو شفاعت و مغفرت کا یقینی سبب سمجھا جاتا ہے۔ ذہنیت ملاحظہ ہو، کہتے ہیں:

پکڑے خدا اور چھڑاتے محمد جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا
یعنی سب کچھ اختیارات اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آگئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے جب محمد رسول اللہ چاہیں گے تو بخشوا لیں گے اور اگر محمد رسول اللہ کسی کو پکڑنا چاہیں تو اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہنچے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذلك۔
اب آئیے درج ذیل آیت پر کچھ غور کریں۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ: ۲۵۵)

”کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ (البقرہ: ۲۱)

شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ - (رؤس: ۱۸)

”اور اللہ کو چھوڑ کے اور اللہ کے سوا یہ ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں

نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ان کے شفاعت کنندہ ہیں“

اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس کے ہاں کوئی

شفاعت بھی اس کی اجازت کے بغیر بار نہیں پاتی۔ دیکھیے جب عبیل القدر نبی ابراہیم خلیل اللہ

اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے :-

مَعَهُ مِنْ إِلَهِ، إِذِ الذَّهَبَ كُلِّ إِلَهِ
بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ - عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ -

والمؤمنون: (۹۱)

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

والمعین: (۲۳)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

أَحَدٌ - (الإخلاص)

کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایسا
ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لیکر لگ ہو جاتا اور
وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے
اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کھلے
اور چھپے کا جلنے والا ہے، وہ بالاتر ہے اس
شُرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔

”وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی
ہے اور معنی بھی۔“

دیکھو وہ اللہ ہے کیا۔ اللہ سب سے بے نیاز
ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی
کی اولاد۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔“

لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ وَمَا أَمَلَكَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (ممتحنہ: ۴۰)

• (اے ابا) میں ضرور بالضرور آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا لیکن اللہ کے حضور

دیں آپ کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں۔“

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تو

یوں وحی نازل ہوئی:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ

اللَّهُ لَهُمْ - (توبہ: ۸۰)

”تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے ستر دفعہ بھی مغفرت مانگو تو

خدا ان کی مغفرت نہ کرے گا۔“

اور دیکھیے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے

اور وہ غم سے بیاباں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ان پر یوں عتاب ہوتا ہے کہ وہ

بیٹے کو قبول جاتے ہیں اور اپنی فکر ٹر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ

أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلِنِ

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

دھود: ۴۵-۴۷

”اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں

میں ہے تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بہتر حاکم ہے خدا

نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں وہ تو ناشائستہ افعال ہے تو جس چیز

کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت

قرآن کا تصورِ خدا

اسلام سے پہلے اہل عرب کے ہاں خدا کا تصور تو تھا لیکن بہت ہی ادھورا۔ وہ ایک خالق کائنات اور رب کے وجود کو تو تسلیم کرتے تھے لیکن اسے تنہا اس کائنات کا مالک نہیں سمجھتے تھے۔ بالفاظِ دیگر ان کے یہاں توحیدِ ربوبیت تو پائی جاتی تھی مگر توحیدِ الوہیت نہیں تھی۔ یہودیوں کا خدا ان کا خاندانی خدا تھا، جس نے ساری کائنات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا۔ اور کائنات پیدا کرنے کے ساتویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ یہ خدا صاحبِ اولاد تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں۔

عیسائیوں کا خدا اپنی ساری خدائی اور اختیارات ابنِ مریم کو دے کر خود معطل ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کے خدا نے اپنے وجود کو لاکھوں اوتاروں کی شکل میں تقسیم کر ڈالا۔ اور برہما، مہیش اور بھشن تینوں نے مل کر خدائی کے کاروبار باہم تقسیم کر لیے۔ ادھر ایرانیوں کے خدا کی خدائی نیکی اور بدی کی دو مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف یزدان اور دوسری طرف اہرمن!

دیکھیے اسلام نے اللہ تعالیٰ کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف خود اللہ تعالیٰ کی زبانی ہو۔ فرماتے ہیں :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

”اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں۔ اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ عیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا ہے

کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوحؑ نے کہا پروردگار! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔“

مندرجہ ذیل آیات اس مسئلہ میں حجت قاطعہ ہیں:

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ - (آل عمران: ۱۳۵)

”اور خدا کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے“

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا - (مریم: ۸۷)

”یہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جس نے رحم والے خدا سے اقرار لے لیا ہو“

إِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُوبًا أَوْ كَانُوا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ - قُلْ

لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا - لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - (زمر: ۲۳-۲۴)

”کیا انہوں نے خدا کے سوا اوروں کو شفیع بنا رکھا ہے کہہ دے کہ اگرچہ ان کو کسی چیز کا

اختیار نہ ہو اور نہ ان کو سمجھ ہو تو بھی؟ کہہ دے کہ شفاعت کا کل اختیار خدا ہی کو ہے۔ اسی کا

راج آسمان اور زمین میں ہے اور اسی کی طرف تم لوٹتے جاؤ گے۔“

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ - (الزمر: ۸۶)

”اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ

جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ دانش رکھتے ہیں۔“

مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اذْنِهِ - (یونس: ۳)

”خدا کی بارگاہ میں کوئی شفیع نہیں، یاں مگر اس کی اجازت کے بعد۔“

غور سے دیکھیے کہ ایک نبی بھی اللہ کے حضور اپنی امت کی مغفرت طلب کرتا ہے تو کس انداز کے

ساتھ۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(المائدہ: ۱۱۸)

”اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے تو ہیں اور اگر تو بخش دے تو توبہ

کچھ کر سکتا ہے کہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔“

شفاعت سے انکار نہیں ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن ذرا آنکھیں کھول کے قرآن مجید کی آیات کو بھی پڑھ لینا چاہیے اور شفاعت کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔

شفاعت اپنوں کی ہوا کرتی ہے دشمنوں کی نہیں۔ مخلصین کی ہوا کرتی ہے، کج رو، بد باطن اور چشم اخول سے دیکھنے والے منافق کی شفاعت کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ حملہ آور دشمن کی فوج کے کچھ لوگ گرفتار ہوں اور بادشاہ کے سامنے ان کی سفارش کی جاتے کہ ”جناب ان کو چھوڑ بھی دیجیے اور ان کو انعام و اکرام سے بھی نواز دیجیے۔“

اس شفاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شفاعت کرنے والا خود بھی غداروں کی فہرست میں لکھ لیا جائیگا کہ اس کا بھی مخالف کیمپ سے تعلق ہے۔ شفاعت کا فطری اسلوب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی مخلص آدمیوں کے لیے کی جاتی ہے اگرچہ وہ خطا کے مرتکب ہوں یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ ”یہ شخص آپ کا مخلص اور وفادار ہے، اس کی کچھ خدمات بھی ہیں، ہاں بتقاضائے بشریت اس سے کچھ غلطیاں صادر ہو گئی ہیں، آپ کی بخشش کا مستحق ہے اسے معاف کر دیجیے۔“ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے مخلص نہیں ہیں اور اللہ کی بادشاہت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان کی شفاعت کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جاتے گی۔ سیدنا ابراہیم کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب کریں۔

۴۔ شرک کا چوتھا سبب کشف و کرامت
شرک کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں

سے کشف و کرامات صادر ہوتی ہیں ان کی نسبت لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ خود خدا تو نہیں ہیں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ خدائی کا شائبہ ضرور ہے اور ادھر یہ طاغوتوں کا ٹولہ ہے جو جوگیوں کی سی ریاضتیں کرتے ہیں۔ قوتِ ارادی سے متعلق خاص ریاضتوں، منتر، ٹوٹکے اور اعمالِ سحر سے اپنے آپ کو فوق البشر ثابت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے صنعیف الاعتقاد لوگوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکا لیتے ہیں۔

اگر کشف ہی بزرگی کا معیار ہوتا تو جنگِ بدر میں صحابہ کرام کو فرشتے اترتے ہوتے نظر نہیں آتے لیکن شیطان کو نظر آ رہے تھے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَإِذْ زَيْنَ لَهْمُ الشَّيْطَانِ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَأَغْلِبَنَّكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي

جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَدِئْتُ بِكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا

تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ (انعام: ۴۸)

”ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں

میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ کج کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے

ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہوں کا آمناسا منا ہوا تو وہ اٹھے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ

میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا

ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔“

اب کوئی مائی کالا لال یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان جسے وہ کچھ نظر آیا جو صحابہ کرام کو نظر نہ آسکا، کیا صحابہ

کرام کے مقابلے میں زیادہ بزرگی رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صیاد نامی ایک کاہن تھا

اور حضور اکرم کے سامنے بھی اس نے فن کا مظاہرہ کیا۔ لیکن وہ اسلام نہیں لایا۔ وہ دوسروں کو ان کے دل

کی باتیں بتا دیا کرتا تھا، کیا اُسے بھی اولیاء اللہ کی صف میں شمار کرو گے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن صیاد کاہن نے یہ کہا کہ آپ اپنے جی میں کوئی بات چھپاتیں، میں

بوجھوں گا۔ آپ نے اپنے جی میں سورۃ الدخان کا خیال فرمایا اور ابن صیاد نے فرمایا کہ میں نے ایک بات

اپنے دل میں چھپاتی ہے تم بوجھو کیا ہے؟

ابن صیاد نے کہا: "الدخ الدخ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 "اخذوا فلن تعدو قدرک" (تو رسوا ہو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھ سکے گا)۔

صحیح مسلم، جلد ثانی، ص ۲۹۷

اس طرح سورہ کہف میں حضور موسیٰ علیہما السلام کے مذکورہ قصہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ کشف ہوتا تھا۔ لیکن تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی ان سے بلند تر درجہ پر سرفراز تھے۔ پس معلوم ہوا کشف و کرامات بزرگی و ولایت کا معیار نہیں ہیں۔

اسی طرح کسی شخص کی دعاؤں کا کثرت سے قبول ہونا بھی ولایت کی دلیل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے خواہ وہ کافر و فاسق ہی کیوں نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ولایت و بزرگی کا معیار اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مٹنا ہے۔ ان کا اتباع ہی اصل دین ہے۔ اس سے انحراف ہی شرک کا سب سے بڑا سبب ہے۔

۵۔ شرک کا پانچواں سبب صفات الہیہ میں شرک

گزر چکا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں جن میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، انسانوں کو شریک کر دیتے ہیں۔ مثلاً کائنات کے امور میں تصرف اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں لیکن پاک و مہند میں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کو علم غیب حاصل ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے اتنی قوتیں اور اختیارات دیتے گئے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔

اب قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیجیے:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْنَثُ

مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوْبُ - (اعراف : ۱۸۸)

”اے محمد ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا“

اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے

اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا“

ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے انصار کی چند لڑکیاں

گارہی تھیں گاتے گاتے انہوں نے یہ مصرعہ پڑھا :

”وَفِينَا رَسُولٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَيْبِ“

”ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ”یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو

پہلے گارہی تھیں“ (صحیح بخاری : کتاب النکاح)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جس میں کوئی شریک نہیں ہے وہ یہ کہ وہ شارع مطلق

ہے۔ وہی کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرا سکتا ہے جو لوگ یہ حق یا صفت دوسروں کے لیے بھی روا رکھتے

ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ لوگ جو حلال کو حرام ٹھہراتے

اور حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں اور وہ لوگ جو ان طاغوتوں کی بات مان لیں وہ

ان طاغوتوں کو اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ٹھہرا رہے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاهُذِهِ الْآيَةَ عَلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

الطَّائِفِي فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْنَا نَعْبُدُ هُمْ، قَالَ أَلَيْسَ يُعْبَدُونَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ

اللَّهُ فَيُعْبَدُونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَعْبُدُونَهُ؟ قَالَ بَلَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتْلِكَ عِبَادَتُهُمْ - رواه الامام احمد والترمذی وحنه

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی کے سامنے یہ آیت پڑھی ”اِتَّخَذُوا
 اٰجِبَارَ وَاَصْحَابًا يَحْمِلُوْنَ وَاٰمَنَّا بِاَنَّ دُوْنَ اللّٰهِ اِلٰهٌ اَحَدٌ“ ان لوگوں نے اپنے علماء اور راہبوں
 کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا، تو عدی بن حاتم طائی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ ان
 کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا وہ تمہارے
 لیے اس چیز کو حلال قرار نہیں دیا کرتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اور تم
 بھی ان کی تقلید میں ان کی پیروی میں حلال ہی قرار دے دیتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے
 کہ وہ ان امور کو جنہیں اللہ نے حلال ٹھہرایا، حرام ٹھہرا دیتے تھے اور تم بھی ان کے ساتھ
 میں انہی چیزوں کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ عدی بن حاتم نے جواب دیا جی ہاں۔ تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو عبادت ہے اور یہی ان کو رب ٹھہرانا ہے۔“

۶۔ شرک کا چھٹا سبب اسباب دنیا پر بھروسہ

دنیا کی چیزوں اور اسباب میں مستقل تاثیر کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ لوگ مال اسباب پر اس
 قدر بھروسہ کرتے ہیں کہ نتیجہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے مال و دولت اور ان
 کے اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسباب میں مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ
 میں نے فلاں دوائی کھائی اور فلاں دوائی نے مجھے شفا دے دی یا فلاں دوائی کی تاثیر ایک مستقل چیز
 ہے اور شفا کا باعث ہے۔ یہ بات خالصتہً شرک ہے، اس لیے کہ کسی چیز کی کوئی صفت اپنی جگہ پر
 مستقل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ صفت یا وہ خاصیت
 اس میں سے نکال دیں۔ اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی نہ کہ وہ چیز۔ شرک کے اسی سبب
 کا نتیجہ لوگوں کے اندر اسباب مال و جاہ کی بے حد و حساب محبت ہے اور بات یہاں تک پہنچتی
 ہے کہ لوگ انہی اسباب کو ہی خدا مان لیتے ہیں۔ حق کو چھوڑ کر اہل اقتدار کی پوجا کرتے ہیں دولت

کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے دولت کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں
حدیث شریف میں ہے :

”تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالِدِ هَيْمٍ...“ (بخاری، الجہاد، باب : ۷۰)

”ہلاک ہو دینار و درہم کا بندہ“

مُشْرِكِينَ مَكَّةَ اور موجود دوسرے مُشْرِكِينَ کا مقابلہ

مُشْرِكِينَ عرب جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ان کے عقائد پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پوری کائنات کا خالق و مالک جانتے تھے۔ مُشْرِكِينَ عرب کا اس بات پر ایمان تھا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی ساتوں آسمانوں کا اور عرشِ عظیم کا رب ہے۔ ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی ہر ایک کو پناہ دے سکتا ہے، اور کوئی اس کے مقابل پناہ نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں ان کے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے:

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيزُهُ وَيَجَارِعُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ فَأَلِي تَسْحَرُونَ۔ (المؤمنون: ۸۴-۸۹)

”اے نبی ان سے کہو کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے، جھٹ بول انہیں گے کہ خدا کا۔ کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرشِ عظیم کا کون مالک ہے، بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ ان سے کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے تو کہو کہ پھر تم پر جا دو کہاں سے

پڑ جاتا ہے۔“

تو معلوم ہوا کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو ہی پرہیز کا خالق، مالک اور رب مانتے تھے صرف اسی کو ہی ہر ایک کا پناہ دہندہ اور دستگیر مانتے تھے۔ مگر اس سب کچھ کے بعد بھی انہیں مُشرک قرار دے دیا گیا آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے اور واسطے تلاش کیا کرتے تھے۔ کہیں لات، کہیں نغزئی، کہیں سہل اور انہی کے نام نذر و نیاز اور نذرانے چڑھایا کرتے تھے اور انہی کے ہاں جا کے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے۔

لیکن اس معاملے میں بھی مشرکین عرب کا حال بہت عجیب تھا۔ عام حالات میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور انہیں پکارتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے، لیکن جب ان پر بیتا آن پڑتی اور تکلیف کی گھڑی آجاتی تو وہ تمام جھوٹے خداؤں کو بھول کے صرف ایک اللہ کے ہورہتے۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے :

فَاذْكُرُوا فِي الْفَلَاحِ دَعْوَا اللّٰهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ

اِذَا هُمْ يَشْكُرُونَ (حکبوت: ۶۵)

”پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر سے شرک کرنے لگ جلتے ہیں“

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ

إِلَى الْبَرِّ قَالُوا مَتَّصِدُوا لِمَا بَعَثْنَا إِلَيْنَا بِالْأَكْلِ خَتَارًا كَغُورٍ۔ (لقمان: ۳۲)

”اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو کم ہی ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہمہ تن اور ناشکرے ہیں“

اس بات کی تو اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ گھبراہٹ اور تکلیف کے وقت مشرکین عز
تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کرتے تھے اور خالصتہً اسی کی عبادت
میں لگ جاتے تھے۔

اب ان مشرکین عرب کا تعابُل اس دور کے نام نہاد مسلمانوں سے کیجیے جو کہ خوشی کیا، غم کیا،
گھبراہٹ کیا، عام حالات کیا، ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور انہی سے مرادیں مانگتے ہیں۔
آپ نے اوپر کی سطور میں دیکھا کہ مشرکین عرب قرآن مجید کی زبان میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ
خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اس دور کے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھیے کہ وہ کسی قبر والے
سے جا کے چاہے بیٹیلے آئیں اور چاہے بیٹی لے آئیں۔

دیکھیے قرآن مجید کس قدر واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ غیروں سے مرادیں مانگنا اور دعا کرنا نہ
صرف یہ کہ حرام و ناجائز ہے بلکہ یہ کہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا
كَبَاسِطٍ كَفِيٍّ إِلَى الْمَاءِ يَلْبِغُونَ فَاؤَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا الْكَاْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔

(الرعد: ۱۴)

یہی کو پکارنا حق ہے۔ نہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے
ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں، انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسا کوئی
شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا جانے کہ
پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ پس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر
بے ہوش۔

عبادت، استعانت اور استغاثہ تینوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ کسی غیر کو اس میں
شریک نہیں کیا جاسکتا یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کی جاسکتی ہے۔ مدد صرف اسی کی مانگی جاسکتی

ہے۔ صرف اسی کے سامنے فریاد کی جا سکتی ہے۔ اور صرف وہی فریاد رسی کرتا ہے۔ جیسا کہ
اس نے خود ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ دُعا سکھائی:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (فاتحہ: ۴)

”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (الانعام: ۱۶۲)

”کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت اور میرا چہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے

جو تمام جہانوں کا رب ہے“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَامِطِلْب

ہم نے گزشتہ صفحوں میں دیکھا کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے منکر نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ فرمائی جب تک کہ وہ توحید الوہیبہ پہ ایمان نہیں لے آتے۔ اور انہوں نے اپنے اعمال عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کر لیا یعنی دُعا، استعانت، قربانی، نذر و نیاز، خوف ورجاء، محبت، توکل، امانت، خشیت، رغبت، فرمانبرداری، رکوع و سجود، خشوع و خضوع، عاجزی و تدلل، تعظیم حتیٰ کہ وہ تمام اعمال جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، وہ سارے اعمال جب تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص نہ کر لیے اور اس میں غیروں کو شریک کرنا بند نہ کر دیا اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگ ہی فرماتے رہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کیا تھی؟
گزر چکا کہ توحید کی کئی قسمیں ہیں: مثلاً توحید الوہیبہ، توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات۔
اب ہم توحید الوہیبہ کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کی اصل بنیاد
کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

إِلَه كَامِطِلْب

إِلَه كَامِطِلْب کیلئے ہے؛ عربی زبان میں کلمہ اللہ کا مادہ تین حروف ہیں: ل، ل، ل، کا۔ اور جیسا کہ بعض معاجم اللغۃ میں مذکور ہے، یہ کلمہ مندرجہ ذیل معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے:
آلہ الرجل یآلہ: یعنی پناہ پکڑی۔

الْمَثِّ إِلَى فُلَانٍ : ”یعنی فلاں کے ہاں میں نے سکون و اطمینان حاصل کیا۔“
 آلَهُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ : ”یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی طرف شدتِ شوق و محبت سے
 متوجہ ہوا۔“

آلَهُ الْفَصِيلُ بِأُمَّهُ : ”یعنی وہ بچہ جس کا دودھ چھڑایا گیا، اپنی ماں سے بے قرار ہو کے
 لپٹ گیا۔“

آلَهُ الْآهَةَ وَالْوَهَةَ : ”یعنی عبادت کی۔“

لَا يَلِيهِ لَيْمًا : ”یعنی پردے میں آگیا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس کی پناہ پکڑی
 جاتے، جس کے ہاں سکون و اطمینان نصیب ہو، جس کی طرف انتہائی شوق و محبت کے ساتھ
 رجوع کیا جاتے اور جس کی طرف یوں بے قرار ہو کے توجہ کی جاتے جیسے وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا
 دیا جاتا ہے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے اور وہ ہستی جس کی کہ عبادت کی جاتے، اور وہ ذات
 جو پردے میں ہو۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مراد وہ ذات ہے کہ دل جس کی محبت
 میں بے قرار ہوتے ہوں، اسی کی جلالتِ شان سے مرعوب ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتے
 ہوں، اسی کا اکرام و تعظیم کرتے ہوں، اسی کے سامنے ذلت و خضوع اور خوف سے پیش آتے
 ہوں، اسی سے امیدیں باندھتے ہوں اور اسی پہ بھروسہ رکھتے ہوں۔

علامہ ابن رجب کہتے ہیں ”اللہ“ وہ ذات ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور جس کی
 ہیبت و جلالتِ شان کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کی جاتی ہو۔ اسی سے محبت کی جاتی ہو اسی
 سے ڈرا جاتا ہو، اسی سے امیدیں باندھی جاتی ہوں، اسی پہ بھروسہ کیا جاتا ہو، اسی سے سوال
 کیا جاتا ہو، اسی کو پکارا جاتا ہو، اور یہ سارے اعمال سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے
 جائز نہیں۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "إله" وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ دل انتہا درجے کی محبت رکھتے ہوں، انتہا درجے کی تعظیم اور اجلال و اکرام کرتے ہوں اور انتہا درجے کا خوف ورجاء بھی اسی سے رکھتے ہوں۔ اور ایسے ہی تمام امور اسی سے متعلق رکھتے ہوں۔"

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں "إله" فعال کے وزن پر اور مفعول کے معنوں میں ہے۔ جیسے کتاب مکتوب کے معنوں میں ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ "الہ" اور مصدر "إلہ" ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے "عَبَدَ عِبَادَةً" یعنی اس نے عبادت کی۔"

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تشریح کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ کلمہ شہادت پہ ایمان کی ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اس کے معنی بھی سمجھے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس کلمہ کا مفہوم سمجھے بغیر اس کا زبان سے اقرار کر لے تو دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے حاشیہ "المفہم" میں باب باندھتے ہیں کہ:

"لَا يَكْفِي مُجَدُّ اللَّفْظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَلْ لَابَدًا مِنْ اسْتِيقَانِ الْقَلْبِ"

"کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف لفظی طور پر زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھ کر دل سے اس کی گواہی دے اور دل کے اندر اس کا یقین پیدا ہو"

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں!

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (محمد: ۱۹)

"خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔"

یعنی اللہ تعالیٰ بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پیش کرتے ہوئے ابتداء علم سے کرتے ہیں اگر اس کلمہ کا علم حاصل نہیں ہے تو ایمان بھی حاصل نہیں ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پر بعض علمائے سلف نے علم کو ایمان پر مقدم قرار دیا ہے۔ مشرکین عرب کی مشکل یہ تھی کہ وہ اس کلمہ کے معنی سمجھتے تھے اور

اس کے تعارضوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جانتے اور مانتے تھے لیکن تمام عبادات اس کے لیے خالص کرنے کو تیار نہیں تھے، بالفاظِ دیگر کفار مکہ کلمہ شہادت کی حقیقت کو تو سمجھتے تھے لیکن اس اخلاص سے انکار کرتے تھے جس پر کلمہ طیبہ دلالت کرتا ہے مگر افسوس کہ اس دور کا مسلمان کلمہ طیبہ کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اور نہ معنی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صبح سے شام تک جپتا رہتا ہے لیکن غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ایمان کے حصول کی خاطر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مطلب سمجھنا از بس ضروری ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کو لے کر تمام انبیاء و رسل انسانیت کے پاس آتے رہے اور یہی وہ کلمہ ہے جو دنیا کے تمام کلمات میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ اسی سے ہی لوگ سب سے زیادہ انحراف کرتے رہے۔ اسی کو سمجھنے میں سب سے زیادہ ٹھوکر کھاتے رہے اور اگر سمجھتے رہے تو اسی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ڈھٹائی کا ثبوت دیتے رہے۔

تو آئیے اس کلمہ کا مطلب تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کلمہ اپنے اندر معانی، مفہیم اور مطالب کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ یہاں پر ہم اس کے چند معنی بیان کرتے ہیں جو ہماری نظر میں زیادہ اہم ہیں:

- ۱۔ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ: یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
- ۲۔ لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ: اللہ کے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں،
- ۳۔ لَا مُتَصَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ، کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا بھی تصرف نہیں،
- ۴۔ لَا مَرْجُوًّا إِلَّا اللَّهُ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی امیدوں کا مرکز نہیں ہو سکتا۔
- ۵۔ لَا مَخُوفَ إِلَّا اللَّهُ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔

اب ہم ان کلمات کی مزید شرح بیان کریں گے
 لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ: کلمہ "إِلَه" کے معنی میں سے ایک معنی معبود کے ہیں اور یہی

اس کے بنیادی معنی ہیں۔

کلمہ عبد کا مادہ عربی زبان میں ع۔ ب۔ د ہے۔ عبد یا عبید اس غلام کو کہتے ہیں جسے آزادی حاصل نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں وارد ہے:

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ (الشعراء: ۲۲)۔

”اور یہی نعمت تم مجھ پر جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا“

عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو خشوع و خضوع اور دل کے ساتھ کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَدَأَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ الْعَرَبِيَّةَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكِتَابَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْغَنَاءَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْغَنَاءَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْغَنَاءَ (رُيس: ۶۰)

”اے بنی آدم کیا میں نے تمہارے دین کو شروع کیا ہے اور تمہارے دین کو اسلام بنا دیا ہے اور تمہارے دین کو عربی بنا دیا ہے اور تمہارے دین کو کتاب بنا دیا ہے اور تمہارے دین کو غنا بنا دیا ہے اور تمہارے دین کو غنا بنا دیا ہے“

اب اس آیت میں عبادت کو مجرد اطاعت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ظاہر

ہے کوئی شخص شیطان کے سامنے نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ، اور نہ کوئی شخص اپنے آپ کو

شیطان کا بندہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقَوْمًا لَنَا عِبَادُونَ (المؤمنون: ۴۷)

”اور ان دونوں کی قوم کے لوگ ہمارے سامنے مطیع و متقاد ہیں“

یہاں پر بھی لفظ عبادت بمعنی اطاعت استعمال ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

کلمہ ”عبادۃ“ میں دو مفہوم شامل ہیں:

۱۔ انتہا درجے کی محبت۔

۲۔ انتہا درجے کی اطاعت۔

جب انتہا درجے کی محبت اور اطاعت آپس میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ عبادت بن جاتی

ہے۔ امام ابن تیمیہ عبادت کی شرح میں لکھتے ہیں: عبادت کا اصل معنی ہے ”ذل“ یعنی تواضع

اور انکاری۔ عربی میں ”طَرِيقٌ مُعْبَدٌ“ پٹے ہوئے راستے کو کہتے ہیں جسے قدموں کی چاپنے

روند دیا ہو۔ اور وہ سیدھا ہو گیا ہو۔

لیکن عبادت جس کا اللہ تعالیٰ احکم فرماتے ہیں اس میں صرف تواضع انکساری ہی نہیں ہے بلکہ وہ تواضع ہے جس کی بنیاد محبت ہو۔ اس لیے کہ جتنی زیادہ محبت حاصل ہوگی اتنا زیادہ تواضع انکسار میں بھی اضافہ ہوگا۔

محبت کا آخری درجہ ”تیم“ کہلاتا ہے۔ محبت کے درجے یہ ہیں:

۱۔ پہلا درجہ ”علاقہ“ ہے یعنی دل کا محبوب سے ایک تعلق پیدا ہو جانا۔

دوسرا درجہ الصباہ ہے یعنی دل کا محبوب کی طرف جھک جانا۔

تیسرا درجہ ”الغمام“ ہے یعنی دل کا محبوب کے ساتھ بڑھ جانا۔

چوتھا درجہ ”العشق“

پانچواں درجہ ”التتیم“ ہے، یعنی محبوب کے لیے سب کچھ فنا کر دینا۔ عربی میں کہا جاتا ہے:

”تیم اللہ“ اور اس کا مفہوم لغت میں لکھا جاتا ہے: آی عبد اللہ، یعنی فلاں شخص اللہ کے

عشق میں گرفتار ہو گیا، یعنی اس کا بندہ بن گیا۔ عربی میں ”متیم“ اُس شخص کو کہتے ہیں جو کہ

”المُعَبَّدُ لِلمُحِبِّوَدِيهِ“ ہو۔ یعنی اپنے محبوب کی محبت میں فنا ہو کے اس کا بندہ بن گیا ہو۔

تو معلوم ہوا کہ عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے:

۱۔ محبت،

۲۔ اطاعت۔

اگر انسان کسی کیساتھ انتہا درجے کی محبت کرے مگر اطاعت نہ کرے تو وہ عبادت نہ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی کی بلا چون و چرا اطاعت کا ملہ تو کرے لیکن محبت نہ ہو بلکہ اطاعت کا ملہ تو کرے لیکن محبت نہ ہو بلکہ اطاعت کرتے ہوئے دل میں بغض ہو تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک باپ اپنے بیٹے سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے تو یہ محبت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی یعنی بلا شرکت غیرے محبت کامل اور بلا شرکت غیرے اطاعت تامہ کو عبادت

کہتے ہیں۔

”عبد اللہ“ یعنی اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ کسی اور کو محبوب نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ہی بے چون و چرا اطاعت کا ملہ بجالائے۔ چنانچہ وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرے، یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی بے چون و چرا اطاعت کرے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ
أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ هِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - (توبہ: ۳۷)

”اے لوگو، جو ایمان لاتے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیزو اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کماتے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندا پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا“

چنانچہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جنس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا کہ جنس محبت میں اور جنس اطاعت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جتنی محبتیں اور اطاعتیں ہوں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے ماتحت اور تابع ہوں، اور جو محبتیں اللہ کی محبت سے مکر جائیں خواہ وہ محبت آباؤ اجداد اور خاندان اور اولاد کی ہوں ان کو

ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے جو اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے ٹکرا جائیں ان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے
یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ (البقرہ: ۱۶۵)

”لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ اس
طرح کہ ان کے ساتھ یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی جانی چاہیے“
چنانچہ محبت و اطاعت اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذیل میں ہی سب
سے زیادہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہی راضی کرنا مسلمانوں
کا شیوہ قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا بِهِ ۗ (التوبہ: ۶۲)

”اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ انہیں
راضی کیا جائے“

تمام اعمال عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص

چنانچہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ان معنوں میں کہ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے اور اس میں کسی کو شریک نہیں
ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ (الزمر: ۲)

”لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے“

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِنَّي إِلَهُكُمْ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب ۗ

(الرعد: ۳۶)

”تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا

ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔“

وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (البقرہ: ۱۶۳)

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بے حد رحمت و

محبت والا اور رحیم ہے۔“

وَمَا أَسْرُفًا إِلَّا يَعْْبُدُ وَاللَّهُ الْغَاثُ وَالغَاسِقُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَلَهُ الْمُبْتَدَأُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

(توبہ: ۳۱)

”حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا

کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت خالصتہ اللہ تعالیٰ کی کی جانی چاہیے اور تمام انواع عبادت یا

عبادت سے متعلق تمام کے تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہونے چاہئیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے۔

ہم ذیل میں چند اہم اعمال عبادت بیان کرتے ہیں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے

لیے جائز نہیں ہیں۔

۱۔ نماز، رکوع و سجود :-

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ رَاجِعًا،

”اے لوگو جو ایمان لاتے ہو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔“

۲۔ دُعا

یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے دُعا نہ مانگے، خواہ

دنیا اور دین کا کوئی بھی مطلب و مقصد کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْمَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ (سج: ۶۲)

”یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں

وہ باطل ہے“

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ - (يونس: ۱۰۶)

”اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان“

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا

دَعَاءَكُمْ وَكَلِمَتُهُمْ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا

يُنَبِّئُكَ بِشَيْءٍ خَيْرٍ - (فاطر: ۱۳-۱۴)

”اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔

انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب

نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت

حال کی ایسی صبح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا“

اسی طرح سے شفاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ نہ اس کی اجازت کے بغیر

کسی سے شفاعت کرائی جاسکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی

کی شفاعت کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا إِلَّا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا

يَعْقِلُونَ - قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (الزمر: ۲۳-۲۴)

”کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا

وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو

شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے“

۳۔ ذبح و قربانی:

اللہ کے نام کے سوا کسی کے لیے نہ ذبح کیا جاسکتا ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی کے لیے قربانی کی جاسکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ (الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

کہہ دیجیے میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔“

۴۔ نذر

نذر نیاز و نذرانہ اور اس قسم کی ساری چیزیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہیں۔

۵۔ طواف

سوائے بیت اللہ شریف کے اور کسی جگہ کا طواف جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلِيَطُورُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ - (الحج: ۲۹)

”انہیں بیت العتیق یعنی اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر کا ہی طواف کرنا چاہیے۔“

۶۔ توبہ:

سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے سامنے توبہ نہیں کی جاسکتی۔ اور صرف وہی معاف کرنے

والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران: ۱۳۵)

”اور سوائے اللہ کے اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟“

۷۔ الاستعاذہ (کسی کی پناہ میں آنا)

صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ حاصل کی جاسکتی ہے، اس لیے کہ اصل جلتے پناہ وہی ہے۔ سوائے

اس کے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (التاس: ۱)

”کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔“

۸۔ استغاثہ (فریاد کرنا)

صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جاسکتی ہے اسی کے سامنے ہی فریاد کی جاسکتی ہے۔ **رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:**

إِنَّمَا لِيُتَغَاثُ بِئِي فَإِنَّهُ يُتَغَاثُ بِاللَّهِ مُبْحَثًا۔

”میرے سامنے استغاثہ اور فریاد نہیں کی جاسکتی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کی جاسکتی ہے۔“
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِذْ تَتَغَيُّثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ۔ (الانفال: ۹)

”جب تم اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی۔“

لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں)

جس طرح سے لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ ”لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ“۔ اسی طرح سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ”لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ“ یعنی وہی محبوب حقیقی ہے۔

گذشتہ صفحات میں ہم نے دیکھا کہ ”إِلَّا اللَّهُ“ کے معنی محبوب اور من مومن کے ہیں اور ”إِلَٰه“ اس معبود کو کہا جاتا ہے کہ دل جس کی طرف محبت، اجلال و تعظیم کے ساتھ جھک جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبادت میں بنیادی طور پر دو مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ایک محبت اور دوسرے اطاعت۔ مشرکین عرب اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی رب اور خالق نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنے اعمال عبادت کو جن میں خاص طور پر محبت و اطاعت، ذکر کے جاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے تھے۔

ازراہ تفتن عرض ہے کہ محبت میں تو کوئی بھی اپنا شریک گواہ نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی اپنا سب کچھ اپنے خاوند پر بھجوا کر دیتی ہے، صبح سے شام تک اس کے گھر کی چاکری

کرتی ہے لیکن اگر وہ جنسِ محبت میں غاوند کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دے تو اس کی ساری قربانی اور خدمت و چاکری اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محبت کا سرچشمہ ہے، محبوبِ حقیقی ہے اور محبتِ ازلی وابدی ہے، وہی انسان کی محبت، جذبات و عواطف کا اصل حقدار ہے، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی محبت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ اصل محبت ہو تو اسی سے ہو، چاہت ہو تو اسی کی ہو، باقی سب چاہتیں اور محبتیں اس کی چاہت اور محبت کے تابع ہوں۔ اور جو لوگ یہ نہیں کر سکتے ان کو اللہ تعالیٰ مُشْرک قرار دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (البقرہ: ۱۶۵)

”لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک و ہمسر ٹھہراتے ہیں اور وہ اس طرح کہ انہیں یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پیار کیا جانا چاہیے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے۔“

چنانچہ ثابت ہوا کہ ایمان کا یہ تعاضل ہے کہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور باقی سب چاہتیں اس کی محبت کے تابع ہوں۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس لیے مذمت فرما رہے ہیں کہ وہ محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ

اپنے باطل معبودوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں کیونکہ انہوں نے مؤمنین کی طرح نماز، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کی۔ بلکہ اس محبت میں انہوں نے غیروں کو بھی شریک ٹھہرایا۔ محبت میں اسی شرک کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: مشرکین اور ان کے باطل معبود جب دوزخ میں اکٹھے جمع ہونگے تو مشرک اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ:

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ إِذْ نَسُوْنَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - (الشعراء: ۹۷-۹۸)

”قسم خدا کی ہم تو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم تم لوگوں کو ربِّ العالمین کی برابری کا

درجہ دے رہے تھے“

یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشرکین ربوبیت اور خلق کائنات میں اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھا کرتے تھے بلکہ وہ صرف محبت اور عظمت میں برابری کے قائل تھے۔ اسی محبت اور عظمت میں برابری کے قائل تھے۔ اسی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ - يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كَوْمَةً لَاحِقَةً - الْمَائِدَةُ: ۵۴

”اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر عاتق اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی مندرجہ ذیل علامات بیان کی گئی ہیں:-
۱۔ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر بندے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے البتہ بندوں کی محبت ایک ”جو ابی کارروائی“ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ادنیٰ سا عکس ہے۔

۲۔ اللہ سے محبت کرنے والے یا مومنین آپس میں انتہائی رحمدل اور متواضع ہوتے ہیں، انکساری اور عاجزی میں ایک دوسرے کے سامنے بچھ جاتے ہیں۔ یعنی یوں ہوتے ہیں جیسا کہ بیاباب کے سامنے یا غلام اپنے آقا کے سامنے۔

۳۔ کفار کے سامنے وہ متواضع اور منکسر مزاج نہیں ہوتے بلکہ صاحبِ جبروت ہوتے ہیں۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کی شان خوب بیان فرمائی ہے:

اگر ہو جنگ تو شیرانِ غائب سے بڑھ کر اگر ہو صلح تو رعیتِ انزالِ تباری

ہو مجلس یا راں تو بریشتم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فلا دہے مومن
۴۔ وہ اللہ کی راہ میں داسے، دسے، سننے، جانے، ہر طرح سے جہاد کرتا ہے اور اسی کی راہ
میں تن من وھن لٹا دیتا ہے۔

۵۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد و تبلیغ کرتے ہوئے کسی ملامت کی پروا نہیں کرتا۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ محبت اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی تعریف میں خوب لکھتے ہیں
”محبت کی اس سے زیادہ اور کوئی تعریف نہیں کی جاسکتی کہ وہ محبت ہے۔ محبت کی
جس قدر وضاحتیں کرتے جاؤ بات اور الجھتی چلی جاتی ہے، اس کی تعریف خود اس کا اپنا جوڑ
ہے۔ محبت بس محبت ہی ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے جن لوگوں نے تشریحات کیں وہ
صرف اس کے اسباب، موجبات، علامات، شواہد، ثمرات اور احکام پر گفتگو کر کے نفس
محبت پر گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ محبت تو صرف کی جاسکتی ہے بتائی نہیں جاسکتی محبت
کی تعریف میں سب سے جامع بات وہ ہے ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنید بغدادی
رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ ابو بکر قطانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے زمانے میں مختلف
ملکوں سے علماء اور شیوخ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے تھے، محبت الہی پر بات چھڑ گئی۔ اس
اجماع میں جنید بغدادی سب سے کم عمر تھے۔ علماء نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس معاملے
میں کیا راستے ہے۔

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے کرام کی جب یہ فرمائش سنی تو خاموش ہو گئے اور
کچھ دیر کے لیے سر جھکاتے رکھا پھر سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری برس رہی تھی
اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے۔

”محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے جی سے گزر گیا ہو اور بے خود ہو چکا ہو، اپنے پروردگار
کا ہر گھڑی ذکر کر رہا ہو اور اس کی ادائیگی میں ہر دم مشغول ہو، دل کی نگاہوں سے اس کی
طرف دیکھ رہا ہو اللہ کی ہیبت کے انوار نے اس کے دل کو جلادیا ہو۔ ہر وقت جاہم محبت

سے اسی کی شرابِ صفا پتے رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پردہ ہاتے غیب سے اس پر حیا منکشف ہو جاتے۔ اگر وہ ہم کلام ہو تو اللہ سے اور اوزروں سے باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شخص اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو امرِ ربی سے، اگر سکون اختیار کرتا ہے تو اللہ کے حضور ہی سکون اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص اگر حقیقتاً ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے بل بوتے پر اور اللہ تعالیٰ کی معیت میں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مُنہ سے یہ کلام نکل رہا تھا اور تمام علماء و مشائخ پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور سب زار و قطار رو رہے تھے۔ جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ناموش ہوئے تو سب نے کہا اے تاج العارفین اس موضوع پر آپ نے مزید گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی۔“

قرآن مجید میں ہے :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهَا أَقْرَبُ وَيَبْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ (بنی اسرائیل : ۵۷)

”یہ لوگ کہ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ دو سیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں“

اس آیت کریمہ میں اہل محبت کی تین علامات بیان کی گئی ہیں :

۱۔ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ وسیلے اور ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انہیں ان کے محبوب کا قرب حاصل ہو۔ وسیلے سے مراد اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمالِ صالحہ ہے۔
۲۔ الرجاء یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ امیدوار رہتے ہیں۔

۳۔ خوف : وہ اعمالِ صالحہ کرتے ہوئے بھی جہاں وہ اللہ کی رحمت کے اُمیدوار ہیں بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں جس طرح ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے بارے میں اس خطرے کا شکار رہتا ہے کہ کہیں اس کے محبوب کی نظرِ کرم میں فرق نہ پڑ جائے اور وہ اس کی

نظر سے گزرتے جاتے۔

یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے دشمن سے ہوتا ہے یا سانپ اور شیر سے ہوتا ہے۔ یہ وہی خوف ہے جو ایک محبت کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ یہ خوف بھی محبت بھرا ہوتا ہے کہ کہیں دوست کے مزاج میں برہمی نہ آجائے

فقانی میں نے ڈوبتے دیکھی ہے بعض کائنات
جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے (فقانی)
وسیلہ کی شرح۔

پاک و ہند کے خدایانِ باطل لفظ وسیلہ کی شرح میں بہت ظلم ڈھاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں کس قدر وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ اتباعِ سنت ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.» (آل عمران: ۳۱)۔

دیکھ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کو آیتِ محبت کہتے ہیں اور یہ محبتِ کافیہ ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اصل معیار اتباعِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اتباعِ نبی کا اصل ثمرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ہے۔ دیکھیے وسیلے کا لفظ قرآن مجید میں اس طرح سے استعمال ہوا کہ از خود اس کی شرح ہو رہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (المائدہ: ۳۵)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش

کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔

اس آیت میں وسیلے سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے اور وسیلے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔

صاف پتہ چل رہا ہے کہ وسیلہ سے مراد تقویٰ اور جہاد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح باریابی نصیب ہو؟ کیونکہ اس کا تقرب حاصل ہو؛ اس کی رحمت و محبت کا جام کس طرح لب تک آئے؟ اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ بحث کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے وصول کے لیے دس امور کی نشاندہی کرتے ہیں یعنی انہیں وسیلہ محبت قرار دیتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کی جائے کہ اس کے معنی اس کے ہر لفظ کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضوں پر غور و فکر اور تدبیر ہو۔

۲۔ فرض نماز کے بعد نوافل کثرت سے پڑھے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔

۳۔ زبان، دل، عمل اور زبان حال سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے مطلب یہ کہ ذکر کی کثرت محبت کا سبب بھی ہے اور نتیجہ بھی۔

۴۔ جب شہوات کا غلبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبوب چیز کو اپنی محبوب چیز پر ترجیح دے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور و فکر کرنا، اس کی آیات کا مشاہدہ کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے درپے ہو جانا۔

۶۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ظاہری و باطنی انعامات و احسانات کو بار بار ذہن میں مستحضر کرنا اور ان کا مشاہدہ کرنا۔

۷۔ دل کے کشکول کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کیے رکھنا۔

۸۔ پچھلی رات انتہائی کیسوتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور آخر میں توبہ و استغفار کرنا۔

۹۔ علماء اور صالحین کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا اور ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھانا اور ان کی مجلس میں خود صرف اس وقت گفتگو کرنا جب مصلحت متقاضی ہو۔

۱۰۔ وہ تمام اسباب و ذرائع جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہیں ان سے دوری اختیار کرنا۔

الْحُبُّ لِلَّهِ [اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا]

ہم نے دیکھا کہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہونا چاہیے۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود معلوم ہو سکتی ہے کہ عینی محبتیں اور چاہتیں ہوں گی وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوں گی اور وہ تمام چاہتیں اور محبتیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ٹکرائیں گی وہ اس قابل ہوں گی کہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ - (توبہ: ۲۴)

”اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں
اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار
جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے
رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے
لیے لے آئے“

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حامل ہونے والی چیزیں یا آباؤ اجداد ہیں یا اولاد اور بھائی بند
ہیں یا بیویاں ہیں یا خاندان ہیں اور مال و اسباب ہیں۔ یہی چیزیں عام طور پر اللہ تعالیٰ سے دُور کرتی ہیں
اور اس کی محبت میں حامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ انہی کے بارے میں وعید سنائی اور ان سب کی محبت کو
اللہ تعالیٰ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت پر قرآن کر دینے کا حکم فرمایا۔

یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ
کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے اور تیسرے درجے پر جہاد کی محبت اور اہل جہاد کی
محبت آتی ہے۔

یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد و اہل جہاد اور صالحین کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔

احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَجِدُ الْعَبْدُ صِرَاحًا إِلَّا بِإِيمَانٍ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ لِلَّهِ فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ

وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوِلَايَةَ لِلَّهِ - (۱۵: ص ۴۲۳)

”کوئی شخص بھی ایمان کامل نہیں پاسکتا جب تک کہ صرف اللہ کے لیے دوسروں سے محبت نہ کرے اور صرف اللہ کے لیے دوسروں سے بغض نہ رکھے جب وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے تو اللہ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَوْثَقُ عَدَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (رواہ الطبرانی وغیرہ)

ایمان کا مضبوط ترین رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہو اور اللہ عزوجل کے لیے ہی

بغض ہو۔ (۱۵: ص ۴۲۳)

حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اے ابن آدم میں نے ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا۔ سو میرا

تجھ پر یہ حق ہے کہ وہ چیزیں میں نے تیرے لیے بطور ذرائع و اسباب پیدا کیا ہے۔ تجھے میری

عبادت و محبت سے غافل نہ کر دیں۔ اس لیے کہ تیری عبادت کا مقصود میری عبادت

ہے اور باقی سب چیزیں صرف اسباب و ذرائع ہیں مجھ تک پہنچنے کے۔“ (۱: ص ۲۳/۱)

اور بعض علماء کا یہ قول بھی لائق التفات ہے:

مَنْ شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَمَوْصَلُكَ -

”جو چیز بھی تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہی تیرا بت ہے۔ (تو اس کا پٹجاری ہے)۔“

یہ بت جس کی کہ عام طور پر لوگ پوجا کرتے ہیں انسان کا نفس (مارہ بھی ہو سکتا ہے جو اُسے بُرائی

پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاكُ وَالْفِرْقَانُ (۴۳)

”تو نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔“

تو وہ شخص جو اپنی خواہشِ نفس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی اطاعت اسے اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیتی ہے تو یہ شخص فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت میں اپنی ہونے نفس کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاكُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔

رِصْمَةُ النَّوَوِيِّ فِي كِتَابِ الْحُجَّتِ

”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش

اس بات کے تابع نہ ہو جاتے جسے میں لے کر آیا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ (القصاص: ۵۰)

”اگر یہ لوگ تیری بات نہیں مانتے (اس پر اُمتا و صدقنا نہیں کہتے) تو جان لو کہ یہ

لوگ دراصل اپنی خواہشاتِ نفس کا اتباع کرنے والے ہیں۔“

لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنی بیویوں اور اولاد کو اس طرح چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اپنا منم

ٹھہرا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اولاد و ازواج کی محبت انہیں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی انہی

لوگوں کے بارے میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔

(التغابن: ۱۴)

”اے لوگو جو ایمان لاتے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے

دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو مال و جاہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ انہیں اپنا محبوب و ٹھہرا لیتے ہیں۔ مال و جاہ کی محبت و طلب میں اس قدر لگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سے غافل ہو جاتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بالفاظ دیگر یہ لوگ اپنی عملی زندگی میں مال و جاہ کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو مال کا بندہ اور جاہ کا بندہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ فعلاً مال اور جاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دینار اور درہم ان کے معبود ہیں اور وہ جاہ و مال کے عبد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تَعَسَ عَبْدُ الدِّيَارِ، تَعَسَ عَبْدُ الدَّرْهِمِ، تَعَسَ عَبْدُ الْمُحْمِيصَةِ، تَعَسَ عَبْدُ الْمُحْمِيلَةِ - إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَى سَخَطَ - تَعَسَ فَا تَسْكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا تَنْتَقَشُ - طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بَعْنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَثَ رَأْسَهُ مُغْبِرَةً قَدَّمَ مَاءً - إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ - إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ -

صحیح البخاری، عن ابی ہریرۃؓ

صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک و بد بخت ہوا درہم کا بندہ۔ ہلاک ہوا تجبہ و دستار کا بندہ، ہلاک ہوا پوشاک و عبا کا بندہ، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور نہ دیا جائے تو ناراض۔ یہ بد بخت ہوا اور ٹھوکہ کھاتے۔ اگر اسے کانٹا لگے تو نہ نکالا جائے۔ خوشخبری ہو اس بندے کو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی گلام تھامے ہوتے ہیں۔ پراگندہ سراور خاک آلود قدم ہے۔ اگر پہرے پر ہے تو پہرے پر، اور اگر فوج کے پچھلے حصہ میں ہے تو اسی میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اگر رخصت مانگے تو رخصت نہ ملے اور اگر کسی کی سنارش کرے تو وہ قبول نہ کی جاتے۔

عبداللہ بن عقیم سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ - (رواہ احمد وترمذی باسناد صحیح)

”جو شخص کسی سبب کے ساتھ بھی متعلق ہو گیا اسے اس سبب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔“

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اُسے اسباب کے حوالے کر دیا جاتا

ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالذَّرْعِ، وَتَرَكَتُمْ

الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرَا جَعُوا دِينَكُمْ - (رواہ احمد و ابو داؤد)

”جب تم بیع بالعینے کرنے لگو اور بڑھ چڑھ کے تجارت میں حصہ لینے لگو اور سیلوں کی دھیں کپڑ

لو اور کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو جاؤ اسے اپنا مقصد بنا لو اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹھو تو

اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا اور یہ ذلت اُس وقت تک دور نہیں ہوگی جب

تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ گے۔“

چنانچہ ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی اور خالص محبت ہو اور اس محبت پہ

تمام محبتیں قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی تمام محبتوں اور چاہتوں کا مرکز و محور ہو۔ سب محبتیں

اور چاہتیں اللہ تعالیٰ کی محبت و چاہت کے تابع ہوں۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت

کے بعد سب سے زیادہ محبت انسان مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوگی۔

اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اس مشن سے ہوگی جسے لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں

اور پھر ان لوگوں سے ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے مشن پر مٹنے کو تیار ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ الْكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ - (صحیح بخاری و مسلم - بخاری، ایمان، باب: ۸)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے

بیٹے اپنے باپ حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ٹھہرائے۔“
 صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے
 زیادہ محبوب ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ۔

”مجھ کو اس ذات گرامی کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب تک میں تمہیں

اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ موجدوں اس وقت تک تم صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتے۔“

تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے:

فَأَنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي۔

”اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔“

تو آپ نے ارشاد فرمایا: الْآنَ يَا عُمَرُ (صحیح بخاری)

”اے عمر، اب بات بنی۔“

لَا مُتَصَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ [اللہ کے سوا کائنات میں کوئی متصرف اختیار نہیں]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ (النساء: ۷۸)

”کہو، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔“

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - (زمر: ۳۱)

”ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

۱۱۲
اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ (المائدہ: ۷۶)

”کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے

نہ نفع کا؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی متصرف حقیقی نہیں ہے یعنی تمام امور کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن مجید ان کے اس عقیدے پر یوں شہادت دیتا ہے:

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ۔ (المؤمنون: ۸۸-۸۹)

”کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ

پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو

خدا ہی کی ہے۔ تو کہو کہ پھر تم پر جاؤ کہاں سے پڑ جاتا ہے؟“

حق یہی ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنا اور تمام معاملات کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا اللہ تعالیٰ

کا ہی کام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے اور جہاں

جس کو چاہتا ہے نفع اور ضرر پہنچاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِلَّا اللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف: ۵۴)

”خبردار رہو! اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے“

وَإِنْ يَسْئَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (رؤس: ۱۰۷)

”اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دُور کرنے والا نہیں اور اگر

تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں سے جسے

چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور بخشے والا مہربان ہے :

ترندی شریف میں ہے :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ
إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِحْفَظُ اللَّهُ بِحِفْظِكَ إِحْفَظُ اللَّهُ تَجِدُ تَجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ
اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ
بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ عَرَفْتَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ
بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ عَرَفْتَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ
الصُّفُوفُ (ترندی: قیامہ: ۵۹)

» ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ
نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سمجھاتا ہوں انہیں اچھی طرح سے پتے بانڈھ لینا اللہ تعالیٰ
تہاری حفاظت فرمائے گا۔ انہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاتے گا۔ باتیں یہ
ہیں کہ اگر کبھی سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا اور اگر کبھی کسی سے مدد مانگنی ہو تو
اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ لینا۔ اور یہ بات اچھی طرح سے جان لے اُسے بیٹے کہ دنیا کے لوگ
اگر سارے مل جائیں اور تجھے کسی معاملے میں کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گے
ہاں مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اور اگر دنیا کے لوگ مل کر کسی معاملے میں تجھے
ضرر پہنچانا چاہیں تو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے ہاں مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے پہلے سے تیرے
لیے لکھ دیا، قلم اٹھالیے گئے اور ورق ہلے تقدیر سوکھ چکے۔

ایک غلط فہمی جس میں اکثر اہل علم بھی مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں غیروں کو
بھی شریک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ صرف وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِدَّتْ فَتَعَالَ أَجْعَلُنِي لِلَّهِ نِدًّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدًّا - (ابو داؤد، ابن کثیر)

”ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہا ”جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے مجھے خدا کا ہمسرا اور مقابل ٹھہرا دیا ہے دیوں کہا کرو جو تمہارا خدا چاہے“

تو ظاہر ہوا کہ مشیت اور تصرف صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں۔
لَا مُتَصَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کے آثار دکھائی دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل اور عبد اللہ بن اُمیہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو میں آپ کے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے حضور بطور دلیل پیش کروں گا۔ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابو اُمیہ بولے کیا عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ شہادت کی طرف بلا تے رہے اور وہ دونوں ابوطالب کو اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنے پر اکتاتے رہے۔ آخر کار حضور کے چچا کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مجھے روک نہ لیا گیا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ۔ (القصص: ۵۶)

”اے نبی، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے ہو اور ہاں جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں“
یہی بات قرآن مجید میں ہے:-

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - (البقرہ: ۲۷۲)

”اے نبی ان کو ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے

ہدایت عطا فرماتا ہے“

اب یہاں پہ ایک لمحہ کے لیے ان لوگوں کے عقیدے پر بھی غور کر لیجیے جو اولیاء اللہ اور مشائخ پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر کرم جس پر پڑ جاتے ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ جس چوراہے کو چاہے ایک نظر ڈالے اور فوراً اس کو ولی اللہ بنا کر رکھ دیا۔ بس ادھر ان صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو جنت کی کنجی ان کے ہاتھ میں آگئی۔

جان لیجیے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے اور وہ کسی شخص کو اس کی طلب صادق کے بغیر ہدایت عطا نہیں فرمایا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ضرور بخش دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب کو ضرور کلمہ طیبہ کے اقرا تک لے آتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کفر کے عالم میں مرتے دیکھ کر تڑپتے نہ رہتے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ نہ ہوتی۔ اگر طلب صادق ہو تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے سلمان فارسی منزل مراد تک پہنچ سکتا ہے اور اگر طلب صادق نہ ہو تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سید الاولین و آخرین کا چچا بھی ایمان سے محروم رہ سکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت اور تصرف سے

ہوتا ہے۔ لَا مُتَّصِرَاتٍ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ۔

وہ لوگ جو اولیاء اللہ اور اصحاب قبور کے تصرفات کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا کے انتظام و انصرام میں عمل دخل حاصل ہے ایک بالکل بے اصل بات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں اس عقیدہ کی واضح طور پر نفی موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ:

”انسان جب رہتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اہم کاموں کے جن کا اجر جاری رہتا ہے :

وہ تین عمل یہ ہیں کہ نیک اور صلح اولاد چھوڑ جاتے جو نیکیاں کرتی رہے اور ان نیکیوں کا اجر والد کو پہنچتا رہے۔ یا کوئی ایسی علمی خدمات چھوڑ جاتے جس سے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد استفادہ کرتے رہیں یا کوئی ایسی عمارتیں، مساجد یا اس قسم کا اور صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کو اجر پہنچتا رہے۔ ان تین قسم کے اعمال کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموات کے لیے باقی اموال کی نفی فرمادی ہے“

اب ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں اولیاء اللہ لوگوں کی حاجات پوری کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بالکل متناقض اور متضاد ہے۔ انبیاء، اولیاء خواہ زندہ ہوں، یا وفات پانچے ہوں ان سے کسی حالت میں بھی دعا مانگنا یا ان کو حاجت پوری کرنے والے یا مشکل کشا سمجھنا قرآن مجید کے پیش کردہ عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ہے :-

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ - اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ - (فاطر: ۱۳-۱۴)

”اے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرگاہ کے مالک بھی نہیں ہیں انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا“

سادہ لوح انسان سمجھتا ہے کہ جب اضطراب اور تکلیف کے عالم میں ہم اہل قبور کو پکارتے ہیں وہ ہماری فریادیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی بالکل نفی فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْاَرْضِ

إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ - (النمل: ۶۲)

”کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو“

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُوفٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْكِرُونَ“ (الانعام: ۶۳-۶۴)

”اے محمد ان سے پوچھو صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے۔ کون ہے جس سے تم گڑگڑا گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تم نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو“

مشرکین عرب کا عقیدہ

یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ مشرکین عرب یہ علم اور عقیدہ رکھتے تھے کہ مجبوری اور مصیبت کے عالم میں صرف اللہ تعالیٰ ہی انسان کی تکلیف رفع فرماتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں جو اصل بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انتہائی مشکل اور سنگین حالات میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہو تو پھر عام حالات میں دوسرا خدا اور معبود بنانے کی تم کو کیا ضرورت پیش آگئی ہے؟

ایمان داری کی بات ہے کہ وہ مشرکین جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرمائی ان کا عقیدہ اس دور کے سادہ لوح مسلمانوں سے اس اعتبار سے بہت بہتر ہے کہ وہ کم از کم اضطراب مجبوری اور مصیبت کے عالم میں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور غیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس دور

کے بے سمجھ لوگ مشکل کیا اور آسانی کیا، راحت کیا اور غم کیا ہر حال میں غیروں کو پکارتے ہیں اور مستقل
 وظیفہ بنایا ہوا ہے ”یاشیخ عبدالقادر جیلانی شیعاً للہ“ اور المدویہ یا غوث الاعظم۔ اس قسم کی بے شمار
 خرافات ہیں جو اولیاء اللہ اور موحدین کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں مجھے یقین ہے کہ یہی وظیفہ آکر اس
 دور کے موحداً عظیم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا جاتا تو وہ جوتوں سے خبر لیتے۔
 قرآن مجید کے طرز استدلال پر غور فرمائیے یعنی

أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ر (النمل: ۶۲)

”و کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف
 رفع کرتا ہے“

یہ اسلوب استفہام اقراری کا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ استفہام اقراری اس صورت میں
 کیا جاتا ہے جبکہ تمکلم اور مخاطب دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں یہی ہو سکتا ہے یعنی یہ سوالیہ
 انداز کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا
 ہے؟ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس دور کے مشرکین اس بات پر عقیدہ رکھتے تھے کہ صرف اللہ
 ہی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کی تکلیف رفع کر سکتا ہے۔
 حدیث شریف میں ہے:

كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مُنَافِقٌ يُؤَدِّي الْمَوْمِنِينَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْمُوا بِنَا
 نَسْتَعِيْثُ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا يَسْتَعِيْثُ بِي وَإِنَّمَا يَسْتَعِيْثُ بِاللّٰهِ -

(رواہ الطبرانی باسنادہ)

”صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک منافق بہت تکلیف دیا کرتا تھا چنانچہ چند صحابہ
 نے یہ مشورہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس منافق سے گلو خلاصی
 کے لیے استغاثہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے استغاثہ

نہیں کیا جاسکتا بلکہ استغاثہ، فریادری، حاجت طلبی اور اس کے لیے دعائیں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاسکتی ہیں۔ کسی بندے کے سامنے خواہ وہ نبی آخر الزمان ہی کیوں نہ ہو پیش نہیں کی جاسکتیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے یہ کہلوا دیا :-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (الاعراف: ۱۸۸)

”اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔

اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے“

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ (النجم: ۲۱)

”کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا“

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے خود اپنی زندگی میں نہ نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بھلائی اور شر کا تو عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔

لَا مَرْجُوَ إِلَّا اللَّهُ [اللہ کے سوا کوئی بھی امیدوں کا مرکز نہیں]

جب یہ بات طے ہوئی کہ اللہ کے سوا دنیا میں کسی کا بھی تصرف نہیں مشیت و تصرف، قدرت و اختیار سب اسی کو حاصل ہے۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سب کی حاجتیں صرف وہی پوری کرتا ہے تو یہ بات آپ سے آپ معلوم ہو جانی چاہیے کہ تمام امیدیں صرف اللہ سے ہی وابستہ رکھنی چاہئیں اور صرف اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی امید و توکل کا حقدار نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ان الفاظ سے شروع ہوتی تھی :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَجَائِي (اے اللہ تو ہی میری امیدوں کا سہارا ہے) اور یوں بھی دعا فرماتے

تھے :-

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو (اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں)

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ - (البقرہ: ۲۱۸)

”وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ
ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں“
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا -
(الکہف: ۱۱۰)

”وہ شخص جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال
کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے“
جب نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تو بندے کو سوائے خدا کے اور کسی پہ بھروسہ
بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ - (الفرقان: ۵۸)

”اُس ذات پہ بھروسہ کر جو زندہ ہے اور جسے موت نہیں آتی“

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ - (توبہ: ۱۲۹)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (الزمر: ۹)

وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (المائدہ: ۲۳)

اس آیت کی شرح میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
”اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے“

اس سے معلوم ہوا کہ جس دل میں توکل نہ ہو وہاں ایمان ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتے ہیں :

وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ إِفْرِيقِيمَ إِنَّكُمْ مُنَافِقُونَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ -

دینس : ۸۴)

”موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم فی الواقع اللہ تعالیٰ پر ایمان

رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو۔“

اس آیت کریمہ میں توکل کو اسلام و ایمان کے موجود ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جس

شخص کے دل میں ایمان قوی ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ بھی توکل بھی مضبوط ہوگا۔ اور اگر ایمان کمزور ہوگا

تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی اسی حد تک کمزور ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جس شخص کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کمزور

ہوگا اس کا ایمان بھی اسی نسبت سے کمزور ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی تو توکل اور عبادت کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے اور کبھی توکل

اور ایمان کو، کبھی توکل اور تقویٰ کو، کبھی توکل اور اسلام کو اور کبھی توکل اور ہدایت کو۔

چنانچہ معلوم ہوا کہ ایمان اور احسان کے تمام مقامات میں توکل علی اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل

ہے۔ اور یہ کہ اسلام کے تمام اعمال میں توکل کو وہی درجہ اور وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں

سر کو ہے۔ جس طرح سر کے بغیر بدن قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح سے ایمان اور اس کے مقامات اور

اعمال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ - (الطلاق : ۳)

”جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا

وَتَرَوْحُ بَطَانًا۔ (رواہ احمد وابن ماجہ)

”اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح کہ کرنا چاہیے تو تمہیں وہ اس طرح سے رزق عطا فرمائے جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جیب آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں“

لَا خَوْفَ إِلَّا لِلَّهِ [اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈرنے کے لائق نہیں]

جب یہ معلوم ہو گیا اور ہم اس بات پر دل ہی دل میں ایمان لے آتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کسی کا تصرف نہیں نہ کسی کا اختیار ہے نہ کسی کی مشیت و مرضی چلتی ہے اور کوئی اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک نہیں تو پھر اس بات کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے خوف و خشیت رکھیں۔ ارشادِ باری ہے۔

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ (البقرہ: ۴۰)

”اور تم صرف مجھی سے ڈرا کرو“

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَارْهَبُوهُنَّ۔ (المائدہ: ۴۴)

”تم لوگوں سے مت ڈرا کرو صرف مجھ سے ڈرا کرو“

إِنَّمَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّتُ أَوْلِيَآئَهُ فَلَا تَخَافُوهُمَّ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ۔ (آل عمران: ۱۷۵)

”یہ تو دراصل شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈراتا رہتا ہے۔ چنانچہ

تم انسانوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم حقیقت میں صاحبِ ایمان ہو“

خوف کی دراصل تین قسمیں ہیں:

۱۔ خوفِ طبعی

مثلاً یہ کہ انسان کسی دھماکے سے سانپ سے یا جنگلی درندے سے یا سامنے کھڑے ہوتے کسی دشمن سے ڈر جاتا ہے۔ یا کوئی بہت بڑی غلطی کرنے کے بعد اسے سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ یہی کیفیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جب انہوں نے ایک قبیلے کو قتل کر دیا اور انہیں سزا کا ڈر لاقی ہوا۔
قرآن مجید میں ہے :

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ - (القصص: ۲۱)

”وہ ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔“

یہ ایک طبعی خوف ہے اور اسلام میں مذموم نہیں ہے۔ اور نہ یہ فی الواقع توحید کی ضد ہے۔

۲۔ پوشیدہ غیر طبعی خوف

مثلاً یہ کہ انسان غیر اللہ سے اطلاقاً ڈرے یعنی کسی بت یا طاغوت یا صاحب قبر سے یوں ڈرے کہ اگر اس کی فلاں قسم کی عبادت نہ کی گئی تو فلاں نوعیت کا نقصان پہنچ جائے گا۔ حضرت ہنود علیہ السلام سے قوم ہنود نے اسی قسم کے خوف کا ذکر کیا تھا۔

إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا لِتَوْبِهِ قَالِ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاسْتَشْهِدُونَا
إِنِّي بَيْرُحِي مِمَّا تَشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُؤُنِي جَمِيعًا تَحْتَرُونَ -

(ہنود - ۵۴-۵۵)

”ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہنود

نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں

کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب

مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا اہلت نہ دو۔“

ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوا:

وَيَخَوُّوْنَكَ بِالْبَدِينِ مِنْ دُونِهِ الرَّزْمِ: ۳۶

”یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔“

تو معلوم ہوا کہ طاغوت اور ان کے بیماری اللہ کے سوا غیروں سے مختلف طریقوں سے ڈراتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں یہ بیماری پاتی جاتی ہے کہ اگر فلاں قبر پر چڑھا وانا چڑھایا گیا تو فلاں تکلیف ہوگی۔ اور یہ تو بہت ہی عام ہے کہ اگر چاند کی گیارہ تاریخ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نہ دیا گیا یعنی گیارہویں شریف نہ منائی گئی تو گائیں بھینسیں مرجائیں گی یہ وہ پوشیدہ اور دل میں چھپا ہوا خوف ہے جو اللہ کی بجائے غیر اللہ سے لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ عین شرک ہے۔ اور توحید کے منافی ہے۔

۳۔ خوف کی تیسری قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرے اور اس ڈر کی وجہ سے بعض ایسے اعمال سے ڈرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ مثلاً سامنے کفار کی کثرت دیکھ کے جہاد سے پیٹھ پھیر جاتے۔

قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ (آل عمران: ۱۷۳)

”اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوتی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔“

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گا کہ:

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولَ رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ فَأَنَا أَحَقُّ أَنْ تُخْشَى۔

(مسند احمد بن حنبل، جلد: ۳، ص: ۲۸)۔

”جب تم نے برائی کو دیکھا تو اس کو بدلنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ بندہ جو آپ کہے گا کہ اے

میرے پروردگار لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی اس کا مستحق تھا

کہ تو مجھ سے ڈرتا۔“

تو پتہ چلا کہ خوف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ اور طبعی خوف کے علاوہ اگر کسی طاغوت کا چھپا ہوا خوف دل میں موجود ہو یا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ایک مسلمان جہاد سے اور واجبات دین سے کئی کترانے لگے تو یہ توحید کے منافی ہے۔

چنانچہ خوف کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینا حد ایمان کی شرائط میں سے ہے۔
حدیث شریف میں ہے:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ
الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ وَمَنِ الْتَمَسَ
رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ رَوَاهُ ابْنُ حَبَانَ فِي
صَحِيحِهِ (۱)

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر راضی کر دیتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتے ہیں۔“

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے مندرجہ ذیل جواب تحریر فرمایا:-

سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوَدَّةَ النَّاسِ وَمَنِ
الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ۔

رواہ ابو نعیم فی الحلیہ، (۱۶: ص ۱۰۸۴)

”تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو نہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مولے کر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے درپے ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کے ہی سپرد کرتا ہے“ (۱۶: ص ۱۰۸۴)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف دل کی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے
لیے ہی خالص رہنی چاہیے۔ وہ اعمال جن کا صرف دل سے ہی تعلق ہے مندرجہ ذیل ہیں:
”عاجزی، رجوع، محبت، توکل اور امید۔ یہ سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہی
مخصوص ہونے چاہئیں۔ جب انسان صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے اور غیر اللہ سے ہر قسم کا خوف
اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقام ولایت نصیب فرمادیتے ہیں جس کے بارے
میں ارشاد ہے۔

الْآيَاتُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْذَلُونَ۔ (یونس: ۶۲)

”جان رکھو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کسی سے ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم“

کیوں نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے تو اور پھر کون کافی ہوگا؟
یہی بات اللہ تعالیٰ خود یوں استنبہام اقراری کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا (الزمر: ۳۶)

”کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟“

تو بندہ جب خوف و امید اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا
ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف و حزن کلیتہً نکال دیتا ہے۔

وسیلہ اور توسل

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ محبوب، نہ متصرف اور نہ ایسی کوئی ہستی جس سے کہ امید و خوف ہو سکتا ہو تو پھر کوئی بھی ایسی ہستی باقی نہ رہی جو بندے اور رب کے درمیان واسطہ کا درجہ رکھتی ہو، یا ایسا لازمی وسیلہ ہو جس کے ذریعے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔

ہاں! بندہ اللہ کے ہاں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے قرب حاصل کر سکتا ہے اور یہی قرب کا بہترین وسیلہ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمائی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدة: ۳۵)

”اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور اس کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ اختیار کرو۔“

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ

رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ (بنی اسرائیل: ۵۷)

”جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ

تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار

اور اس کے عذاب سے خائف ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے

کے لائق۔“

قنادہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اس کی اطاعت اور

ایسے اعمال کے ذریعے جن سے وہ راضی ہو جائے۔“

اس سلسلے میں ایک مشہور قصہ ہے جو صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں وارد ہوا ہے اور یہ قصہ تین آدمیوں کا ہے جو کہ سفر کے دوران ایک غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان فرمائی۔ مکمل حدیث نقل کی جاتی ہے۔

ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے کے زمانے میں تین شخص کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ ایک چٹان لڑھک کر غار کے اوپر آگئی اور غار کا منہ بند کر دیا۔ ان سب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چٹان سے اس وقت تک نجات نہیں دیگا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کر کے دعا نہ کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ میرے والدین تھے اور میں شام کے وقت دودھ پلاتے ہوتے انہی سے پہلے کیا کرتا تھا۔ اپنا کنبہ یا مال کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا۔ مجھے دیر ہو گئی، آیا تو وہ سوچکے تھے۔ میں نے ان کے لیے ان کا دودھ دیا۔ آیا تو انہیں سویا ہوا پایا مجھے یہ بات نہ پسند تھی کہ میں انہیں جگافل اور ساسی طرح سے یہ بات بھی ناپسند تھی کہ ان سے پہلے میں اور کسی کو دودھ پلاؤں چنانچہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بچے میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج تو ہم سے یہ مشکل دور کر دے اور میں اس چٹان سے نجات دے۔“ چنانچہ چٹان کا کچھ حصہ ہٹ گیا مگر آنا نہیں کہ وہ باہر نکل سکیں۔ دوسرے نے کہا: اے اللہ میری ایک چھانڈا وہن تھی میں اس سے

سب سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اس سے ایسی ہی محبت کیا کرتا تھا جیسے کہ مرد عورتوں سے کرتے ہیں اور میں چاہتا تھا کہ اس سے متمتع ہوں۔ لیکن اس خاتون نے مجھے قریب نہ آنے دیا۔ یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن وہ آئی۔ میں نے اسے ایک سو بیس دینار دیئے اس شرط پر کہ میں اس کے ساتھ خلوت حاصل کر سکوں چنانچہ اس نے مجھے اس کی اجازت دے دی جب مجھے اس خاتون پر قدرت نصیب ہو گئی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے یوں کہا کہ اللہ سے ڈرا اور اس ہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ چنانچہ میں اس سے ہٹ گیا حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے جو سونا اُسے دیا تھا وہ بھی واپس نہ لیا۔ اُسے اللہ اگر نہیں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اس تکلیف سے تو نہیں بچا لے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ چٹان ذرا سی اور ہٹ گئی، مگر اس قدر نہیں کہ وہ سب کے سب باہر نکل سکیں۔ تیسرے شخص نے کہا: ”اُسے اللہ میں نے کچھ مزدور رکھے تھے ان میں سے ہر شخص کو مزدوری دے دی سوائے ایک شخص کے جو کہ چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت پر لگا دیا، یہاں تک کہ بہت سا مال اور مویشی بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ اُسے فلاں شخص میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ اُس نے کہا اُسے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا: نہیں میں مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ تم لے لو۔ چنانچہ اس نے وہ سب لے لیے اور وہ چلا گیا اور کچھ بھی ان میں سے نہ چھوڑا۔ اُسے اللہ اگر نہیں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج یہ مشکل دور فرما دے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔“ چنانچہ وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور وہ لوگ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ (متفق علیہ)

امام ابن تیمیہ کا فتویٰ

تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قرب حاصل کرنے اور دعا کرنے کا صحیح وسیلہ انسان کے اپنے

نیک اعمال ہیں۔ وسیلہ اور توسل کے موضوع پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں بعض اہم عبارتیں ہیں ان میں سے چند نقل کی جاتی ہیں:-

”جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنے اور آپ کی طرف متوجہ ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کا جو کلام وارد ہوا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ وہ لوگ توسل یعنی دعا اور شفاعت کے کرتے تھے۔“

متاخرین میں لفظ توسل عام طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک قسم اور دوسرے سوال یعنی بزرگوں کے نام کی قسم کھا کر اللہ سے مانگنا، یا ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا اور بزرگوں سے مراد انبیاء یا صالحین ہیں یا وہ لوگ جن کے بارے میں نیکی کا اعتقاد رکھا جائے۔

در اصل توسل سے مراد دو صحیح باتیں ہیں جن پہ کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کی سنت میں کوئی اصل نہیں ملتی۔

پہلے دو معنی جس پر کہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ کہ انسان اپنے ایمان اور اسلام کے ذریعے اللہ کے سامنے توسل کرے اور اپنی اطاعت کو دعا کا وسیلہ بنائے۔

۲۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کا توسل اختیار کر رہا ہے تو اس سے دعا کی درخواست کرے یا اللہ کے حضور شفاعت کی درخواست کرے۔ یہ تمام علماء کے نزدیک جائز ہیں۔ اور اس پر دلیل حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول ہے:-

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ (صحیح بخاری، استسقاء، باب: ۳)

”اے اللہ جب ہم قحط سالی ہوتی تھی تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تجھ سے توسل کیا کرتے تھے اور تو بارش برسا یا کرتا تھا اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے تیرے سامنے توسل کرتے ہیں پس تو ہم پر بارش برسا۔“

یہاں مراد یہی ہے کہ حضور کے چچے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ان کی شفاعت آپ کے حضور طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اللہ کے حضور کوئی وسیلہ اختیار کرو" اور مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ بناؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - (النساء: ۸۰)

”جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“

توسل کی یہ شکل تو دین کی بنیاد ہے، اس سے کسی مسلمان نے انکار نہیں کیا۔

جہاں تک دعا کروانے یا شفاعت طلب کرنے کا تعلق ہے تو یہ توسل کی وہ شکل ہے کہ اس میں جیسا کہ سیدنا عمرؓ نے فرمایا تھا، ہم کسی شخصیت کی ذات کو توسل نہیں بناتے بلکہ اس کی دعا کو ذریعہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کے چچے سے توسل کیا۔ اگر توسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ممکن ہوتا تو حضور اکرم اس معاملے میں اپنے چچا حضرت عباسؓ سے زیادہ اولیٰ اور افضل تھے، انہی سے توسل ہوتے رہنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے حضور کے چچے سے توسل کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ سے توسل مناسب نہیں ہے۔ ہاں آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعے ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ سے توسل کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ فقط توسل کے تین معنی ہوتے:

۱۔ توسل ان معنوں میں کہ اللہ کی اطاعت کو وسیلہ ٹھہرایا جاتے تو یہ تو فرض ہے اور اس کے بغیر

ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔

۲۔ توسل کی یہ نوعیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی شفاعت کو اللہ کے حضور میں وسیلہ

ٹھہرایا جاتے۔ یہ بات آپ کی زندگی کے دوران درست تھی لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور

قیامت کے دن بھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ کے حضور وسیلہ ٹھہرائیں گے۔

۳۔ تو مثل کی یہ نوعیت کہ اللہ کے سامنے کسی کی ذبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جاتے اور ان کی ذات کے ذریعے سے سوال کیا جاتے۔ تو یہ وہ کام ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہیں کیا کرتے تھے، نہ بارش مانگنے میں، نہ کسی اور حاجت میں، نہ آپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو اور نہ اس کے علاوہ کسی اور شکل میں۔ اس قسم کی کوئی دعائیں بھی ان کے ہاں مشہور و معروف نہیں تھیں جن میں کہ حضورؐ کی ذات کے ذریعے یا حضور کے نام کی قسم کھا کے اللہ کے سامنے دعا کی جاتے۔ اس قسم کی کچھ باتیں چند ضعیف، موضوع اور ناقابل اعتماد احادیث میں نقل کی گئی ہیں۔ یا ایسے لوگوں سے نقل کی گئی ہیں جن کا کلام حجت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام قدوری کی راستے۔

یہی بات امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہی ہے کہ تو مثل کی یہ شکل جائز نہیں ہے اور انہوں نے اس سے روکتے ہوئے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ سے مخلوق کے ذریعے نہیں مانگنا چاہیے اور کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے: **أَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنْبِيَآءِ**۔ کہ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے انبیاء کے حق کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔“

ابوالحسن قدوری اپنی فقہ کی عظیم کتاب شرح الکفری کے باب الکراہۃ میں لکھتے ہیں:-

۵۔ یہ بات ابو حنیفہ کے بہت سے ساتھیوں نے ذکر کی ہے۔ (۱: ص ۲۰۲)

تو یہ بات واضح ہوتی کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں کے ذریعے مانگتا ہوں (اسئلک بكذا) تو اس میں قسم کے معنی ہو سکتے ہیں اور سبب کے معنی بھی۔

جہاں تک مخلوقات کی قسم کھانے کا تعلق ہے تو مخلوقات کی تو مخلوقات کے سامنے بھی قسم نہیں کھائی جاسکتی۔ کجایہ کہ مخلوقات کے نام کی قسم اللہ کے سامنے کھائی جاتے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرے معنی کہ اللہ کے سامنے یوں سوال کیا جاتے کہ اے اللہ میں انبیاء یا ملائکہ کے حق سے جو ان کا تجھ پر ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں **رَأْسُكَ بِحَقِّ الْأَنْبِيَآءِ** اور **بِحَقِّ فُلَانٍ** اس معاملے

میں کافی اختلاف ہے۔ ہم لکھ چکے کہ ابوحنیفہؒ اور ان کے ساتھیوں نے اس بات کو ناجائز قرار دیا لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص جب یوں دعا مانگتا ہے: "أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ أَوْ بِجَاهِ فُلَانٍ أَوْ بِحُدُومَةِ فُلَانٍ" "اے اللہ میں فلاں کے حق کے ذریعے یا فلاں فرشتوں، انبیاء اور صالحین وغیرہ کے ذریعے یا فلاں کی جاہ کے ذریعے یا فلاں کی حرمت کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں،

— تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ جن کی جاہ یا حرمت کے ذریعہ سوال کیا جا رہا ہے وہ واقعہ اللہ کے حضور صاحب جاہ بھی ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بعض شخصیتوں کی وجاہت اور حرمت ہوتی ہے۔ اور وہ جاہ اور حرمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی شفاعت کو اپنے ہاں قبول فرماتے لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی بغیر اجازت شفاعت نہیں کر سکتا۔ (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرہ: ۲۵۵)۔

جاہ اور حرمت کے ذریعے مانگنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص مانگ رہا ہے وہ ایسا ہو کہ دعا مانگنے والا اس شخصیت کا مطیع اور فرمانبردار ہو اور اس نبی یا صالح فرد کی اللہ کی راہ میں اطاعت کرنے والا ہو جس کی شفاعت طلب کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کی اطاعت کرنے والوں میں ہی نہیں ہے تو اس سے شفاعت مانگنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔

مثلاً ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو طلب کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے ہاں صاحب وجاہت و حرمت ہیں لیکن اہم شرط یہ بھی ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بھی ہونا چاہیے۔ اگر اسے حضور اکرم کی ذات اور آپ کی سنت طیبہ سے کوئی نسبت نہیں ہے تو اسے شفاعت مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے شخص کو حضور اکرم کی

شفاعت کی اجازت اللہ کے ہاں سے نہیں ملے گی۔

اس سلسلے میں اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے حضور شفاعت کرنے کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے اور وہ سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس شخصیت کی شفاعت مانگ رہا ہے وہ شخصیت اللہ کے ہاں صاحبِ جاہ و منزلت ہو اور یہ شخص خود اس شخصیت کی اللہ کے راستے میں اطاعت کرنے والا ہو ورنہ شفاعت حاصل کرنے کا کوئی سبب حقیقی موجود نہیں ہوگا اور شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ (۱: ص ۲۱۰-۲۱۱)

”ہاں کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کی اطاعت و اتباع کرتا ہے اور اس وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں اور ان کی اطاعت و اتباع کرتا ہوں تو یہ ایک بہت ہی بڑا سبب ہوگا جو دعا کی قبولیت کا باعث ہوگا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک سبب اور وسیلے کا تعلق ہے تو یہ دعا قبول ہونے میں سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا وسیلہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمادی تھی کہ آخرت میں ان کی شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہوگی، اہل شرک کے لیے ہرگز نہیں ہوگی۔“ (۱/۲۱۲)

اس موقع پر یہ بحث بھی اٹھائی جاتی ہے کہ بندوں کا اللہ پر کوئی حق بھی ہے یا نہیں بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی ایسا حق نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی جاسکے۔

اس کے برعکس بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔

ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا ہے اور اپنے اوپر مومن بندوں کے حق کو لازم فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام فرمایا ہے یہ حق کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں کیا ہے بلکہ یہ اس نے خود ہی اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت اور عدل ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتے ہیں :-

”اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح
سے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے“
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ۔ (الانعام: ۵۴)

”تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے“

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ (الروم: ۴۷)

”ہم پر یہ لازم تھا کہ ہم مومنین کی مدد کرتے یعنی یہ مومنین کا ہم پر حق تھا“

بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت معاذ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا :

يَا مَعَاذِ اتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔

”اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے

عرض کی کہ ”اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں“ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کا حق بندوں

پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں“ پھر آپ نے

فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب وہ اس کی عبادت کر رہے ہوں“

میں نے عرض کیا ”کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں“ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: کہ

بندوں کا اپنے پروردگار پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے“

اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء اور نیک بندوں کا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ

پر حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب ٹھہرا دیا اور اس کی خبر بندوں کو عطا فرمادی اور

وعدہ بھی فرمایا: (۱: صفحہ ۲۱۴/۱)

”بعض جاہل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے یوں

فرمایا: جب تم اللہ سے دعا کرو تو میری جاہ کے ذریعے سے ہی دعا کیا کرو اس لیے کہ اللہ

کے ہاں میری جاہ اور میرا رتبہ بہت عظیم ہے“

یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے اور اس میں کوئی ایسی قابل اعتماد بات نہیں ہے جسے علمائے

حدیث نے اپنی کسی کتاب میں نقل کیا ہو۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور آپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں

تمام انبیاء کی جاہ و رتبہ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدنا موسیٰ کے بارے میں یہ ارشاد

فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں صاحبِ وجاہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا - (الاحزاب: ۶۹)

”اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی

تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام

اللہ تعالیٰ کے ہاں وجیہ اور صاحبِ جاہ تھے“

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے :

إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَدَّبِينَ - (آل عمران: ۴۵)

”جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت

دیتا ہے اور اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے (یعنی ان کے تشریف لانے کی بشارت ہے،

اور یہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحبِ وجاہت اور مقربین میں سے

ہوں گے“

تو جب سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ عزوجل کے ہاں صاحبِ وجاہت ہیں تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ ہستی جو کہ سید ولدِ آدم ہے، صاحبِ مقام محمود ہے، وہ ہستی جس کی ذاتِ بابرکات اور جس کی عظمت پر تمام اولین اور آخرین رشک کرتے ہیں، وہ ہستی جو صاحبِ کوثر ہے، اس حوضِ مورد کی مالک ہے جس کے برتنِ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور جسے جو پئے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، ایسی ہستی کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحبِ وجاہت نہیں ہوگی؟

حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صاحبِ شفاعت ہوں گے جبکہ آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ علیہم السلام جیسے عظیم المرتبت نبی بھی شفاعت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں گے۔ اس وقت حضور شفاعت فرمائیں گے، وہ صاحبِ بوار ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے۔

تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سردار و آقا ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ و مکرم ہیں۔ آپ تمام انبیاء کے اجماع کی امامت فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ آپ کی جاہ، آپ کی شان، منزلت، وجاہت اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مخلوق کی جاہ اللہ کے ہاں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ مخلوق کی جاہ مخلوق کے سامنے ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ [۱: ص ۳۲۰]

فضیلۃ الشہادین

[کلمۃ شہادت پر ایمان لانے کی اہمیت]

صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں سوائے صحیح بخاری کے یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحَاجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا»

«اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے فرستادہ ہیں۔ اور یہ کہ تو نماز قائم کرے
زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر بیت اللہ تک پہنچتا تیرے بس میں
ہو تو وہاں کا حج کرے»

اسلام کی عمارت ان پانچ ارکان پر کھڑی ہوتی ہے۔ ان میں سے چار ارکان صرف اللہ
تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شہادت پر قائم ہے۔ یعنی آخر چار ارکان
پہلے رکن اعظم پر استوار ہیں۔ اگر رکن اعظم یعنی کلمۃ شہادت موجود نہ ہو تو بقیہ چاروں ارکان
یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کوئی قیمت نہیں رکھتے بالفاظ دیگر اگر کوئی شخص کلمۃ شہادت پر اقرار
نہ کرے اور نماز پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، حج کو بھی پہنچ جائے۔
اس کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔

کلمۃ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جسے عربی میں شہادین بھی کہا جاتا ہے، کی حیثیت اسلام

میں وہ ہے جو جسم کے اندر رُوح کی ہوتی ہے۔ نیک اعمال میں سے کوئی عمل بھی کیا جاتے تو اس کی قیمت کا تناسب اس کلمہ پر ایمان کے تناسب سے ہوگا۔ اگر اس کلمہ پر ایمان نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی مسبوریّت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ ہوگا تو کسی عمل کی قیمت نہیں ہوگی۔ اور جس قدر ایمان بڑھتا چلا جاتے گا اسی قدر اخلاص میں اضافہ ہوتا چلا جاتے گا اور اسی قدر اعمال کی قیمت اور اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتے گا یہی وجہ ہے کہ کفار کے نیک اعمال کی خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَقَدْ مَنَّآ اِلَىٰ مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبًا مِّنْثَوْرًا (الفرقان: ۲۳)

”اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اُسے لے کر ہم غبار کی طرح اُڑا دیں گے“

حتیٰ کہ مسلمان بھی اگر کوئی نیک اعمال کرے اور اس کے نیک اعمال کے پس منظر میں کلمہ شہادت کی رُوح موجود نہ ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ اخلاص نہ ہو اور رسول اللہ کے ساتھ اتباع کی نسبت نہ ہو تو اس عمل کی بھی کوئی حقیقت نہ ہوگی، وہ بھی غیر مقبول ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

اَتْمَا الْاَعْمَالُ بِالْيَتِيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ
 وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يَعْصِيْهَا
 اَوْ اِمْرًا يَّتَّبِعُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ۔ (متفق علیہ)

• اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے، جس شخص نے جو بھی نیت کی اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ چنانچہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اور کوئی شخص اگر دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت کے لیے جس سے وہ نکاح کر رہا ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے اور جس مقصد کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے“

کلمہ شہادت فی الحقیقت دو شہادتوں پر مشتمل ہے:-

۱۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۲۔ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔

یہ دونوں شہادتیں اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ شہادتیں ہیں۔ لیکن ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کی جاسکتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان ایک خاص قسم کی زندگی اور خاص طرزِ سلوک کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ خاص طرز کی زندگی کس طرح سے معلوم ہو، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور آپ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام اور شریعتِ اسلامی عطا کر کے بھیجا۔ ان احکام اور شریعت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا لا الہ الا اللہ کا اصل تقاضا ہے اور محمد رسول اللہ کا یہی مطلب ہے، یعنی محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی اطاعت اس طرح کی جاتے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کر کے دکھائی۔ ہم زندگی اس ڈھب سے گزاریں گے جس ڈھب سے اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی۔

اسی کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ارشاد گرامی ہے :-

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي

أُكْلًا كُلًّا حِينٍ بِأُذُنٍ رَّبِّهَا۔ (ابراہیم: ۲۴-۲۵)

”کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین گہری جی

ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل

دے رہا ہے“

اور یہی وہ کلمہ ہے جو مختصراً ہم یوں ادا کرتے ہیں ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“۔ اسی

کلمہ کے پڑھنے سے ہی انسان دائرۃ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب زبان سے اس کی تصدیق کر

لیتا ہے اور دل سے اس پر یقین کر لیتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور یہی کلمہ دنیا میں اس کی

کامیابی اور آخرت میں اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس پر ایمان اور جس کے ساتھ اخلاص انسان کو کافر سے مومن، جہنمی سے جنتی اور ناکام سے کامیاب بنا دیتا ہے۔ ہاں مطلوب تو یہی ہے کہ پوری زندگی کو اس کلمہ کے رنگ میں رنگ دے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے اور زندگی کا ایک ایک گوشہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزارے۔ اللہ کے تمام احکام پر عمل کرے اور ان تمام باتوں سے باز آجائے جن سے باز آجانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر مخلصانہ ایمان ہوتے ہوئے اگر زندگی میں کچھ عملی کوتاہیاں ہو جائیں تو بھی یہ نغمہ انسان کی اخروی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ دین کی اصل یہی کلمہ طیبہ ہے جو اسے ظلمت سے نور کی طرف اور حزب شیطان سے حزب اللہ کی طرف لے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ
أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ - (درود الشیخان)

جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم پر القا فرمایا اور یہ کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمادیں گے خواہ اس کے عمل کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ (بخاری و مسلم)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَمَدًا لِلَّهِ تَعَالَى الْجَنَّةُ

عَلَى النَّارِ (مخبرہ مسلم وغیرہ)

”جو شخص اس بات کی شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے جسم پر آگ کو حرام فرمادیں گے“

ایک اور حدیث شریف ہے:

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِثْنَتَانِ مُوجِبَتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (راخو جہ مسلم)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دو چیزوں کو واجب
کر دیتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دو چیزیں کن دو چیزوں کو واجب کر دیتی
ہیں؟ آپ نے فرمایا ”وہ شخص جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
ٹھہرا رہا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

نقض الشہادین

[وہ امور جو ایمان کے ختم ہو جانے کا باعث ہیں]

ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہی رہے گا خواہ اس کے کچھ بھی افکار، نظریات اور عقائد کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طرح سے جس شخص نے ایک مرتبہ منہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال لیا تو وہ قیامت تک مومن ہی رہے گا خواہ بعد میں اس کا دل اللہ کی ذات پر ایمان سے خالی ہو جائے اور وہ عملاً اور ذہناً و فکرًا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری نہ سمجھے وہ مومن ہی رہے گا۔ اس کے ایمان میں کبھی نہ زیادتی ہوگی نہ کمی یعنی ایک مرتبہ جو شخص دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا اب خواہ اس کے کچھ ہی عقائد و اعمال ہوں اور زندگی کے مختلف معاملات میں اس کے خواہ کچھ ہی نظریات ہوں اب وہ مومن ہی رہے گا، ایمان میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوگی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان مختلف اسباب کے زیر اثر زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذْ أَنْبَأْتِ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ أَنْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۚ (الأنفال: ۲)

جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں

وہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

جَدَّدُوا إِيمَانَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا قَالَ أَكْثَرُوا مِنْ

قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رُسُلًا مِنْ جِبْرِيلَ (۲/۳۵۹)

”اپنے ایمان کی تجدید کرو“ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کس طرح اپنے ایمان کی تجدید کریں

آپ نے ارشاد فرمایا ”لا الہ الا اللہ“ کہنے (کے ذکر) کی کثرت کیا کرو“

جس طرح سے بعض اسباب و عوامل ایسے ہیں جو ایمان میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اسی طرح سے

بعض اسباب و عوامل ایسے ہیں جو ایمان میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے اور انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو نواقض الایمان

یا نواقض الشہادتین کہتے ہیں۔ ان میں سے چند کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کریں اور اسی پر توکل و

اعتماد رکھیں۔ امور دنیا مادی اسباب کے بغیر بظاہر سرانجام نہیں ہو پاتے، لیکن فی الحقیقت یہ دنیا

مادی اسباب پر قائم نہیں۔ مادی اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے

ہے۔ اصل مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مومن کو عمل کرنے کا

اور اسباب دنیوی و مادی سے استفادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا

ہے کہ وہ ان اسباب پر مطلقاً بھروسہ نہ کرے۔ مومن و کافر میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مومن بھی

مادی اسباب کو استعمال کرتا ہے لیکن کافر مادی اسباب پر بھروسہ رکھتا ہے اور مومن ان اسباب

پر توکل و اعتماد نہیں رکھتا۔ اس کا توکل و اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسباب و

عوامل پر یوں بھروسہ کر لینا کہ ان کی مستقل تاثیر اور طبیعت کا قائل ہو جائے، یہی شرک ہے۔

جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب و

عوامل کو پیدا کیا اور ان کی تاثیرات اور طبیعتیں بھی پیدا فرمائیں، تو اصل سبب تو وہ خود ہوا۔ ہر چیز

پر عمل اور ہر سبب کے پس پر وہ تو وہی کار فرما ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالنَّارُ: ۷۸

”کہہ دو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے“

کافر کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی ایک مستقل تاثیر اور اس کی طبیعت کا قائل ہے بلکہ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانہ و دہر کی طرف سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا عقیدہ موجود ہے:-

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الباقیہ: ۲۴)

”ہم کو تو زمانہ ہلاک کرتا ہے“

اُردو ادب میں بھی ”فلک کج رفتار“ اور ”دہرنا ہنجا“ کی ترکیبات اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ لوگ دہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔
مشرکین عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ جب انہیں خلاف توقع کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو زمانے کی شکایت کیا کرتے تھے اور زمانے کو گالیاں دیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا:

لَا تَسُبُّوا الدَّمْرَ فَإِنَّ الدَّمْرَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى رِوَيْحُ بَخَّارِي وَصِيحُ مُسْلِمٍ

”زمانہ کو گالی مت دو، زمانہ خود اللہ تعالیٰ ہی ہے“

صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور زمانہ کو بُرا کہتا ہے۔ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں شب و روز کا انقلاب کرتا ہوں“
ریح بخاری، تفسیر سورۃ جاثیہ و کتاب الرد علی الجہمیہ، جلد ۲، ص ۱۱۶

اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ اور اس کے اسباب و عوامل اپنے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ تمام اسباب و عوامل کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ کار فرما ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

کہ زمانہ تو نہیں خود ہی ہوں۔ میں ہی سب کچھ کیا کرتا ہوں“

فلک کج رفتار کہنا یا دہر کو ناہنجا کہنا یا فلک نیلی غام کی گردش کو گالیاں دینا، سب جہالت و شرک کی باتیں ہیں جن سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان نے بے وقوفی سے زمانہ، اس کے اسباب و عوامل کی مختلف تاثیر و طبیعت پر یقین کر لیا ہے اور ان سب اشیاء کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ

کو بھول گیا ہے۔

دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتفاق سے رات کو بارش ہوتی صبح کو نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہوئے اور فرمایا "جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟" صحابہ نے عرض کی کہ "خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔" ارشاد ہوا "اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو کر اٹھے اور کچھ کافر ہو کر جنہوں نے کہا کہ خدا کے فضل و رحم سے ہم پر پانی برسنا تو خدا پر ایمان لانے والے ہیں اور ستارہ و نچتر کے انکار کرنے والے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں نچتر اور ستارہ کے اثر سے پانی ہم پر برسا تو وہ خدا کا انکار کرنے والے اور اس ستارہ و نچتر پر ایمان لانے والے ہیں۔" (بخاری، کتاب الاستسقاء)

دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے اس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ قرار دے دیا کہ وہ بارش کے عمل کو ستارے کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ جب فلاں ستارہ فلاں برج میں پہنچ جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔

ایک خوبصورت حکایت ہے کہ بادشاہ محمود غزنوی اپنے وفادار غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا اور اس پر بہت اعتماد رکھتا تھا۔ حاسدین ایاز نے بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں بہت سے انعامات و اکرامات سجا دیئے اور درباریوں کے سامنے یوں کہا کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ملکیت ہو گئی۔ سب درباری اپنی اپنی پسند کی چیز کی طرف لپکے۔ کوئی ہیرے جو اہرات کی طرف، کوئی پوشاکوں کی طرف۔ ایاز نے باواز بلند کہا، بادشاہ اپنے وعدے پر قائم رہنا وہ آگے کو بڑھا اور یہ کہہ کے اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔

مومن اور کافر کا بنیادی فرق یہی ہے جو فرق ایاز اور بادشاہ کے دوسرے درباریوں میں نظر آتا ہے۔ کافر اسباب و اشیاء کی طرف لپکتا ہے اور مومن اسباب و اشیاء کے پیدا کرنے والے کی طرف۔

کسی نے خوب کہا:

کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے

لا اپنا ہاتھ دے میرے دستِ سوال میں

اور امیر مینائی نے کہا:

تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جاتے

سو سوالوں سے بھی ایک سوال اچھا ہے

یہی بات قرآن مجید میں بار بار کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اسباب کا سبب ہے وہی

ذوالقوة المتین ہے۔ قوت و اثر سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اور ان اسباب کو بہم پہنچانے والا بھی

وہی رزاق ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ - (التاریات: ۵۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ ہی مستقل طور پر رزق بہم پہنچانے والا اور مضبوط ذی قوت و

اثر ہے“

صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی اسباب پر

موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح طور پر نفی فرمائی اور کامیابی کو اپنی طرف منسوب کیا نہ کہ

کثرتِ اسباب کی طرف۔ ارشاد ہے:

كَرُمٌ مِّنْ فِئْتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ - (البقرہ: ۲۴۹)

”کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم تھے مگر ان لوگوں پر غالب آگئے جو تعداد میں

زیادہ تھے مگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا“

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - (الأنفال: ۱۰)

”اور نصرت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اسی کی جانب سے آتی ہے“

دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسباب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک غزوہ میں کامیابی کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ مسلمانوں میں اپنے ایمان، جذبہ، شجاعت اور جنگی مہارت پر ناز پیدا ہو چنانچہ انہیں اسباب پر توکل و اعتماد سے بچانے کے لیے فوراً پیش بندی کر دی گئی۔ کثرتِ اسباب تو کیا ان کی شجاعت، ان کے ہتھیار، حتیٰ کہ ان کی ذات کی بھی نفی کر دی گئی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

وَلِيُنزِلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنَاتٍ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ (الانفال: ۱۷)

تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا۔ اور اے محمد جس وقت تم نے

لنکریاں پھینکی تھیں تو تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں

کو اپنے احسانوں سے وہ اچھی طرح آزمائے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے جانتا ہے۔

تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب و عوامل کی مستقل تاثیر کا قائل ہو اور اسباب و عوامل پر

بھروسہ کرے وہ عملاً دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔

۲۔ مطلقاً غیر اللہ کے لیے عمل

کلمہ طیبہ پر ایمان اُس وقت بھی ختم ہو جاتا ہے جب انسان غیر اللہ کے لیے کسی ایسے عمل میں

لگ جاتے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ وجہ ظاہر ہے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ

کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عین عبادت ہے۔ اسی طرح سے وہ عمل جو غیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا

اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل نہ ہو وہ عین شرک ہے۔

مثلاً کوئی شخص خالصتہ قومیت یا وطنیت کے لیے یا خالصتہ انسانیت کے لیے کوئی

کام کرے اور اس میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو یا یہ کام دینِ اسلامی کی عام موافقت

کے دائرے میں نہ ہوں تو یہ کام عین شرک ہوں گے اور نواقضِ ایمان میں شمار ہوں گے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن نہ تو وطن سے محبت کرتا ہے نہ قوم سے، نہ انسانیت سے اور نہ

کسی اور چیز سے۔ اس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہاں وطن اور انسانیت کی محبت اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہو اور تعاضلے مصلحت دین ضعیف ہو تو پھر یہ عین عبادت ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی :

قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ - (الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

”کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے

لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے

پہلا مسلمان ہوں۔“

تو مطلب یہ ہوا کہ قومیت، وطنیت اور حب انسانیت جو کہ کلمہ طیبہ پر ایمان کے تعاضلے

کے تحت نہ آتے ہوں، سب کے سب نعرہ ہاتے مشترک نہ ہیں۔ اسی طرح سے ادب برتے ادب کا

نعرہ یا فرض برائے فرض اور علم برائے علم کا نعرہ یہ سب کے سب خالصتہ شریک ہیں۔

حُبِ وطن، حُبِ قوم، حُبِ انسانیت، ادب، فرض اور علم اگر یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ

کی رضا کے لیے نہیں ہیں تو غیر اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا کسی طاغوت کی خاطر ہیں؟

انسان کی زندگی کا ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خالصتہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کی

خاطر ہونا چاہیے۔ اور ہر وہ چیز جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہٹا کے کسی غیر کی رضا کی طرف لے جاتی

ہے وہ اس کے لیے بدرجہہ منہم ہے۔ یہی بات بعض علمائے نے ان الفاظ میں کہی ہے :

مَنْ شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ صَنَمٌ

”جو چیز تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہی تیرا بت ہے اور تو اس کا پجاری“

مومن کا نعرہ یہ ہے :

إِلٰهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي -

”اے اللہ تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے“

۳۔ غیر اللہ کی اطاعت

نراقض ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے احکام کے برخلاف غیر اللہ کی اطاعت کرے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی میں سے اہم معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و اطاعت کے لائق نہیں۔ دنیا میں مومن جس شخص کی بھی اطاعت کرتا ہے وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کی اطاعت بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

”جو شخص رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی“

اسی طرح سے وہ شخص یا وہ حاکم جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اس کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ۔ (النساء: ۵۹)

”مومنو، خدا اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو“

اور یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل کر کسی بھی غیر اللہ کی تم نے اطاعت کی تو تم دائرہ ایمان سے نکل جاؤ گے اور کفار میں شامل ہو گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا۔

(آل عمران: ۱۰۰)

”اے اہل ایمان اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے

کے بعد کافر بنادیں گے۔

اسی طرح سے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے اوامر و نواہی کی پروا نہ کی اور نہ ان کو ضروری سمجھا بلکہ اپنے ذاتی نظریات و افکار یا اپنی خواہشات کا پابند ہو گیا تو اس میں بھی اس نے اپنی ذات کو اپنا معبود ٹھہرا لیا اور دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَفَدَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَمْلَأَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَ
قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصِيرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔

(الباقیہ: ۲۳)

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو خدا نے بھی اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر ٹھہر گادی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے۔ بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟“

یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمادی:-
لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔

”خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔“

جو اس قاعدہ کلیہ سے منحرف ہو گیا تو کلمہ طیبہ سے اس کا ایمان ختم ہوا۔

۴۔ غیر اللہ کو حاکمیت یا قانون سازی کا حق دے دینا

جو شخص کسی بھی غیر اللہ کو خواہ وہ حکومت ہو یا کسی کی شخصیت یہ حق عطا کر دے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرا دے، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرا دے جس سے چاہے منع کر دے جس کی چاہے اجازت دے دے تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ امر و نہی کا حق اور حاکمیت مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح سے قانون بنانے کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کا ارشاد گرامی ہے۔

آلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَالْاعْرَافُ (۵۴)

”دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے“

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (يُوسُفُ : ۴۰)

”یاد رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت و حاکمیت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے“

اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں :
ایک تو یہ کہ اس میں عبادت کو کسی کی حاکمیت تسلیم کرنے یا کسی کو قانون ساز تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔

دوسرا یہ کہ اکثریت کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ بے علم لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
اب وہ لوگ جو مطلقاً مغربی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت کو حاکمیت کا حق ہے یا اقتدار اعلیٰ عوام کا حق ہے تو وہ اسی زمرے میں شامل ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ قرآن مجید کے اس واضح حکم سے ٹکرا جاتا ہے کہ :

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (يُوسُفُ : ۴۰)

”حاکمیت اور قانون سازی کا حق تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے“

اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل ارشاد پر بھی غور کرنا چاہیے :-

اتَّخَذُوا أَجْنَابَهُمْ رُءُوسًا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ - (التَّوْبَةُ : ۳۱)

”انہوں نے اپنے اجنباء اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنے رب ٹھہرا لیا“

جیسا کہ ہم پہلے تشریح کر چکے ہیں کہ وہ لوگ اپنے علماء اور اجبار کو سجدے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جس بات کو وہ حلال ٹھہراتے اسے یہ بھی حلال قرار دیتے اور جس بات کو وہ حرام قرار دیتے انہیں یہ بھی حرام قرار دیتے یعنی انہوں نے بعض لوگوں کو قانون سازی کا حق دے دیا تھا اور یہی اللہ کے

سوا دوسروں کو رب ٹھہرانا ہے۔

واضح رہے کہ اسلام نظام شوریٰ کی اجازت دیتا ہے مگر اس میں حاکمیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اسلام کسی بھی حالت میں اکثریت عوام کو حاکمیت کا حق نہیں دیتا اور نہ وہ نیک اور فاجر کو ایک ہی مقام پر لاکھڑا کرتا ہے جیسا کہ مغربی جمہوریت میں گدھا اور گھوڑا بالکل برابر ہیں ہر وہ نظام جو غیر اللہ کی حاکمیت کی طرف لے جاتا ہے وہ خالص کفر ہے اس لیے کہ اس میں تشریح اور قانون سازی کا حق غیر اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جس کو غیر اللہ حلال قرار دے دے وہ حلال اور جس کو غیر اللہ حرام قرار دے دے وہ حرام ٹھہرتا ہے اور یہ کفر صریح ہے۔

۵۔ غیر شرعی و غیر اسلامی نظام پر رضامندی :-

وہ شخص جو غیر اسلامی قانون یا غیر اسلامی نظام میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کے جی میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی اور غیر شرعی نظام پر وہ دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ راضی ہے اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کلمہ طیبہ پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔

اسی طرح سے وہ شخص جو کہ اسلامی نظام میں تو زندگی گزارتا ہے لیکن دل ہی دل میں وہ شرعی قوانین کے خلاف گھسٹتا رہتا ہے اور شرعی قوانین کو وہ خلاف عقل سمجھتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ لَّمْ يُجِبْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدہ: ۴۴)

”وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں“

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (النساء: ۶۵)

”اے محمد، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات

میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی

نہ محسوس کریں“

الْعَرْتِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَن يُتَّخَذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ - وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَأِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا - (النساء: ۶۰-۶۱)

• اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس
کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں مگر
چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ حالانکہ
انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھکا کر راہِ راست سے بہت دُور
لے جانا چاہتا ہے اور حیب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور
اُو رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔
تو وہ لوگ جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو صاحبِ ایمان کہلوانے پر
مُصہر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی احکام کے نفاذ پر راضی ہیں اور غیر اسلامی نظام مثلاً سرمایہ دارانہ
نظام، اشتراکیت، بے دینی، الحاد، مادیت وغیرہ پر دل سے راضی ہیں وہ لوگ فی الحقیقت دائرۃ
اسلام سے خارج ہیں۔

اسی طرح سے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہدایت مکمل نہیں ہے اور
اس کے مقابلے میں دیگر نظام ہائے زندگی بہتر یا زیادہ مکمل نظام پیش کرتے ہیں تو وہ شخص بھی بلاشبہ
کافر ہے۔

۶۔ نواقضِ ایمان میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص مجموعی طور پر اسلام کو پسند نہ کرے، یا

اسلام کی کسی ایک چیز کو ناپسند کرے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَسْفَلًا أَعْمَالُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ - (محمد: ۸-۹)

”وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکایا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیتے“

چنانچہ کسی آیت قرآنی کے مضمون یا کسی صحیح حدیث کے مضمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنتِ دقل، عمل یا تقریر کو ناپسند کرنا دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے یا شعا ترا اسلام میں سے کسی چیز کو نشانہ استہزاء بناتے وہ بھی ایمان و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ لَا تَعْبُدُوا مَا كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔

التوبہ: ۶۵-۶۶

”اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب بہانے نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟“ اسی طرح سے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے اور بے ہوش آتے وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔

(المجادات: ۲)

”اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، اپنی آواز نہی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرا یا سب غارت ہو جاتے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو“

۷۔ اسلام کا ظاہر و باطن الگ الگ ماننا

یہ دعویٰ رکھنا بھی انسان کو دائرۃ ایمان سے خارج کر دیتا ہے کہ قرآن و سنت کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر۔ اور اس کا باطن اس کے ظاہر کے برعکس ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ (یس: ۲)

”ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔“

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ۔ (القمر: ۲۲)

”ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت

قبول کرنے والا؟“

وَهَذَا السَّانُّ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ (النمل: ۱۰۳)

”اور یہ صاف اور واضح زبان عربی ہے“

زبان عربی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے قواعد اور مفردات کے اعتبار سے بہت معروف ہے۔ اور گنجلک نہیں ہے۔ جو شخص بھی قرآن و سنت کا فہم حاصل کرے گا وہ عربی زبان کے انہی قواعد اور مفردات کے ذریعے سے کرے گا۔ اور جو شخص اس سے ہٹ کے قرآن و سنت کی تشریح و ترمیم کرنا چاہے گا وہ غیر قرآن اور غیر سنت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور قرآن و سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔

۸۔ اصل توحید سے گھبراہٹ

نواقض شہادتین میں سے یہ بھی ہے کہ عملاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے، یا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی توحید سے گھبراتے اور اسے شرک کی نوعیت میں قرار جان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذْ أذَكَّرْنَا لِلذِّكْرِ وَحَدَّثْنَا شِمَازَاتِ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ - (الزمر: ۴۵)

”جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے

ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض واقعات کی توجیہ کرتے ہوئے یوں کہا جاتے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بعض لوگ چین بچیں ہوتے ہیں۔ وہ یا تو دنیوی اسباب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا ان واقعات کی نسبت اولیاء اللہ اور اصحابِ قبور کی طرف کرتے ہیں۔

وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطے ٹھہراتے اور ان واسطوں سے براہِ راست دُعا کرے اور ان پر بھروسہ کرے وہ اللہ سے شرک کرنے والا ہے اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح سے جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا غیر اللہ کے لیے رکوع و سجود کرے یا بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کا سا طواف کرے یا غیر اللہ کے لیے نذر مانے یا غیر اللہ کی قسم کھائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَبِذَلِكَ أُمِّدْتُ ۝ (الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

”کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنے اللہ رب العالمین کے

لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔“

۹۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محرومی

انسان دعوائے ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان سے خارج ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بالکل ہی کورا ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات افعال اور حقوق میں سے کسی کا انکار کرتا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف کوئی نقص اور خرابی محمول کریں اور اس بات کی معرفت نہ رکھتے ہوں کہ کمالِ اصلی صرف اسی کو زیبا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کے فعل کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج: ۷۴)

”ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے

کہ قوت و عزت والا تو صرف اللہ ہی ہے“

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (الزمر: ۱۵)

”یہ سب کچھ جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے بھی، ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا

جزو بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے“

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (المائدہ: ۷۳)

ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے“

اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نہ ہونا ہی شرک باللہ کا اصل سبب ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ

کے اسم و صفات اور اس کے کمال و افعال اور حقوق سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ

باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کی ذات کے لائق نہیں ہوتیں۔ یا اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے کسی کے ساتھ

تشبیہ دیتا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا جزو ٹھہرا دیتا ہے اور غیر اللہ کو یوں پکارنے لگتا

ہے گویا کہ اسے نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا

كَبَابٍ مُنْقَلَبٍ إِلَى السَّمَاءِ لِيَبْلُغَ نَأْيَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي

مَنْحَلٍ (الرعد: ۱۴)

”اسی کو پکارنا برحق ہے۔ وہ دوسری بستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں

وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی

کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرنے کہ میرے منہ تک پہنچ جا۔ حالانکہ پانی اس تک

پہنچنے والا نہیں پس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے ہی ہوتے۔“

۱۔ رسول اللہ کی صحیح معرفت کے محرومی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت کا نہ ہونا بھی نواقض ایمان میں سے ہے۔ بلکہ انسان اس وقت تک دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی صفیتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں وہ ان سے سلب کر لیتے ہیں اور اپنے خیال میں ان صفات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ اور کچھ لوگ حضور کو بشر قرار دینا ان کی شان میں گستاخی قرار دیتے ہیں۔

اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیم، افکار و نظریات دورِ حاضر میں زیادہ مناسب اور زیادہ کامل ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاغوت کے حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں۔ یا یوں کہتے ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے یا اس دور کے لیے نبی تھے۔ کچھ لوگ دوسری طرف یوں انتہا میں گم ہو جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور آپ کی بشریت اور عبدیت سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب کی سب صریح کفر کی باتیں ہیں۔ جن لوگوں میں یہ باتیں پاتی جاتیں وہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (الاحزاب: ۲۱)

”تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ عمل ہے“

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (الانبیاء: ۱۰۷)

”ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے سدا پناہ رحمت بنا کے بھیجا ہے“

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا: ۲۸)

”ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے

بھیجا ہے۔

اسی طرح سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ کسی دوسرے کی دعویٰ کردہ نبوت کی پیروی شروع کر دے وہ بھی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ - (الاحزاب: ۴۰)

”مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔“

۱۱۔ دین کا عملاً ترک کرنا

وہ شخص جو اللہ کے دین سے عملاً منہ موڑ لیتا ہے نہ دین کا علم حاصل کرتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اپنے مستقبل میں دین سیکھنے سکھانے یا اس پر عمل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتا وہ فی الواقع مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

مُنْتَقِمُونَ - (السجده: ۲۲)

”اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جس کے سامنے اس کے پروردگار کی آیات کا ذکر کیا جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ بے شک ہم لوگ مجرم لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں“

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا -

(الفرقان: ۳۰)

”اور قیامت کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار!

یہ ہیں میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فَمَنْ تَرَكَمَا فَقَدْ كَفَرَ بِالنَّاسِ، (صلاة: ۸)

”جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا“

اسی قسم کی وعید زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ بالکل اسی طرح کی وعید حج اور جہاد چھوڑنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ مسلمانان کے ساتھ جنگ کریں۔

۱۲۔ کفار و مشرکین سے تعاون

جو شخص مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کی امداد کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ^{حقیقت} دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔

(المائدہ: ۵۱)

”اور تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا رفیق بنا تا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔“

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيَّتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔

(النساء: ۱۳۸-۱۳۹)

”اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو رفیق بناتے ہیں ان کو مردہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جلتے ہیں حالانکہ عزت ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔“

تو ظاہر ہوا کہ مومنین کے لیے دل میں محبت کا نہ ہونا اور کفار کے لیے دل میں محبت و عظمت کا ہونا ایمان کی نہیں بلکہ کفر کی دلیل ہے۔

۲۔ مسلمانوں کی تکفیر یا کفار کی عدم تکفیر

جو شخص مشرکین کو کافر نہ قرار دے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار

دے اور اس کے برعکس اہل ایمان کو کافر ٹھہراتے اور ان کے ساتھ جنگ کو جائز قرار دے وہ بھی
دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اصولی بات یہ ہے کہ کفر کو کفر نہ قرار دینا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے
کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن صادق کو کافر قرار دینا بھی کفر ہے۔ اس لیے کہ اس میں
نفس ایمان پھین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَرِيْمُ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوْ بِالْكَفْرِ إِلَّا أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ كَفَرْتُمْ صَاحِبُهُ
كَذَلِكَ - (اخرجہ البخاری)

مکوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کا الزام نہ لگائے۔ اگر یہ الزام غلط ہوا تو خود
الزام لگانے والے پر ہی لوٹ آتے گا۔

وَإِخْرُجُوا نَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ



۱۷ سعید حموی، اللہ جل جلالہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۹۷۹ء

۱۸ دائرۃ المعارف اُردو، پنجاب یونیورسٹی - لاہور

19. Fern, Vergilius History of Philosophical Systems,
Ames, IOWA, Lilve field, Adams & CO. 1950
20. Halepota, A. J. Dr. Philosophy of Shah Wali Ulah, Lahore,
Sind Sagar Academy.
21. Iqbal, Muhammad, Dr. Reconstruction of Religious Thought
in Islam, Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1950.



فہرست تصانیف ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

اردو تصانیف

- ۱۔ وجودِ باری تعالیٰ اور توحید
- ۲۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں اسلام اور محمد ﷺ پر بتانات
- ۳۔ خطباتِ حرم
- ۴۔ تلاوتِ قرآن (باترجمہ) کی اہمیت
- ۵۔ اختصاصاتِ اسلام
- ۶۔ قومی تشخص
- ۷۔ فہم القرآن
- ۸۔ اقبال کا فلسفہ تعمیر ملت
- ۹۔ صراطِ مستقیم
- ۱۰۔ ازکار نبویہ
- ۱۱۔ ۱۲۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مابعد الطبیعات
- ۱۲۔ خطابِ یومِ پاکستان

عربی تصانیف

- ۱۔ وجود اللہ سبحانہ والتوحید
- ۲۔ دائرۃ المعارف البریطانیہ بین الجمل والتفصیل
- ۳۔ تبصرۃ و ذکر

انگریزی تصانیف

1. Existence of God and Monotheism
2. Encyclopaedia Britannica Between Ignorance and Dishonesty
3. Research Papers on Socio-Economic System of Islam

4. Islam—Its Rationale

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا

میں

سِلام اور محمد ^{صلی اللہ علیہ وسلم} پر ہتھیانا

جہالت اور بغض پر مبنی ۲۴ الزامات اور غلط بیانیوں کا مدلل جواب



پروفیسر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ (پی ایچ ڈی)

استاد ثقافت اسلامیہ و صدر شعبہ ترجمہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ



ناشر

ڈاکٹر مرتضیٰ ایچو کیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

جس کو حکمت ملی، اُسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی

شاہ ولی اللہ کا فلسفہ

(مابعد الطبیعات)

حقیقتِ کائنات ۝ خدا اور انسان



پروفیسر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

نائب رئیس و صدر شعبہ علوم الشریعہ والقضاء الشرعی
اسلامک اکیڈمی فارمانس اینڈ ٹیکنالوجی، حیات آباد، پشاور



ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

خطباتِ حرم

حرمِ مدینہ مسجد نبویؐ میں درس و تقاریر و دیگر علمی مقالات



مؤلف

پروفیسر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

نائب رئیس، اسلامک اکیڈمی برائے
سائنس و ٹیکنالوجی ○ پشاور

شائع کردہ:

ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل کیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

ڈاکٹر ملک غلام مرصی

چیئر مین تحریک "آؤ قرآن کی طرف"
سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

ڈاکٹر ملک غلام مرصی

چیئر مین تحریک "آؤ قرآن کی طرف"

سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ

اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

اسلام کی چار بنیادیں



اسلام کا ایک جامع مگر مختصر تعارف۔

عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات

کی دیگر کتب

زیر طبع	محسن اعظم	500	تفسیر انوار القرآن (جلد اول دوم)
زیر طبع	ہادی اعظم	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۱)
زیر طبع	انوار القرآن (انگریزی تفسیر دو حصے)	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۲)
زیر طبع	ضابطہ حیات	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۳)
زیر طبع	محسن عالم	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۴)
زیر طبع	آخر کیوں؟	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۵)
زیر طبع	رہبر کامل	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۶)
زیر طبع	صراطِ مستقیم	زیر طبع	قرآن آسان
زیر طبع	دُعائیں ہی دُعائیں	60	اسلام کی چار بنیادیں
زیر طبع	نعتوں کا مجموعہ	140	خطباتِ حرم
زیر طبع	اعترافِ خدمات	140	وجودِ باری تعالیٰ اور توحید
زیر طبع	جن جادو اور انسان	زیر طبع	شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مابعد الطبیعیات
زیر طبع	لسانِ العربی	زیر طبع	اسلام اور محمد پر بہتانات

ڈاکٹر مرصی ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور

ملنے کا پتہ: جہانگیر بک ڈپو، اردو بازار لاہور

ڈاکٹر ملک غلام مرسی

چیمبرین تحریک "آؤ قرآن کی طرف"
سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

ڈاکٹر ملک غلام مرسی

چیمبرین تحریک "آؤ قرآن کی طرف"

سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ

اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ

اسلام کی چار بنیادیں



اسلام کا ایک جامع مگر مختصر تعارف۔

عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات

کی دیگر کتب

زیر طبع	محسن اعظم	500	تفسیر انوار القرآن (جلد اول دوم)
زیر طبع	ہادی اعظم	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۱)
زیر طبع	انوار القرآن (انگریزی تفسیر دو حصے)	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۲)
زیر طبع	ضابطہ حیات	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۳)
زیر طبع	محسن عالم	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۴)
زیر طبع	آخر کیوں؟	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۵)
زیر طبع	رہبر کامل	75	نور الہدیٰ (مکمل تفسیر قرآن پارہ ۶)
زیر طبع	صراطِ مستقیم	زیر طبع	قرآن آسان
زیر طبع	دُعائیں ہی دُعائیں	60	اسلام کی چار بنیادیں
زیر طبع	نعتوں کا مجموعہ	140	خطباتِ حرم
زیر طبع	اعترافِ خدمات	140	وجودِ باری تعالیٰ اور توحید
زیر طبع	جن جادو اور انسان	زیر طبع	شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ما بعد الطبیعات
زیر طبع	لسانِ العربی	زیر طبع	اسلام اور محمد پر بہتانات

ڈاکٹر مرسی ایجوکیشنل ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

16-A1 ٹاؤن شپ، لاہور


ملنے کا پتہ: جہانگیر بک ڈپو، اردو بازار لاہور۔

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

چیرمین تحریک ”آؤ قرآن کی طرف“
سابق اسٹنٹ پروفیسر و صدر شعبہ ترجمہ
اسلامک یونیورسٹی، مدینہ منورہ



وجودِ باری تعالیٰ اور توحید



کائنات کے بارے میں جدید سائنسی تصور اور اثبات توحید
خالق کائنات، نظام کائنات، دلائل عقلیہ، استدلال قرآنی، کائنات کا تصور جدید، دلائل متفرق، التوحید